

مقصد حسین



تأليف
مولانا محمد اسحاق عطار




سلطان العلماء اکیڈمی

مقصد حسین

مولانا محمد اسحاق عطار

سلطان العلماء
اکیڈمی



سلطان العلماء اکیڈمی
میری کتب خانہ، دہلی، پاکستان

فہرست

17	مقصود حسین - احیاء خلافت راشدہ	1
24	تسلط کو بھی جائز قرار دے دیا گیا	2
38	مقام و شان و ایمان صحابہ رضی اللہ عنہم	3
44	صحابہ معصوم نہیں	4
45	صحابہ کھلم بھول کا معنی	5
49	صحابہ سے گناہ سرزد ہوتا	6
50	حدیث خیر القرون کی وضاحت	7
51	صحابہ میں ہر قسم کے لوگ شامل تھے	8
53	کیا مشاہرات صحابہ بیان کرنا منع ہے	9
56	تذنیہ صوبت	10
57	خلافت راشدہ اور اس کی خصوصیات	11
58	خلافت 30 سال تک ہے	12
61	خلافت و ملکیت کا فرق	13
62	تکبیر کا آغاز	14
69	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور	15
72	انتخاب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وضاحت	16
76	سلسلوں کا سب سے پہلا فرض	17
86	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں ایک گروہ کا منظم ہو جانا	18
90	نصرت الشوری	19
97	دور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ	20
135	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے دو اہم کردار	21
135	نعم بن العاص	22

إِنْ كَانَ ذَنْبِي حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ
فَذَلِكَ ذَنْبٌ لَسْتُ عَنْهُ أَتُوبُ

گزرے ہیں اس جہان میں ایسے بھی کچھ شہید
مقتول تا ابد رہا قاتل نہیں رہا

449	سیدنا امام حسین اور واقعہ کربلا	48
456	کربلا۔ دین یا اقتدار کی جنگ	49
459	واقعہ کربلا کی اہمیت	50
465	کوفہ بلانے والے کون تھے	51
474	ہاشمی کون؟	22
478	شان اہل بیت علیہم السلام	53
493	کربلا کی کہانی امام باقر علیہ السلام کی زبانی۔ ایک افسانہ	54
497	حضرت امام کی مدینہ سے مکہ روانگی	55
498	مکہ سے کربلا کو روانگی	56
504	عمر بن سعد	57
519	بعد از شہادت حسین علیہ السلام	58
527	ابن زیاد بن الحکم کا انجام	59
532	محبان اہل بیت علیہم السلام کی خدمت میں	60
537	توابون	61
540	عقار ثقفی کا انتقام	62
540	عبداللہ بن زبیر علیہ السلام کی شہادت	63
544	بنو مروان کے مظالم	64
544	عبداللہ بن عمر علیہ السلام کا قتل	65
546	خانہ کعبہ پر حملہ	66
548	تجانب بن یوسف	67
556	ابن خانہ ہمسایہ قاتل	68

141	مروان بن حکم بن العاص	23
147	مروان کے بارے میں علمائے اسلام کی رائے	24
165	حضرت علی علیہ السلام کا انتخاب	25
173	سب علی علیہ السلام	26
189	تداول قرآن پر جنگ	27
195	جنگ جمل	28
199	جنگ ملین	29
220	جنگ نہروان	30
233	شہادت علی	31
240	صلح امام حسن	32
261	دور امیر معاویہ	33
276	اولیات امیر معاویہ	34
307	حسین علیہ السلام نے 20 سال فری و بندگی کی	35
323	حضرت عمر بن عبدالمطلب کا قتل	36
332	یزید کی ولی عہدی	37
346	اسلام کا طریقہ بیعت	38
347	امیر معاویہ کی پالیسی پر علمائے اسلام کی رائے	39
363	دور یزید بن معاویہ	40
368	خانہ کعبہ پر حملہ	41
374	مدینہ پر حملہ۔ واقعہ 70	42
387	یزید کے بارے میں علمائے اسلام کی رائے	43
430	یزید اور جنگ لکھنؤ۔ جنگ قسطنطنیہ	44
436	کربلا بدر کا بدلہ ہے	45
437	مقام یزید احادیث کی روشنی میں	46
441	ابن زیاد	47

محقق العصر مولانا محمد اسحاق علیہ السلام

فیصل آباد کے علمی حلقوں میں جس عظیم المرتبت عالم دین کے علم و تحقیق شہرہ ہے اسے لوگ مفتی محمد اسحاق کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کی ذہانت و فطانت و وسعت مطالعہ تحقیق، مسائل میں درک علم دوستی اخلاص، نیکی اور اسلام کے لئے بے پناہ تڑپ کے چرچے زبان زد عام ہیں۔ بلاشبہ انہوں نے اپنی تحقیق اور علم سے راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراطِ مستقیم دکھائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شخصیت اس دورِ ظلمت میں مرجعِ خلافت ہے، لوگ دقیق سے دقیق مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی علمی و عملی خوبیوں اور اوصاف و کمالات سے نوازا ہے، ان کے علم اور تحقیق کے اپنے پرانے سب معترف ہیں۔

مولانا صاحب کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ جس بات کو حق سمجھتے ہیں اس کا اظہار لومۃ لائم کی پرواہ کئے بغیر کر دیتے ہیں۔ میں اس ناخبرہ روزگارِ عالم دین سے چودہ پندرہ سال سے دوستانہ اور نیاز مندانہ تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے جب بھی ان کے باب علمی پر دستک دی ان کو مطالعہ اور تحقیق میں مستغرق پایا۔ اس نفسا نفسی کے دور میں جب کہ ہر انسان دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور اس فتنہ میں علماء کی جماعت بھی جتلا رہا ہے ان کے پاس عوام کے لئے کچھ وقت نہیں ہے مولانا اسحاق صاحب ہی ہیں کہ جو ہمہ وقت لوگوں کو مسائل بتانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں اور جو جتنا مشکل سوال پوچھتا ہے اتنا ہی خوش ہوتے ہیں۔

ان کے خطبات جمعہ اور دروس کے اجتماع میں ایک جم غفیر ہوتا ہے جو ان کے ارشادات عالیہ سے مستفید و مستفیض ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بحر علمی اور اخلاقِ حسنہ

سے لوگوں کے قلب و ذہن پر اہل نقوش ثبت کئے ہیں۔ آئندہ سطور میں ہم اپنے مشاہدے سے مولانا محترم کے متعلق کچھ باتیں قارئین کی نظر کریں گے، ہو سکتا ہے کسی دوست کی طبع نازک پر یہ گفتگو ناگوار گزرے۔ غالب کے الفاظ میں

غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے
ایسا بھی کوئی ہے سب اچھا کہیں جسے

ہمارے ممدوح حضرت مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب 15 جون 1935ء کو چک نمبر 116/ج۔ب رڑاٹاہلی (چک جھمرہ ضلع فیصل آباد) میں پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام منشی اور دادا کا اسم گرامی رانجھا ہے۔ انہیں برادری سے تعلق ہے۔ سکول کی ابتدائی تعلیم پرائمری تک قریبی گاؤں دیال گڑھ میں حاصل کی اور میٹرک چک جھمرہ کے ہائی سکول سے کیا۔ جب کہ ایف اے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے کیا شروع سے ہی تعلیم میں تیز تھے۔ ذہن اخاذ اور رسا پایا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتوں سے خوب بہرہ ور کیا تھا جو پڑھتے ذہن نشین ہو جاتا، سکول کے زمانہ ہی میں انہوں نے دینی تعلیم کی طرف عنان توجہ مبذول کی اور گاؤں ہی کے ایک نیک طینت انسان مولوی نور محمد سے صرف نحو کی کتب سیکھا پڑھیں پھر کچھ کتب منطق، فلسفہ اور دیگر فنون کی کتب چک جھمرہ میں مولانا امداد الحق صاحب سے پڑھیں۔ ان اساتذہ کرام نے مولانا صاحب کو ابتدائی گائیڈ لائن دے دی اس کے بعد مولانا صاحب نے از خود اپنے طور پر عربی زبان و ادب اور فارسی میں مہارت حاصل کی اور دینی علوم کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ان کی رسائی اصل عربی کتب اور مآخذ تک ہوئی تو یہ تحقیقی میدان میں آن وارد ہوئے، وہ دن اور آج کا دن انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔

عرصہ دراز تک مولانا گاؤں کی مسجد میں جمعہ پڑھاتے رہے، انہوں نے بڑی گہری نظر سے اسلام کا مطالعہ کیا، اسلامی علوم و فنون پر دسترس حاصل کی اور بلا تفریق تمام مسالک فقہی کے علاوہ عیسائیت، یہودیت، قادیانیت وغیرہ کا گہری نظر سے مطالعہ کر کے ان کے

مذہب سے متعلق معلومات حاصل کیں اور مناظرہ اور مباحثہ سے ان باطل فرقوں کا علمی طور سے مقابلہ کیا۔

1983ء تک وہ گاؤں میں ہی رہے۔ 16 جولائی 1983ء کو فیصل آباد کے عظیم عالم دین محدث عالی قدر حضرت مولانا محمد عبداللہ جمال والے جدہ میں حرکت قلب بند ہو جانے سے اچانک وفات پا گئے۔ وہ علم کا بحر ذخار تھے۔ ان میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک داعی اور عالم دین میں ہونے چاہئیں۔ ان کی وفات کے بعد جامع مسجد کریمہ (محلہ جیلانی پورہ ستیانہ روڈ فیصل آباد) کے متولی میاں عبدالواحد صاحب کو کسی ایسے عالم دین کی تلاش تھی جو مولانا کی جگہ پر کر سکے، اس کا علم بھی پختہ ہو عمل میں بھی مثالی ہو اور جو لوگوں کو خطبہ جمعہ اور درس میں صحیح اسلامی مسائل بتائے۔ اب نظر انتخاب پڑی تو انہوں نے مولانا اسحاق صاحب کو مسجد کریمہ کے منبر پر لا بٹھایا۔

مسجد کریمہ میاں عبدالواحد پاور لومڑ والے اور ان کے بڑے بھائی میاں محمد یوسف مرحوم نے 1962ء کے قریب تعمیر کی تھی اور انہوں نے اس وقت مولانا عبداللہ محدث جمال خانو آنہ کو اس مسجد کا خطیب مقرر کیا تھا۔ مولانا جس پائے کے عالم تھے احباب جاننے ہی ہیں انہوں نے اس مسجد کی آباد کاری خون جگر سے کی۔

مسجد کریمہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ادارہ علوم اثریہ منگمری بازار کا آغاز مولانا عبداللہ صاحب نے اپنے رفیق خاص مولانا اسحاق چیمہ مرحوم کے ساتھ مل کر اسی مسجد کے حجرے میں کیا تھا اور مسجد کریمہ میں اس دور میں بڑے بڑے شیوخ اور علمی شخصیات جلوہ افروز ہوتی تھیں ان حضرات علماء کرام کے نام یہ ہیں حضرت الامام عبدالستار محدث دہلوی کراچی امام جماعت غرباء اہل حدیث متوفی 1966ء مولانا عبدالخلیل جھنگوی متوفی جون 1976ء میاں محمد باقر، پروفیسر سید ابوبکر غزنوی، مولانا عطاء اللہ حنیف، مولانا محمد حنیف ندوی، مولانا محمد اسحاق بھٹی، حضرت مولانا صوفی عبداللہ ماموں کالجی والے، مفتی عبدالقہار سلفی کراچی، مولانا عبدالغفار سلفی کراچی، مولانا عبدالرحمن سلفی امیر جماعت غرباء

اہل حدیث کراچی۔

مولانا اسحاق صاحب جب گاؤں سے نکل کر فیصل آباد آ گئے اور مسجد کریمہ کے منبر پر انہوں نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو ان کی شہرت دور تک پھیل گئی لوگ ان کے مواعظ عالیہ سے متاثر ہوئے اور انہوں نے مولانا کے خطبات جمعہ اور دروس القرآن میں شریک ہونا شروع کر دیا۔ مولانا صاحب 1983ء کے آخر میں مسجد کریمہ میں آئے تھے آج یہ سطور لکھی جا رہی ہیں، 28 سال کا طویل عرصہ انہیں یہاں خطبہ جمعہ دیتے ہوئے گزر چکا ہے، ان کی تبلیغی مساعی کے اثرات واضح دکھائی دیتے ہیں۔

مولانا بہت پیارے اسلوب میں اپنی بات کو سامعین کے گوش گزار کرتے ہیں۔ خوش گفتار اور نرم مزاج خطیب ہیں دعوت و تبلیغ کے اصول و ضوابط سے پوری طرح آگاہ ہیں حکمت سے گفتگو کرتے اور سلیقے سے اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں۔ ان کا خطبہ جمعہ سننے کے لئے بڑے بڑے اسکالرز، پروفیسر اور بڑے لکھے لوگ آتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ان کے خطبات جمعہ سے متاثر ہو کر اپنے عقائد کی اصلاح کی اور وہ نمازی روزہ دار اور سنت کے پابند ہوئے۔

مولانا اسحاق صاحب میں بہت سی خوبیاں ہیں۔ ایک خوبی جو ہزار خوبیوں سے بڑھ کر ہے وہ یہ کہ مطالعہ کے اذ حدریا ہیں بڑی سے بڑی کتاب بھی بالاستیعاب چند روز میں پڑھ لیتے تھے ان کی لائبریری قرآنی تفاسیر، حدیث، رجال، فقہ، فتاویٰ، سیرۃ النبی اور مختلف مسائل پر ہزاروں تحقیقی کتابوں سے آراستہ ہے اور ان سب کتب پر انہوں نے اپنے مخصوص انداز سے نشان لگا رکھے ہیں۔ سربلح حفظ ہیں، کوئی مسئلہ پوچھ لیں فوراً کتاب نکال کر حوالہ دکھا دیں گے۔ ان کی لائبریری میں زیادہ کتب عربی کی ہیں، اردو نہ ہونے کے برابر ہیں علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی تحقیق اور کتابوں کے بڑے شائق ہیں۔ ان کا اوڑھنا بچھونا علم ہے، اہل علم اور طلبہ سے بڑی شفقت فرماتے ہیں۔ کتابیں ہمیشہ خرید کر پڑھتے ہیں اور دوسروں کو مطالعہ کی توجہ دلاتے ہیں۔ ان کی محفل خالص علمی ہوتی ہے اس سے علم کے طالب حظ وافر اٹھاتے ہیں۔

مولانا محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ جہاں بلند پایہ محقق اور فصیح اللسان خطیب ہیں وہیں وہ اچھے مناظر اور متکلم بھی ہیں۔ گفتگو کا سلیقہ خوب جانتے ہیں حدیث اور رجال پر نظر گہری ہے۔ مخالف کی دلیل کا جواب حاضر جوابی سے دے کر اسے خاموش کرانا جانتے ہیں۔ اب تک وہ کئی مناظرین سے اچھی اور کامیاب گفتگو کر چکے ہیں۔ ختم نبوت کے متعلق بڑے حساس ہیں اور قادیانیوں کو آڑھے ہاتھوں لیتے ہیں۔

ایک بار محلہ مصطفیٰ آباد میں مرزائیوں کے مربی سے حیات مسیح پر گفتگو ہوئی مربی نے کتاب البریہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مرچکے ہیں مولانا محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ نے اصل کتاب کا حوالہ دکھا کر فوراً ثابت کیا کہ مرزائی مربی نے جھوٹ بولا ہے اور اس کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ امام صاحب اور ان کے شاگرد نے کہیں بھی نہیں کہا۔ مولانا نے مرزائی مربی کی ایسی گرفت کی کہ اسے منہ کی کھانی پڑی۔ ایک بار مولانا محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ ربوہ چلے گئے اور مرزائیوں کے مربی ہشرا احمد کالہوں سے حیات مسیح پر کامیاب گفتگو کی اور ایسے دلائل دیئے کہ وہ لا جواب ہو گیا۔

بلاشبہ مولانا محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ کا مطالعہ بہت وسیع ہے انہوں نے ہر مذہب کا گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے میرے ایک دوست ہیں پروفیسر ساجد اسد اللہ سمندری کالج میں پڑھاتے ہیں وہ مولانا عطاء اللہ شہید (متوفی 1947ء) کے پوتے مولانا داؤد صاحب سمندری والے کے بیٹے حافظ سلیمان صاحب کے بھتیجے اور ڈاکٹر خالد ظفر اللہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ عیسائیت کے موضوع پر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے انہیں عیسائیت کے متعلق ایک مسئلہ میں اشکال پیدا ہوا بڑے بڑے اہل علم کی طرف رجوع کیا لیکن مسئلہ حل نہ ہوا۔ آخر وہ مولانا محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے مولانا نے سوال سنتے ہی اپنے وسعت مطالعہ سے فوراً مسئلہ کا شافی جواب دے کر ساجد صاحب کی مطمئن کر دیا۔

مولانا محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ کا جس قدر علم اور مطالعہ وسیع ہے اتنا ہی ان کا ظرف بھی وسیع ہے۔ وہ نہایت خلیق منہار مہمان نواز اور عجز و انکساری کا پیکر ہیں۔

مولانا محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ بڑے عاجز اور صابر عالم دین ہیں، دوسروں کی ستم نظریوں کے باوجود ان سے خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، اپنے سے بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت فرماتے ہیں۔ ہر کسی کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، رقیق القلب ہیں، ضرورت مندوں کی مدد اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ وحدت امت کے داعی ہیں، اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت ہے۔ میری خوش بختی کہ اس عاجز کے مشفق و مہربان ہیں۔

مولانا محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ خالص علمی و تحقیقی آدمی ہیں ہمہ وقت پڑھتے رہتے ہیں تصنیف کی طرف زیادہ توجہ نہیں دے سکے البتہ ان کے بعض علمی خطبات جو زیور طباعت سے آراستہ ہو چکے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے۔

(۱) وحدت امت مولانا کا یہ رسالہ اتحاد و اتفاق کے مسائل پر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے امت مسلمہ کے افراد کو یہ دعوت دی ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے ناطے بھائی بھائی بن کر رہیں اور خواہ مخواہ ایک دوسرے کی تکفیر نہ کریں اپنے موقف کی تائید میں انہوں نے ہر مسلک کی کتابوں سے دلائل دیئے ہیں۔

(۲) لبیک یہ کتابچہ مولانا کے خطبہ جمعہ پر مشتمل ہے اس میں لفظ لبیک کی تشریح و توضیح کی گئی ہے۔

(۳) صداقت قرآن اس رسالہ میں غیر مسلموں کے قرآن مجید پر اعتراضات کے جوابات دیئے گئے ہیں اور قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔

حافظ محمد رمضان یوسف سلمی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

احیاء خلافت راشدہ

مرے کدو کو غنیمت سمجھ کہ بادۂ ناب
نہ مدرسہ میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے

جناب سید عالم فریبنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی سائر الانبیاء والمرسلین کا اصل کارنامہ یہ نہیں کہ آپ ﷺ نے اللہ کی پوجا کرنے والے کچھ درویش پیدا کئے۔ یہ کام اس سے پہلے بھی راہب لوگ کرتے رہے۔ وہ دنیا چھوڑ کر غاروں میں چلے جاتے تھے۔ مگر اللہ کے رسول ﷺ اس لیے نہیں آئے تھے۔ آپ ﷺ نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ دنیا میں حکومت الہیہ قائم کی اور ایک ایسی حکومت سے لوگوں کو روشناس کرایا، جس سے لوگ پہلے متعارف نہیں تھے۔

لوگ جانتے تھے کہ جو حکومت کرتے ہیں وہ بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے مملات ہوتے ہیں، ریشمی فرش بچھے ہوتے ہیں، پہرے دارے ہوتے ہیں، وہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں، ہر ماہ لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں اور ملکی خزانہ ان کی ذاتی جاگیر ہوتی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے آ کر دنیا میں وہ کارنامہ سرانجام دیا کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آپ ﷺ نے بادشاہت کو ختم کیا اور خلافت کو قائم کیا۔ آپ ﷺ نے ایسے لوگ پیدا

کئے کہ سفیر روم جب خلیفہ المسلمین حضرت عمرؓ سے ملنے آیا تو آپ اس وقت بیت المال کے اونٹ جرانے گئے ہوئے تھے۔ وہ وہاں چلا گیا تو دیکھا کہ تپتی دوپہر میں گرم ریت پر لیٹے ہیں اور بار دوسرے ہانے رکھے سو رہے ہیں۔ وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیسا حکمران ہے؟ کہ جس کا کوئی پہرہ دار نہیں، کوئی دربان نہیں! لیکن ہمارے بادشاہ اس کا نام سن کر کانپتے ہیں۔ جب اس نے کہا کہ آپ اونٹ چرانے کیلئے کسی غلام کو بھیج دیتے تو فرمایا ”حکومت کا بوجھ تو میں نے اٹھایا ہوا ہے اس کا حساب بھی میں نے ہی دینا ہے تو پھر غلام کو کیوں بھیج دیتا۔“

یہ نقشہ اس کائنات میں لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ خود جناب سرور کائنات ﷺ جن سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کوئی وجود پیدا نہیں کیا اور نہ ان جیسا کوئی اور آئے گا، اپنے لیے کوئی امتیاز نہیں چاہتے تھے، نہ کوئی الگ مسجد تھی بلکہ عام نمازیوں میں مل کر بیٹھے ہوتے تھے۔ اگر کوئی نو وارد آتا تو اسے پوچھنا پڑتا کہ تم میں سے اللہ کا رسول کون ہے؟ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اس بات کو بھی پسند نہ فرمایا کہ تشریف آوری پر لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جایا کریں۔

یہ نظارہ بھی اس دنیائے دیکھا کہ خلیفہ المسلمین حضرت عمرؓ جمعہ کیلئے دیر سے آئیں اور لوگ کہیں کہ امیر المؤمنین! آپ نے ہمیں پریشان کیا۔ فرمایا گرتا دھو کر سکھانے میں دیر ہوگئی۔ اگر اس کے سوا کوئی اور گرتا ہوتا تو میں اسے دھونے کے لیے دے آتا اور وہ پہن کر آ جاتا۔ میرے پاس یہی ایک گرتا ہے، لوگوں نے دیکھا کہ اس گرتے پر بھی آٹھ پیوند لگے ہوئے تھے۔

یہ ہے وہ کارنامہ رسالت! جو کوئی اور کر کے دکھائیں سکا۔ نمازیں پڑھنے والے، ریاضت کرنے والے، خشک عبادت گزار اور جوگی بہت ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایسی ایسی عبادت کی ہماری عبادت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، مگر سب بیکار ہے۔ مزا تو تب ہے کہ تم حکمران ہو، خزانے تمہارے قدموں میں ہوں، فوجیں تمہارے اشارہ کی منتظر ہوں، مگر تم پھر بھی یہ سمجھو کہ میں بادشاہ نہیں ہوں کہ جو جی چاہے کروں بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کا نائب

ہوں، وہاں سے حکم تو آئے گا، میں تو صرف نافذ کرنے والا ہوں۔ میں مسلمان امت کا خادم ہوں اور ان کے نمائندہ کے طور پر ان کے مشورہ کے بغیر کچھ نہیں کروں گا۔ یہ وہ اعلیٰ نظام تھا جو رسول اکرم ﷺ نے دنیا کو دیا مگر ہماری بد قسمتی کہ وہ خلافت اپنا رستہ بھول گئی اور پہلی صدی کے مسلمانوں کو ہی بادشاہت سکھادی۔ وہی محل بن گئے، ریشمی فرش بچھ گئے، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے شروع ہو گئے، دربان کھڑے ہو گئے اور اپنے چیلے چانٹوں کو بیت المال سے لاکھوں کروڑوں دینا شروع کر دیئے۔ وہی شاہی بے اعتدالیاں شروع ہو گئیں۔ بقول اقبالؒ

عرب خود را بنور مصطفیٰ سوخت
چراغِ مردہ مشرق بر افروخت
لیکن آں خلافت راہِ گم کرد
کہ اول مومنان را شاہی آموخت

یہ وہ قیامت تھی جس سے بڑی قیامت اسلام پر کوئی نہیں آئی۔ جب یہ قیامت آ رہی تھی امت کی زبانیں گنگ کر دی گئیں تھیں اور ان کے ہاتھ باندھ دیئے گئے تھے، تو اس وقت رسول اکرم ﷺ کا وارث، امام حسینؓ ہی میدان میں آئے۔ اگر اسلام میں سے حسینؓ کو نکال دیا جائے تو اسلام کسی شے کا نام نہیں۔ انہوں نے اپنا احتجاج نوٹ کر دیا کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔

یہ درست ہے کہ ہوتا پھر بھی وہی رہا اور اُس طوفان کا راستہ نہ روکا جاسکا۔ اور بہز (72) ساتھیوں کے ساتھ روکا جا بھی نہیں سکتا تھا..... جبکہ امام یہ بھی جانتے تھے کہ میرے والد علیؓ، جو پورے عالم اسلام کے خلیفہ تھے، ان کو بھی لوگوں نے اپنی چالاکوں سے بے بس کر دیا، میرے بھائی حسنؓ کو بھی حکومت چھوڑنا پڑی تو اب میری مدد کیلئے کون سے لوگ آئیں گے؟ نہ کوئی مدد کرنے والا تھا اور نہ وہ اس ارادہ سے نکلے تھے۔ نا انصافی پر مبنی اکثریتی فیصلہ کو ایک حج بدل تو نہیں سکتا لیکن یہ ضرور ہے کہ اختلافی

نوٹ دے کر وہ تاریخ میں زندہ ہو جاتا ہے۔

گزرے ہیں اس جہان میں ایسے بھی کچھ شہید

مقتول تا ابد رہا، قاتل نہیں رہا

جہاں خدا اور رسول ﷺ کے دشمن دنیا میں موجود ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں کی موجودگی کا کیا گلہ! مگر امام حسین علیہ السلام زندہ رہے گا۔ دشمن اپنی موت مرتے رہیں گے، مگر وہ زندہ ہیں۔

یاد رکھو! اسلام حکومت کے سوا کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ اگر اہل حق کی حکومت نہ ہو تو قرآن معطل ہو کر رہ جائے گا اور شریعت پر عمل نہ ہو سکے گا۔ اسلام میں حکومت دنیاوی دھندا نہیں ہے نہ یہ اقتدار کا لالچ ہے بلکہ یہ اللہ کی کتاب کی خدمت ہے۔ جب نیک حکمران ہوں گے تو زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔

دین کا ایک باب امام حسین علیہ السلام کے والد محترم سیدنا علی علیہ السلام نے مکمل فرمایا کہ خلیفہ برحق سے مسلمان بغاوت کر دیں تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہئے اور اگر حسین نہ ہوتے تو مسلمانوں کو یہ پتہ نہ چلتا کہ مسلمان حکومت بگڑ جائے تو اسکا کیا علاج کیا جائے۔ اس بارے میں پیشوا حسین علیہ السلام ہی ہیں۔

امام حسین علیہ السلام کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ جو بھی، کسی بھی طریقہ سے اقتدار پر قابض ہو جائے، لوگ اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب تک وہ کافر نہ ہو جائے اور کفر کا اعلان نہ کر دے اُس وقت تک سر تسلیم خم رکھو، چاہے کیسا ہی بدکردار اور ظالم کیوں نہ ہو۔ اس طرح امت کو بے غیرت بنا دیا گیا اور یہ سارا نتیجہ ملکیت کا ہے۔

ماہوی اللہ را مسلمان بندہ نیست

پیش فرعونے سرش اگلندہ نیست

تبع بہر عزت دین است و بس

مقصود او حفظ آئین است و بس

خون او تفسیر ایں اسرار کرد

ملت خوابیدہ را بیدار کرد

اس غلط بات کو حسین علیہ السلام نے رد کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اگر تم حکومت تبدیل نہیں کر سکتے تو اس کو بالحق (DEJURE) حکومت نہ مانو بلکہ یہ کہو کہ اس کی بالفعل (DEFACTO) حکومت ہے جس نے تخت پر قبضہ کر لیا ہے، وہ غاصب اور ظالم ہے۔ جب بھی مسلمانوں کو طاقت حاصل ہو، اس سے حکومت چھین لیں۔

نہ ہو مذہب میں گر زور حکومت

تو وہ کیا ہے؟ فقط اک فلسفہ ہے

نماز روزہ سکھوں اور انگریزوں نے بھی اپنی حکومت میں بند نہیں کیا۔ اگر دین صرف اتنا ہی ہے تو یہ باقی رہے گا چاہے دہریے حکومت کریں۔ اور اگر دین وہ ہے جو رسول اللہ ﷺ لے کر آئے تھے تو وہ اس وقت مفلوج کر دیا گیا تھا اور یہ کسی اور نے نہیں بلکہ امیر معاویہ نے کیا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے اختلافی نوٹ کی برکت ہے کہ ایک بھی عالم اہل سنت اور اہل حدیث میں سے ایسا نہیں ہوا جو امیر معاویہ کو خلیفہ راشد کہہ سکے۔ وہ مسلمانوں کے حکمران تھے اور بس! حالانکہ وہ صحابی تھے، حضور ﷺ کے برادرِ نسبتی ہیں، مگر سب علماء نے لکھا کہ ان کی حکومت غیر اسلامی تھی وہ مسلمانوں کی حکومت ضرور تھی مگر اسلامی حکومت نہیں تھی۔ اہل حدیث عالم مولانا محمد شفیق خاں پسروری نے ”اسلام اور جمہوریت“ نامی کتاب لکھی ہے۔ اس کے ص: 157، 158 پر دو رسالت میں دی گئی آزادی رائے کے بارے میں انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کا ایک اقتباس لکھا ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ ملکیت نے ہم سے کیا نعمت چھین لی ہے۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابہ میں سے بڑے علم والے تھے۔ یمن کے گورنر اور قاضی بھی رہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی تشریح اور اسلامی خلافت کی اصل تصویر قابل غور ہے۔ وہ روم کے دربار میں سفیر بن کر گئے تھے۔ رومی سردار نے ان کو قیصر کے جاہ و جلال سے

مرعوب کرنا چاہا مگر جن کے دل میں جلال خداوندی کا نشین ہو، ان کی نظر میں ظلم زخارف دنیا کی کیا وقعت ہو سکتی ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے امیر عرب کے اختیارات کی جن الفاظ میں تصویر کھینچی وہ حسب ذیل ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”ہمارا امیر ہم میں سے ایک آدمی ہی ہے۔ اگر وہ اللہ کی کتاب کے مطابق چلے گا اور سنت رسول ﷺ پر چلے گا تو ہم اس کو حکومت پر برقرار رکھیں گے۔ اگر ان سے بٹے گا تو کان سے پکڑ کر اُتار دیں گے۔ اگر وہ چوری کرے گا تو ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے۔ اگر وہ زنا کرے گا تو کوڑے ماریں گے۔ اگر وہ کسی آدمی کو گالی دے گا تو رعایا کا ادنیٰ آدمی برابر کی گالی دے گا۔ اگر وہ کسی کو زخمی کرے گا تو اپنی جان سے اس کو بدلہ دینا پڑے گا۔ وہ ہم سے پردے میں چھپ کر نہیں بیٹھے گا اور وہ ہم سے متکبر نہیں بن سکے گا۔ جو مال غنیمت ہے اس میں سے رائی برابر دوسروں سے زیادہ نہیں لے سکتا، اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا ایک آدمی کو حصہ ملے گا۔“ (بحوالہ فتوح الشام از دی)

نہ ظلم گن بہ کسے نہ زیر ظلم برو
ہمیں مرام حسین است و منطق دیں است

یہ تحفہ تھا جو حضور ﷺ نے دنیا کو دیا، جو پہلے ملا تھا نہ بعد میں باقی رہنے دیا گیا۔ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ خلیفہ کا کوئی محل ہو، پہرے دار ہوں یا وہ جلوس بنا کر سفر کرے حضور ﷺ کا اور کیا معجزہ چاہیے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے مٹی کے بنے ہوئے انسانوں کو فرشتوں سے بڑھ کر بنا دیا، اسلام میں ایسا حکمران درکار ہے جو اپنے وقت کا سب سے بڑا ولی ہو اور سب سے طاقتور حکمران ہو۔ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور مرشد سے بیعت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس سے بڑھ کر خدا تک پہنچانے والا اور کون ہوتا ہے؟

حکمران میں یہ دو صفات حضور ﷺ نے جمع فرمائیں اور فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بڑا انعام امام عادل کو اور سب سے بڑی سزا ظالم حکمران کو ملے گی۔ اس دن جو

سات گروہ خدا کے عرش کے سایہ تلے ہوں گے، جبکہ خدا کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے پہلا امام عادل ہے۔

اقتدار کی جنگ کا طعنہ دینے والوں کو معلوم ہو کہ اقتدار کی جنگ تو شروع سے انبیاء کرام علیہم السلام کفار سے لڑتے رہے ہیں تاکہ اقتدار بد معاشوں کے پاس نہ رہے۔ اقتدار اور اسلام جزواں بھائی ہیں۔ اگر دین کو سیاست سے الگ کر دیا جائے تو باقی سوائے ظلم کے کچھ نہ رہے گا۔ اقتدار اور اسلام میں کوئی بھی درست نہ رہے گا اگر دوسرا ساتھ نہ ہو۔

ابوالکلام حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں:

”ان الفاظ کو غور سے پڑھو۔ کیا اس سے واضح تر، اس سے روشن تر، اس سے صحیح تر اور اس سے موثر تر الفاظ میں جمہوریت کی حقیقت ظاہر کی جاسکتی ہے۔ کیا حکومت عام کی اس سے بہتر نوعیت ہو سکتی ہے۔ کیا مساوات نوعی اور عدم تفوق اور ترجیح افراد کی اس سے بہتر مثال تاریخ عالم پیش کر سکتی ہے۔ اللہ بنو امیہ سے انصاف کرے جنہوں نے اسلام کی اس مقدس تصویر مساوات کو اپنی کثافت سے ملوث کر دیا اور اس کی بڑھتی ہوئی قوتیں عین دودھ عروج میں پامال اور مفاسد استبداد ہو کر رہ گئیں۔“

سیدنا امام حسین علیہ السلام ظالم حکمرانوں کے لیے موت ہیں کیونکہ بقول اقبال:

تا قیامت قطع استبداد کرد
موج خون او چمن ایجاد کرد

تاریخ میں جہاں بھی کسی انقلابی تحریک کا ذکر آئے گا وہاں امام حسین علیہ السلام کا حوالہ بھی ساتھ ہی ملے گا۔ لوگ اٹھے ہی اس لیے کہ ایک طرف مصلحت ہے، دوسری طرف عشق ہے کہ جان دے دو مگر اعلیٰ اقدار اور اصول تباہ نہ ہونے پائیں۔

دنیا میں اس سے بڑھ کر حادثہ شاید ہی کوئی پیش آیا ہو کہ جس دین نے قیصر و کسریٰ کی حکومت کو بر باد کیا۔ اس کے ماننے والے چند سال بعد خود ملوکیت کے تخت پر بیٹھ گئے۔

خود طلسم قیصر و کسری شکست
خود سر تخت ملوکیت نشست

اس سے اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ کہ پورا دین غیر موثر ہو کر رہ گیا۔ ملوکیت کو آپ چھوٹی بیماری نہ سمجھیں۔ اس سے علماء و امراء سمیت سب کچھ بدل جاتا ہے۔ کیوں کہ ملوکیت سے نقطہ نگاہ ہی بدل جاتا ہے اور سارا دین چوہٹ ہو کر رہا جاتا ہے۔

از ملوکیت نگاہ گردد دگر
عقل و ہوش و رسم و راہ گردد دگر

امت کی نگاہ بدل گئی اور لوگ بے بس ہو گئے۔ یہی آج تک ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ جو برسر اقتدار آتا ہے لوگ اسی وقت اسے سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پرانے ساتھی کو فوراً چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اس طرز عمل کو مصلحت پسندی، عملیت پسندی اور زمینی حقائق کا نام دے دیتے ہیں۔

تسلط کو بھی جائز قرار دے دیا گیا

اس جبر کے نتیجہ میں نظریہ ضرورت وجود میں آیا اور تسلط اور قبضہ کو حکومت حاصل کرنے کا جائز ذریعہ قرار دے دیا گیا۔ پہلے تو اپنا ذہن صاف کر لیں کہ ”اسلام و السلطان اخوان تو امان“ یعنی اسلام اور طاقت دونوں جڑواں بھائی ہیں۔

سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے
ترے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہئے

ہم نے دہر غلامی و ملوکیت میں پرورش پائی ہے، اس لیے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جس کو تخت ملتا ہے وہ مقدس ہی ہے۔ اس کو تخت اللہ نے دیا ہے لہذا ہم لوگوں کا کام بس سر جھکانا ہے۔ یہی بت پرستی ہے۔ یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ آٹھ بڑے ہندو دیوتاؤں میں سے ایک بادشاہ وقت بھی ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے۔ اگر وہی کام اہل توحید کریں تو کیا اس کی سنگینی کم ہو جائے گی؟

امت کی نگاہ بدل گئی اور لوگ بے بس ہو گئے۔ یہی آج تک ہو رہا ہے۔ جو برسر اقتدار ہوتا ہے۔ لوگ اسی وقت اس کو سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پرانے ساتھیوں کو چھوڑ دیتے ہیں یہ ملوکیت (بادشاہت) کی وجہ سے ہے۔ اس کا اثر ہے کہ دو مسئلوں پر بدقسمتی سے علماء کی اکثریت کی اتفاق ہو گیا۔ ایک یہ کہ جس کو لوگ اپنی آزاد مرضی سے حکمران منتخب کریں وہ بھی حکمران ہے اور دوسرے یہ کہ جو تلوار کے زور پر اقتدار پر قبضہ کر لے (تغلب) اور اس کا حکم چلنا شروع ہو جائے وہ بھی جائز حکمران بن جاتا ہے اور اب اس کے خلاف کچھ نہیں سوچا جاسکتا۔

ماریوی اللہ را مسلماں بندہ نیست
پیش فرعونے سرش انگندہ نیست
تق بہر عزت دیں است و بس
مقصد او حفظ آئیں است و بس
خوں او تفسیر این اسرار کرد
ملت خوابیدہ را بیدار کرد

یہ ملوکیت کی برکت ہے کہ جو بدترین جرم تھا یعنی غصب، وہ جائز قرار دے دیا گیا۔ پھر اس کے علاوہ دوسرا ظلم وہ علماء یہ کرتے ہیں کہ جتنی روایات جائز حکمران کے حق میں تھیں وہ اس ظالم، غاصب کے حق میں استعمال کرتے ہیں کہ ایسے حکمران کے خلاف جو بغاوت کرے گا وہ جماعت سے نکل جائے گا، وہ دوزخی ہوگا اور جو خلیفہ بننے کے بعد گڑ بڑ ڈالنا چاہے اس کو قتل کر دو۔ اس ایک ترکیب سے پورا دین برباد ہو گیا۔ ظالم حکمران بن گئے اور نظریہ ضرورت ایجاد کر لیا۔

ان غلاموں کو شکایت ہے کہ ناقص ہے کتاب
کہ سکھائی نہیں مومن کو غلامی کے طریق

یاد رکھو! یہ سب احادیث تو صرف اور صرف صحیح خلیفہ کیلئے تھیں، جس کو امت نے اپنی

آزاد مرضی سے چنا ہو، اور تم ان کو ان ظالموں کے حق میں برت رہے ہو۔ جس کا تحتہ الثنا امت پر فرض تھا تم نے اس کے حق میں الٹا احادیث پیش کرنا شروع کر دیں۔ یہ سارا نتیجہ ملوکیت کا ہے۔ جب ظالم بادشاہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر لوگوں کا نقطہ نگاہ بدل جاتا ہے اور لوگ اس کو مصلحت پسندی، عملیت پسندی اور زمینی حقائق کا نام دے دیتے ہیں۔ اس کو دنانی سمجھا جاتا ہے کہ جو آئے اس کا ساتھ دو اور فائدے حاصل کرو، اس طرح امت برباد ہوتی ہے۔ لوگ ظالم کے منہ پر حق کہنے کی بجائے بک جاتے ہیں۔

لہذا جب تک دو مسئلے واضح نہ ہوں گے، بات نہیں بنے گی۔

1۔ خلیفہ کون ہوتا ہے۔ جو بیٹھ جائے وہی خلیفہ ہے یا جس کو امت اپنی آزاد مرضی سے چنے وہ خلیفہ ہوتا ہے۔

2۔ جس حکمران کے خلاف بغاوت منع ہے وہ آزاد مرضی سے چنا ہوا حکمران ہے یا وہ ظالم جو زبردستی یا سازش سے حکومت پر قبضہ کر لیا ہو۔

اس موضوع پر ایک کتاب جو عربی زبان میں چھپی ہے، حرف آخر ہے۔ اس کے مصنف محمد خیر ہیکل ہیں اور کتاب کا نام ”الجهاد والقتال“ ہے جو تین جلدوں میں ہے۔ مصنف نے اوزاعی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کرنے کیلئے یہ مقالہ لکھا تھا اور اس پر PH.D کی ڈگری دیتے وقت استادوں نے کہا کہ اگر PH.D سے آگے کوئی ڈگری ہوتی تو ہم وہ دیتے۔ اس کتاب میں مصنف نے ایک فصل 35 صفحوں کی صرف اس بات پر لکھی ہے کہ بغاوت سے منع کرنے والی تمام احادیث کا تعلق جائز حکمران سے ہے۔

(الجهاد والقتال فی السياسة الشرعية، ج: 1، ص: 167 تا 202)

اسلام میں سب سے اہم بات صحیح سربراہ کا انتخاب ہے۔ دین میں اس کیلئے امام کا لفظ ہے۔ امام عربی زبان میں اس دھاگہ کو کہتے ہیں جو معماری دیوار سیدھی رکھنے کیلئے اس کے دونوں سروں پر باندھ دیتے ہیں۔ اگر امام (حکمران) ٹیڑھا ہو گیا تو پوری امت ٹیڑھی ہو جائے گی کیونکہ اس کے پاس بیشمار وسائل از قلم ذرائع ابلاغ، عدالتیں، سکول، کالج، فوج

وغیرہ ہوتے ہیں، لوگ ہزار حقن کریں، وہ سارا نظام بدل دے گا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، گاڑی اُدھر جائے گی جدھر وہ لے جانا چاہے گا۔

ملوکیت کی برکت سے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ علماء نے لکھنا شروع کر دیا کہ متغلب (زبردستی حکمران بن جانے والا) بھی خلیفہ ہے۔ حتیٰ کہ اس سے آگے بحث شروع کر دی کہ وہ نیک ہونا بھی ضروری نہیں اگر فاسق و فاجر بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اگر وہ کفر کا علانیہ اظہار نہیں کرتا تو چاہے وہ شراب پیئے، زنا کرے، جو جی چاہے کرے، تب بھی خلیفہ ہے۔ غور کریں جس کرسی پر رسول اللہ ﷺ بیٹھتے تھے، اس پر ایسوں ایسوں کو بٹھادیا۔ حالانکہ خلیفہ کا معنی نائب رسول ﷺ ہے کہ دینی و دنیاوی پیشوائی کا جو کام رسول کریم ﷺ کرتے تھے، وہ بھی یہ سارے کام کرے۔

علامہ رشید رضا مصری جو تفسیر ”المیزان“ کے مؤلف اور مصر میں سلفیت کو سب سے زیادہ زندہ کرنے والے تھے، وہ اپنی کتاب ”الخلافة - الامامة العظمیٰ“ میں لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس امت کو برباد کیا اور دین کا ستیاناس کیا۔ ان میں سے پہلی جماعت بنو امیہ کی ہے۔ جب ہم بنو امیہ کہتے ہیں تو اس سے مراد سارا قبیلہ نہیں ہوتا۔ ان میں سے بھی اچھے لوگ ہوئے ہیں۔ جیسے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ، جو پانچویں خلیفہ راشد ہیں۔ وہ باقی بنو امیہ کی طرح لالچی نہیں تھے۔ اگر ان کے بس میں ہوتا اور ان کو زہر نہ دیا جاتا تو وہ ضرور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کو خلافت دے دیتے۔

آگے لکھتے ہیں کہ دین کی بربادی کرنے والا مولویوں کا یہ مسئلہ ہے کہ جباروں اور باغیوں کی حکومت ماننا بھی شرعاً واجب ہے۔ جیسے امت کے ارباب حل و عقد کے مشورہ سے چنا جانے والا خلیفہ صحیح ہے اسی طرح زبردستی حکومت پر قبضہ کرنے والا بھی صحیح ہے۔ امیر معاویہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نامزدگی کو بہانہ بنا کر مسلمانوں کی ناک رگڑی اور اپنے فاسق و فاجر بیٹے کو ڈنڈے کے زور پر خلیفہ بنادیا۔ امیر معاویہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اسلام میں برے طریقے کا آغاز کیا اور طاقت اور

رشوت کے زور پر کیا۔ اگر تھوڑی بہت مزاحمت ہوئی جو قابل ذکر ہے، تو وہ حجاز میں ہوئی۔ پھر معاویہ نے یزید کی بیعت لینے کے لیے مکہ کا رخ کیا اور اس سلسلہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، عبدالرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہما، اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے بھی کہا کہ تم بھی یزید کی بیعت کرو۔ انہوں نے مخالفت کی اور کہا شوری نہ ہوئی تو ہم نہ مانیں گے۔ امیر معاویہ منبر پر چڑھ گئے، لوگوں کو بلالیا، ان چاروں کو سامنے بٹھالیا اور ان کے سر پر 2/2 جلا دکھڑے کر دیئے۔ جلا دوں کو حکم دیا اگر وہ زبان کھولیں چاہے حمایت میں یا مخالفت میں، ہم فوراً گردن اڑا دیتا۔ پھر معاویہ نے اعلان کیا کہ یہ ساری امت کے سردار لوگ ہیں۔ انہوں نے یزید کی بیعت کر لی ہے۔

بنو امیہ کا وہ گناہ جو معاف نہیں کیا جاسکتا، اسلام کے طریقہ شوری بذریعہ حل و عقد کو اس قاعدہ سے بدل دیا کہ طاقت حق پر غالب ہے۔ انہی ظالموں نے دین کے قاعدہ کو تباہ کر دیا اور بعد میں آنے والے اس پر عمل کرتے رہے۔

دین اسلام کو برباد کرنے میں سب سے بڑا حصہ اس بات کا ہے کہ ایسی حکومت کو بھی جائز کہا گیا جو مغفل اور متسلط قائم کرے یعنی جو شخص آئین توڑ کر زبردستی حکومت سنبھالے اور قبضہ کر لے، اس کی حکومت کو جائز صورت مان لیا گیا۔ یہ وہ پہلی اینٹ ہے جس نے سارا دین میڑھا کر دیا۔ دین اسلام میں حکمران کے صحیح ہونے کی صرف ایک صورت ہے اور وہ شوری ہے، ولی عہدی یا استخلاف دین میں نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا حوالہ بالکل غلط دیا جاتا ہے۔ ایک تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے رشتہ دار نہیں تھے، دوسرے ان کی نامزدگی صرف ایک تجویز تھی جس پر امت کے اہل الرائے سے مشورہ کیا گیا۔

صرف آزادانہ انتخاب ہی جس میں کوئی رشوت نہ ہو، نہ دباؤ ہو، حکمران بنانے کا اسلامی طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ سب طریقے ناجائز اور باطل ہیں کوئی کسی کو ولی عہد مقرر نہیں کر سکتا اور نہ کوئی زبردستی حکومت پر بیٹھ سکتا ہے۔ ایسے سب لوگ غاصب اور ظالم ہیں۔ جس شخص سے کوئی ظالم کوئی چیز چھین لے، اس کو حق حاصل ہے کہ جب اس کو موقع

ملے، اپنی چیز اس غاصب سے چھین لے۔ اسی طرح ایسے غاصب حکمران سے جب موقع ملے اقتدار چھین لیا جائے۔ یہ عین دین ہے۔ ان کو ایک دن کیلئے بھی صحیح حکمران ماننا اپنے اسلام کی نفی ہے۔ اگر ہم ان کو ہٹا نہیں سکتے تو صرف یہ مانیں گے کہ وہ بالفعل (DEFACTO) حکمران ہیں مگر جائز (بالحق) (DEJURE) حکمران نہیں ہیں۔

لوگ اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ ایسے غاصب حکمرانوں کے پیچھے، جیسے کہ بنو امیہ تھے۔ لوگ نمازیں کیوں پڑھتے رہے، ان کو زکوٰۃ کیوں دیتے رہے، ان کی امارت میں حج کیوں کرتے رہے اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کیوں کرتے رہے؟

اس بارے میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ان کے ظالم اور غاصب ہونے کے باوجود امت کا کوئی کام نہیں رکے گا۔ گناہ ان کا ہوگا مگر کام نہیں رکیں گے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر باغی کسی علاقہ پر قبضہ کر لیں اور ان کے مقرر کردہ قاضی شریعت کے مطابق فیصلے کریں، مگر بعد میں جائز حکومت ان باغیوں سے علاقہ واپس لے لے، تو بھی ان قاضیوں کے وہ فیصلے برقرار رہیں گے جو شریعت کے مطابق ہوں گے۔

مگر آہستہ آہستہ امت نے ملوکیت کے جبر کے زیر اثر، نظریہ ضرورت کے تحت، جس کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہیں، ڈر کے مارے ایسے لوگوں کو جائز حکمران مان لیا۔ دوسری غلط بات یہ شروع ہو گئی کہ ایسے غاصب کے خلاف آپ بغاوت نہیں کر سکتے۔ جب تک وہ کھلم کھلا کافر ہونے کا اعلان نہ کر دے۔ اس کے علاوہ جو چاہے کرے، اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ ظلم پر ظلم یہ کہ یہ بھی کہہ دیا اب اس مسئلہ پر فقہاء متفق ہو گئے ہیں اور اس پر اجماع ہے۔ یاد رکھیں ایسا اجماع بالکل باطل ہے یہ نہ قرآن سے لیا نہ حدیث سے، صرف مجبوری کا نتیجہ ہے۔

اس مسئلہ کا برا نتیجہ کتابوں میں دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ مثلاً شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ”ازالۃ الخفساء“ میں امام شوکانی رحمہ اللہ نے ”نیل الاوطار“ میں، اور مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہ لکھا کہ جن لوگوں نے پہلے ائمہ (حکمرانوں) کے خلاف خروج کیا، مثلاً امام

حسین علیہ السلام، وہ مجتہد ہیں مگر غلطی کی۔ اللہ انہیں معاف کرے مگر اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حکمران چاہے کنخرو اور بد معاش ہوں، جو انکے خلاف خروج کرے گا، وہ باغی ہے۔ پہلوں کو تو معافی ہے کہ ان کو علم نہ تھا مگر اب یہ مسئلہ واضح ہو گیا اور اس بارے میں متواتر حدیثیں ہیں کہ حکمران کے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کوئی ایسی کوشش کرے گا چاہے وہ ولی ہو تو بخشا نہیں جائے گا، غاصب کو خلیفہ کہہ کر ان علماء نے ظالم حکمرانوں کو کھلا ہاتھ (FREE HAND) دے دیا۔

حقیقت یہ ہے کہ جن حدیثوں میں خلیفہ کے خلاف بغاوت سے منع کیا گیا ہے ان میں یہ غاصب حکمران مراد نہیں ہیں، وہ احادیث ان حکمرانوں کے بارے میں ہیں جن کو امت چنے اور آزاد مرضی سے چنے، اگر چنا جانے والا پہلے سے فاسق ہے، تو وہ بھی خلیفہ نہیں ہے، اس کی بیعت کا عدم ہے اور جو غاصب ہے وہ تو بالکل سرے سے خلیفہ ہی نہیں۔ اگر چناؤ کے وقت نیک تھا، مگر بعد میں برے کام شروع کر دے تو اس کیس میں بہت دیر تک انتظار کریں گے، اصلاح کی کوشش کریں گے اور اس کے غلط حکم نہیں مانیں گے، یہ بھی حضور ﷺ نے فرمادیا تھا، چونکہ یہ خلیفہ جائز ہے لہذا اس کو سنبھالنے کے لیے بہت موقع دیں گے، مذکورہ بالا احادیث ایسے لوگوں کے حق میں ہیں، غاصبوں کے حق میں نہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی ظالم کسی کی بیوی زبردستی چھین لے تو وہ خاوند نہیں بن جاتا اور نہ اس کو خاوند کے شرعی حقوق حاصل ہوں گے کہ وہ ایسی حدیثیں پڑھ پڑھ کر سنائے کہ خاوند کی اطاعت بیوی پر لازم ہے، خاوند وہ ہوتا ہے جس سے شرعی طور پر نکاح ہو۔

علماء حوالے دیتے ہیں ایسی احادیث کے جو جائز حکمرانوں کے بارے میں ہیں اور چسپاں کرتے ان غاصبوں پر جو زبردستی یا دھوکے سے حکمران بن بیٹھے۔ یاد رکھو! ظالم ایک دن کیلئے بھی امام نہیں کیونکہ ”لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق“ (خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں۔)

جو شخص حکمران تو امت کے مشورہ سے بنا، مگر بعد میں بگڑ جائے تو اس کے خلاف

بغاوت تب کریں گے جب وہ نماز چھوڑ دے یا کھلا کافر ہو جائے، جب کوئی حکمران دین کی کسی بات کا مذاق اڑائے تو بھی کافر تصور کیا جائے گا چاہے وہ نماز پڑھے، حج کرے کیونکہ کلمہ کے انکار سے بڑھ کر یہ دلیل ہے کہ وہ دین کا مذاق اڑاتا ہے، دین پر عمل نہ کرنا کوتاہی اور گناہ ہے مگر مذاق اڑانا کافر بنا دیتا ہے۔ یہ وہ حدود ہیں کہ اب وہ حکومت، حکومت کفر ہے۔ تفصیل کیلئے شاہ اسماعیل شہید کی کتاب ”منصب امامت“ کا مطالعہ فرمائیے۔

امام ابو بکر بصرہ صلی اللہ علیہ وسلم حنفی اپنی تفسیر ”احکام القرآن“ میں لکھتے ہیں کہ دین کیوں برباد ہوا؟ یہ بے وقوف اصحاب حدیث پیدا ہو گئے جنہوں نے حدیثوں کو نہ سمجھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ”ظالم حاکم، حکمران نہیں ہے، ان کے خلاف جب موقع ملے جہاد کرو۔ ان اہل حدیث کی وجہ سے امت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ ختم ہو گیا اور ظالم اسلامی حکومت پر چھا گئے۔“

امام ابن حزم اپنی کتاب ”المحلی“ ج: 9، ص: 362 پر لکھتے ہیں کہ باغی وہ ہوگا جو دین چھوڑے گا، چاہے وہ حکمران ہو یا عوام ہوں، اگر حکمران غلط ہے تو وہ باغی اور عوام عادل ہوں گے۔ جب بھی اس حکمران سے زیادہ عادل خروج کرے تو اس کا ساتھ دو، وہ باغی نہیں ہے بلکہ باغی حکمران ہے۔ انہوں نے دلائل دیتے ہوئے لکھا کون ہے اجماع کا دعویٰ کرنے والا فقیہ؟ امام حسین علیہ السلام، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور مدینہ سے اٹھنے والے اصحاب 70 سے بڑا کون فقیہ پیدا ہوا ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ سلمیٰ اموی تھے اور مسلک ”ظاہری“ (اہل حدیثوں سے دو قدم آگے) تھے۔ یہ حکمرانوں کی ڈکٹری ہے کہ وہ رعایا کو باغی کہتے ہیں حالانکہ باغی وہ ہے جو دین کو چھوڑ دے چاہے وہ حکمران ہو یا رعیت ہو۔

محمد خیر بیکل اپنی کتاب ”الجهاد والقتال“ ج: 1، ص: 202-217، پر لکھتے ہیں۔ ”جو زبردستی حکومت پر قبضہ کرے اس سے جہاد لازم ہے اور وہ ایک دن کیلئے بھی ہمارا حکمران نہیں ہے۔ انہوں نے دلائل اور مثالیں دیتے ہوئے کہا کہ یزید کو کس نے چنا تھا؟ اس کی بیعت نہیں تھی، جبر تھا، وہ ایک دن

کیلئے بھی مسلمانوں کا حکمران نہیں تھا۔ اس وقت اُمت کا فرض تھا کہ اس سے اقتدار چھینے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کا اقدام جہاد تھا۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے زہر پینا قبول کر لیا۔ جیل میں کوڑے کھائے مگر فرمایا کہ ظالموں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ جب زید بن علی علیہ السلام ہشام کے خلاف اٹھے تو امام ابوحنیفہ نے فتویٰ دیا کہ جو زید بن علی علیہ السلام کا ساتھ دیں تو ان کو وہ ثواب ملے گا جو اصحاب بدر کو ملا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ زید کا ساتھ دینا 50 نفلی حج کرنے سے بہتر ہے۔“

(مناسقب الامام اعظم ابن البراز الکوردی ج: 2، ص: 71 اور مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ از الموفق المکی ج: 2، ص: 83)

دفاع سنت پر ایک بہترین کتاب ”العواصم والقواصم فی الذب عن سنتہ ابی القاسم“ امام محمد بن الوزیریانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ اس موضوع پر اس سے اعلیٰ کتاب نہیں لکھی گئی۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یمن نے اسلام کو اور کچھ بھی نہ دیا ہوتا تو یہی کتاب کافی تھی۔

یمن کے زیدی شیعوں کے اس اعتراض کے جواب میں پوری فصل لکھی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اہل سنت کے مذہب میں ظالم بھی خلیفے ہیں اور یزید کے خلاف اٹھنے والے باغی شمار ہوتے ہیں۔ امام نے ابن حزم رحمہ اللہ اور امام ذہبی رحمہ اللہ وغیرہ کے حوالے دیے ہیں کہ سب یزید کو ملعون کہتے ہیں ”العواصم والقواصم ج: 8، ص: 76“ پر انہوں نے امام ابن حزم رحمہ اللہ کا حوالہ دیا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے آپ کو عالم دین کہتا ہے اور کتابیں لکھتا ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس بات پر اجماع کا ذکر کیا کہ حکومت پر زبردستی قبضہ کرنے والے بھی جائز حکمران ہیں اس شخص نے اپنی کتاب میں ایسی باتیں لکھیں کہ اگر وہ نہ لکھتا تو اس کی عاقبت کیلئے اچھا ہوتا بلکہ وہ گونگا پیدا ہوتا تو اس کے لئے بھی اچھا ہوتا۔ وہ شخص ابن مجاہد متکلم بصری طائی ہے۔ اس نے لکھا کہ

ظالم حاکم جو جی چاہے کریں، ان کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے۔

امام ابن حزم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں یہ مسئلہ دیکھ کر کانپ گیا۔ اس سے بڑا جرم مجھے یہ نظر آیا کہ اگر یہ اجماع ہے تو جو اس اجماع کے خلاف کریں گے، وہ تو کافر ہو جائیں گے، کیا اس متکلم کو پتہ نہیں کہ حرہ کے دن پورا مدینہ جن میں سارے صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین یزید کے خلاف اٹھے؟ اگر اجماع تھا تو پھر یہ سارے تو نعوذ باللہ کافر ہو گئے۔ کیا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی مکہ میں یزید کے خلاف نہیں اٹھے اور سارے علاقے چھین کر خلیفہ نہیں بنے؟ کیا حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام اور ان کے ساتھی نیک مسلمان نہیں تھے؟

پھر امام ابن حزم رحمہ اللہ جو سلاً اموی اور مسلکاً کٹر اہل حدیث تھے، دُعا کرتے ہیں کہ جو لوگ یزید کے خلاف اٹھے تھے، اللہ ان سے راضی ہو اور جنہوں نے ان کو قتل کیا، ان پر اللہ کی لعنت ہو، پھر امام نے سوال کیا کہ چار ہزار عالم (قُسَراء) جو حجاج بن یوسف کے خلاف حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کی قیادت میں میدان میں آئے، تو اے ابن مجاہد طائی بتا! کہ وہ سارے نعوذ باللہ کافر ہو گئے تھے؟ اللہ کی قسم جو ان کو کافر کہے وہ خود کافر ہے۔“

امام ابو بکر حصص رحمہ اللہ اپنی تفسیر ”احکام القرآن“ ج: 4، ص: 1409 پر سورہ حجرات کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”امام مالک رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ اگر کوئی ظالم حکمران بن جائے اور لوگ اس کے خلاف اٹھیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا: ”اگر لوگ امام عادل کے خلاف اٹھیں تو عوام کا فرض ہے کہ امام عادل کا ساتھ دیں۔ اگر حکمران بھی ظالم ہے اور باغی بھی ظالم ہیں تو کسی کا ساتھ نہ دیں۔ ہمارے زمانہ میں لوگ حکمران پہلے بنتے ہیں اور بیعت بعد میں لیتے ہیں تو ایسی بیعت کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ یہ بیعت خوف کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر ظالم حکمران کے خلاف کوئی عادل گروہ اٹھے تو باغیوں کا ساتھ دو۔“

امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”دو قسم کے لوگ حکومت کے خلاف اٹھتے ہیں۔ ایک وہ جو دین سے نکل جاتے ہیں جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں مرتد اٹھتے تھے۔ ایک وہ گروہ ہوتا ہے جو اپنا عقیدہ لے کر نہیں بلکہ حکومت حاصل کرنے کے لئے اٹھتے ہیں۔ یہ لوگ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو دینی غیرت کے جوش میں اس لیے نکلے کہ حکمران ظالم ہو گئے ہیں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، تو ایسے باغی اہل حق ہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں حضرت حسین بن علی علیہ السلام اور مدینہ کے اہل 7۰ اور حجاج کے خلاف اٹھنے والے قراء (4,000 عالم) شامل ہیں (بس ان دوسطروں میں پورا واقعہ کر بلاسٹ کر آ گیا)۔ امام لکھتے ہیں کہ باغیوں کا ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جن کے پیش نظر دین نہیں بلکہ صرف حکومت کا لالچ ہے یہی گروہ دراصل باغی ہے۔“

(فتح الباری ج: 12، ص: 285-286)

آپ پر واضح ہو گیا کہ حکومت پر نظر رکھنا اہل اسلام کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ نماز روزہ سے زیادہ فکر اس بات کی کریں کہ ہمارے ملکوں کی باگ ڈور جن کے ہاتھ میں ہے، وہ کیسے لوگ ہیں؟ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع ہیں تو ان سے محبت دین ہے، ان کے لیے دعائیں مانگنا اور ان کی خیر خواہی لازم ہے۔ اگر وہ ظالم ہیں تو ان سے بغض کرنا اور ان پر لعنت کرنا ضروری ہے۔ جہاں تک ہو سکے ان سے تعاون نہ کرو، پھر یہی دین ہے۔ جہاں تک ظالم حکمران کے پیچھے نماز پڑھنے کا ذکر ہے یا ان کے ساتھ حج کرنے اور جہاد کرنے کا ذکر ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری والوداؤد میں موجود ہے کہ انہوں نے مہربانی فرماتے ہوئے اجازت دے دی کہ حکمران نیک ہو یا فاسق، نہ جہاد روکو نہ نماز الگ کرو، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجاج انسانوں میں سب سے بڑا فاسق تھا مگر لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔

لہذا نمازیں سب کے پیچھے پڑھو، ہم وحدتِ امت کیلئے قربانی دیں گے۔ فروغی مسائل کی یہ حیثیت نہیں کہ ہم اپنی نمازیں الگ کر لیں۔ اس سلسلہ میں ایک واقعہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ امام ابو عامر حنفی رحمۃ اللہ علیہ اور امام کفال مروزی شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہم عصر تھے۔ ان دونوں کی آپس میں خوب بحثیں چلتی تھیں۔ ایک دن امام ابو عامر حنفی رحمۃ اللہ علیہ جارہے تھے کہ نماز مغرب کا وقت ہو گیا۔ وہ نزدیک ہی ایک مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہ مسجد امام کفال رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ حنفی امام جب مسجد میں داخل ہوئے تو شافعی امام کفال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مؤذن سے کہا آج اذان ترجیع کے بغیر کہنا (جیسا کہ ہمارے ملک میں عام طور پر کہی جاتی ہے اور دونوں سنت ہیں) جماعت کے وقت امام کفال نے حنفی امام کو آگے کر دیا تو انہوں نے سینے پر ہاتھ باندھے آمین بلند آواز سے کہی اور رفع الیدین کیا جو شافعی طریقہ ہے۔

یہ واقعہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا محمد یوسف بخوری رحمۃ اللہ علیہ نے ”معارف السنن“ میں لکھا ہے:

”اصل مسائل حکومت کی درنگی، غریبوں کی امداد اور کرپشن کا خاتمہ ہے نہ کہ

آمین بالجہر یا رفع الیدین وغیرہ“

مسلمانوں کا حکمران صرف ایک حکمران ہی نہیں بلکہ نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے وہ سارے فرض ادا کرنے ہوتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں انجام دیتے تھے۔ وہ دین کا سب سے اعلیٰ نمونہ اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے دین میں اس کو امام کہا گیا ہے۔ اگر اس میں ٹیڑھ آگئی تو سارا دین ٹیڑھا ہو جائیگا۔ جس وقت امت یہ غلط موڑ مڑ رہی تھی اس وقت بد قسمتی سے لوگوں نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا۔ اگر ساتھ دے دیتے تو خرابی وہیں ختم ہو جاتی۔ اس طرز عمل کا نتیجہ ہے کہ ہم پر ایک سے بڑھ کر ایک ظالم حکمران بنا۔

سیدنا امام حسین علیہ السلام کا واقعہ ایک کہانی نہیں بلکہ نظام شریعت کو سمجھنے کے لیے ضروری سبق ہے۔ یہ شریعت کے قیام، غلبہ اسلام، اور پوری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے

ضروری ہے۔ جب تک مشرق سے مغرب تک اسلام حکمران نہ بن جائے، مسلمانوں کو آرام کرنے کی اجازت نہیں۔ کیوں کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

”ساری زمین میرے لیے مسجد بنادی گئی ہے۔ لہذا جب تک اس مسجد کا کوئی حصہ کفار کے قبضہ میں ہے۔ مسلمانوں پر آرام حرام ہے۔“

الحذر از گردش نو آسماں
مسجد مومن بدست دیگران؟
سخت کوشد بندہ پاکیزہ کیش
تا بگیرد مسجد مولائے خویش

دین صرف غلبہ اسلام کا نام ہے۔ غلام کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں ان مسلمانوں کو جو کفار کے علاقہ میں رہتے تھے حکم دیا کہ یا ہجرت کرو یا وہاں انقلاب کی کوشش کرو ورنہ تم منافقوں میں شمار ہو گے۔ سورہ نساء میں مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کا نزع کے عالم میں فرشتوں سے جو مکالمہ نقل ہوا ہے وہ سب مسلمانوں کے لیے نصیحت آموز ہے۔ اسلامی حکومت شرک اور توحید کا مسئلہ ہے۔ یہ شرک سے کم نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر بندے حکومت کریں اور اپنی من مرضی کریں۔ جب حکومت خدا کے قانون سے آزاد ہو جاتی ہے تو طاغوت بن جاتی ہے۔ اور جو اس کی فرمان برداری کرتے ہیں۔ وہ بت پرستی کرتے ہیں۔

نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری
کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دل گیری

حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا:

”امت اس وقت تک درست رہے گی جب تک اس کے حکمران درست رہیں گے۔“

(فتح الباری ج: 7 ص 148، مناقب الانصار باب ایام الجاہلیہ)

بزرگ فلسفہ قتل شاہ دیں ایں است
کہ مرگ سرخ بہ از زندگی تنگیں است
آساں نہیں ہے معرفت راز کربلا
دل حق شناس دیدہ بیدار چاہیے
آتی ہے کربلا سے یہ آواز آج بھی
ہاں حق کا اعتراف سر دار چاہیے

واقعہ کربلا دو شخصیتوں کا نہیں بلکہ اسلامی حکومت کے دفاع کے لیے جان دینے اور ظالم کے مسلمانوں کا حکمران بن جانے کی دو علامتیں ہیں۔ توحید یہ ہے کہ بندے کسی کو اپنے اوپر حکومت نہ کرنے دیں بلکہ خدا کا قانون حکومت کرے۔ بعد میں یہ بات بڑی محنت سے مسلمانوں کے ذہنوں سے نکالی گئی اور یہ تعلیم دی گئی کہ جو آئے اسے سلام کرو۔ جبکہ سیدنا امام حسینؑ کا کارنامہ یہ ہے کہ

نقش الا اللہ بر صحرا نوشت
سر عنوان نجات ما نوشت

مقام و شان و ایمان صحابہ رضی اللہ عنہم

مسلمان امت قیامت تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے احسان سے سبکدوش نہیں ہو سکتی جو انہوں نے رسول کریم ﷺ کا جانی، مالی اور زبانی مدد سے ساتھ دیا اور دین کو حرف بحرف ہم تک پہنچایا۔ اگر وہ بے ایمان ہوتے یا منافق ہوتے، جیسا کہ کچھ لوگوں کا غلط خیال ہے تو اسلام کا پودا نہ جڑ پکڑ سکتا اور نہ پروان چڑھ سکتا بلکہ بہت جلد مر جھا کے رہ جاتا ان پاک ہستیوں کے ایمان اور ایثار کا ذکر قرآن مجید میں سورہ انفال: 74/8 میں فرمایا:

”جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور خدا کی راہ میں اپنے مال و جان سے لڑے، وہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔“

بخاری و مسلم وغیرہ میں حدیث ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

”میرے اصحاب کو برانہ کہو کیونکہ تم اُحد پہاڑ کے برابر سونا خدا کی راہ میں خیرات کرو تو بھی میرے صحابہ کے ایک مَند (پنجابی والا ایک بک) کو خیرات کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔“

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا:

”دنیا میں سب سے زیادہ احسان مجھ پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہیں۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا:

”اگر اس امت میں سے نبی نہ ہونے کے باوجود کوئی ایسا ہو جس سے خدا

کلام کرے (مُحَدَّث، مُفْہِم، مُکَلِّم) تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوگا۔“

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اُحد پر فرمایا: ”یہ شہید ہوں گے۔“

”حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ وہی نسبت دی جو حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام

کو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے تھی اگر چہ اب نبی کوئی نہیں ہے۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دین میں اس لیے محترم ہیں کہ وہ برہان نبوت ہیں۔ وہ حضور ﷺ کے سچائی ہونے کی دلیل ہیں۔ وہ ایمان لانے سے پہلے بدترین لوگ تھے۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف: 179/7 میں فرمایا: کہ عرب کے لوگ جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر تھے۔ ان میں ہر عیب تھا اور ان عیوب کو مجلسوں میں علانیہ بیان کرتے تھے۔ اب بھی سب سے تعلقات میں وہ ساری باتیں موجود ہیں۔ مگر وہی لوگ جب رسول کریم ﷺ کے پاس آئے تو اللہ کے ولی بن گئے۔ وہی بد معاش بد و انتہائی نیک بن گئے۔ اگر حضور ﷺ معاذ اللہ سچے نہ تھے تو ایسے برے لوگوں کو کیسے بدل کر رکھ دیا؟ حضور ﷺ کے بے شمار معجزے اور دلائل نبوت ہیں لیکن ان میں سب سے بڑا معجزہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا وجود ہے کہ جو لوگ آپ ﷺ کے پاس بیٹھنے ان پر کیا رنگ چڑھا؟ وہ بدلے کہ نہیں بدلے؟ اگر بدلے ہیں تو برے بننے کے متقی؟ اس بات کی طرف قرآن نے کفار عرب کی توجہ دلائی کہ نبی ﷺ کے پاس بیٹھنے والوں کی زندگیوں میں انقلاب دیکھ کر بھی تم کو عقل نہیں آتی کہ وہ لوگ اب رکوع و سجود میں مشغول رہتے ہیں جو پہلے ہر وقت برے کاموں میں مشغول رہتے تھے۔ لہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معجزہ نبوت ہیں۔

پہلے انبیاء کرام رضی اللہ عنہم کے صحابی اگر بعد میں یا ان کی موجودگی میں بگڑ بھی جاتے تھے تو بعد میں آنے والے انبیاء کرام رضی اللہ عنہم ان کے بگاڑ کو درست کر دیتے تھے۔ مگر رسول خدا ﷺ چونکہ آخری نبی تھے۔ اگر ان کے ساتھی بھی اسی طرح بگڑ جاتے جیسے پہلی امتوں میں ہوتا تھا تو ان کو کس نے آ کر ٹھیک کرنا تھا؟ یاد رکھو حضور ﷺ اس لحاظ سے بھی انبیاء کرام میں سے منفرد ہیں کہ نہ آپ کی بیویوں میں سے کوئی کافرہ ہوئی نہ آپ کی اولاد میں سے کوئی کافر ہوا اور نہ سامری کا چھڑا پوجنے والوں کی طرح امت مرتد ہوئی۔ آپ ﷺ کی بیویوں کے متعلق قرآن مجید کی سورہ احزاب: 32/33 میں فرمایا: ”تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو۔“

اور شیعہ سنی سب عالم مانتے ہیں کہ حضور ﷺ کی اس دنیا میں بیویاں جنت میں بھی ان کی بیویاں ہیں۔ آپ ﷺ کی ساری بیویاں اور اولاد مومن تھی اور دونوں نواسوں اور بیٹی کے متعلق تو یوں فرمایا: ”جنت کے جوانوں کے سردار اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن کو پوری مسلمان امت چاہے وہ شیعہ سنی، خارجی، کوئی بھی ہو، سب متواتر مانتے ہیں۔ حتیٰ کہ کفار بھی تحقیق کرنے کے بعد مان گئے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن دنیا میں کبھی موجود نہیں رہا۔ انہوں نے صدیوں پرانے، مختلف ملکوں اور زبانوں کے قرآن مجید کے نسخے جمع کئے، چیک کئے، مگر یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ قرآن ایک ہی ہے۔ اگر حضور ﷺ کی وفات کے بعد سب صحابہ رضی اللہ عنہم، سوائے چار کے، معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے۔ تو پھر قرآن متواتر نہیں بلکہ خیر واحد بن جاتا اور مشکوک ہو جاتا کہ کیا یہ ان چاروں نے (معاذ اللہ) مل کر سازش کر لی ہو اور قرآن بنالیا ہو۔ یہ صرف تو اترا ہے جو قرآن کو بچاتا ہے کہ یہ ان دو چار کے پاس نہیں بلکہ مشرق مغرب کے مسلمانوں کے پاس تھا، لاکھوں صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس تھا، ان کی آپس میں جنگیں تو ہوئیں مگر قرآن یہی رہا۔ قرآن قطعی اور یقینی ہے اور ان روایات کو اٹھا کر پھینک دو جن میں لکھا ہے کہ قرآن میں کچھ کمی بیشی ہوئی۔ قرآن اس لیے قطعی اور یقینی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ویسی نہیں تھی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی۔ اگر صحابہ رضی اللہ عنہم بھی ان کی طرح مرتد اور کافر ہو جاتے تو قرآن کا تواتر کہاں سے ثابت ہوتا تھا؟

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کی تیسری دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خود خدا تعالیٰ نے مومن یعنی ایمان والے کہا مثلاً سورہ انفال: 8/8 میں فرمایا کہ اللہ وہی تو ہے جس نے خود بھی تمہاری مدد کی اور مومنوں کے ذریعہ بھی مدد کی یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسے مخلص مومنین آپ ﷺ کے ساتھ نہ ہوتے تو دین کیسے غالب آتا؟ اگر دین کیلئے سرکٹوانے والے سرفروش حضور ﷺ کو نہ ملتے تو دین مکہ مدینہ میں ہی رہ جاتا۔ جو دین پورے عرب اور پوری دنیا میں پھیلا وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذریعہ ہی پھیلا۔

سید قطب شہید رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”رسول کریم ﷺ کی اصل کامیابی یہ نہ تھی کہ آپ ﷺ دنیا کو قرآن دے گئے بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شکل میں لاکھوں چلتے پھرتے قرآن چھوڑ گئے، ان لوگوں کا کردار بالکل قرآن کے مطابق تھا۔“

اسی بات کو حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ

یہ رہنمائی کسی کو نہیں معلوم کہ مومن

قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دین کیلئے جان بازی کا جذبہ جنگ بدر کے موقع پر دیکھیں جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور ﷺ کو کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ، ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ ﷺ کو یہ نہیں کہیں گے کہ جا کر توڑ اور تیرا رب لڑے (المائدہ: 5/5) اگر آپ ﷺ ہم کو مسند میں چھلانگ لگانے کا فرمائیں تو ہم کو دجائیں گے اور اگر نیزوں کی نوکوں پر کھڑے ہونے کا حکم دیں تو ہم ایسا ہی کریں گے۔

حضور ﷺ کے ساتھی بھی اگر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح بے ایمان ہوتے تو جس طرح ان پر ملک موعود چالیس سال کے لیے حرام کر دیا گیا تھا (المائدہ: 26/5) تو پھر عرب میں اور باقی دنیا میں دین غالب نہ آ سکتا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان اور اخلاص اور اتباع رسول ﷺ کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ سے جو کچھ سنا اس کا ایک ایک حرف تمام کیفیات اور تفصیلات کے ساتھ بعد والوں کو منتقل کیا۔ حتیٰ کہ جس موقع پر حضور مسکرائے۔ وہ حدیث بیان کرتے ہوئے صحابہ بھی مسکراتے، جہاں آپ ﷺ نے بات کرتے وقت مخاطب کا ہاتھ پکڑا اُس موقع کی حدیث روایت کرتے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی مخاطب کا ہاتھ پکڑا، جہاں بات کرتے ہوئے حضور ﷺ نے اپنے دست مبارک کی چار انگلیاں کھڑی کیں، اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے صحابی نے اپنی چار انگلیاں کھڑی کیں۔ اور یہ سارے انداز آج تک

تمام حدیث روایت کرنے والے محدثین اسی طرح اپنے شاگردوں کے سامنے اختیار کرتے چلے آ رہے ہیں جیسا کہ چودہ سو سال پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا تھا۔ حدیث کی کتابوں کی بدولت ہر مسئلے کا حل اور حضور علیہ السلام کی پاک مجلس آج بھی ہر ایک کو میسر ہے۔

حضور علیہ السلام کا معجزہ، قرآن کے متواتر ہونے کا ثبوت، حضور کی احادیث کی حفاظت اور دین کی امداد میں اپنا جان مال کھپانا، صحابہ رضی اللہ عنہم کے مومن، مخلص اور قبیح سنت ہونے کی دلیل ہیں جن کی وجہ سے دین کا پودا تن آ و درخت بنا جیسا کہ سورہ فتح: 29/48 میں فرمایا:

”محمد ﷺ خدا کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔ اے دیکھنے والے تو ان کو دیکھتا ہے کہ خدا کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور خدا کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرتِ جہود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی کوئیل نکالی پھر اس کو مضبوط کیا پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر (تنے پر) سیدھی کھڑی ہو گئی اور کھیتی والوں کو خوش کرنے لگی تاکہ کافروں کا جی جلانے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے خدا نے گناہوں کی بخشش اور اجرِ عظیم کا وعدہ کیا ہے۔“

اگر رسول کریم علیہ السلام کے ساتھی بنی اسرائیل کی طرح بزدل ہوتے تو دین مکہ ہی میں ختم ہو کر رہ جاتا۔ باقی رہی بات غلطیوں کی تو یہ انسانی فطرت ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت فاطمہ علیہا السلام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ناراض ہوئیں تو اس سے پوچھو کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نبی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام ان سے تین سال بڑے تھے مگر موسیٰ علیہ السلام نے دینی جوش میں آ کر ان کو سر اور دماغی کے بالوں سے پکڑ لیا تھا اور کھینچا تھا۔ (سورہ طہ: 20-94-92) تو کیا اس سے معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کافر ہو گئے؟ وہ بشر تھے اور بشر کی دفعہ آپس میں لڑ جھگڑ پڑتے ہیں۔ اس طرح تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انسان تھے۔ انسانوں نے آپس میں

لڑنا بھی ہے اور جنت میں بھی جانا ہے۔

اگر ایک ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے حالات پڑھے جائیں کہ اسلام لانے سے پہلے ان کی زندگی کیسی تھی اور اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی تو ایک لاکھ سے زیادہ معجزے حضور علیہ السلام کے یہی بن جاتے ہیں۔ ان کی آپس میں جتنی چاہے رنجشیں ہوتی ہوں مگر ایک قرآن پر سب متفق تھے اور ان ہی سے قرآن کا تواتر ثابت ہوتا ہے۔ صحابہ کے حالات میں الاصابہ، اسد الغابہ اور الاستیعاب وغیرہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔

سیدنا آدم علیہ السلام خدا کے پہلے نبی اور انسان اول تھے۔ خود اپنے کانوں سے خدا کا حکم سنا تھا کہ اس درخت کے نزدیک نہ جانا۔ مگر حکم کی خلاف ورزی ہو گئی۔ خدا تعالیٰ سے معافی مانگی اور مل بھی گئی۔ اب کوئی ہے مائی کا لال جو سیدنا آدم علیہ السلام پر اعتراض کرے اور ان کو برا کہے۔ لہذا صحابہ رضی اللہ عنہم کی بھول چوک کی غلطی رہنے دو اور خدا تعالیٰ کی بخشش کے دروازے بند نہ کرو۔ ان کا اسلام پر بہت بڑا احسان ہے اور جو انسان کا احسان نہیں مانتا وہ رب کا احسان بھی نہیں مانتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم پر اعتراض کرنے والے کو آئینے میں اپنا منہ دیکھنا چاہئے کہ ہم دن رات میں کتنے گناہ کرتے ہیں۔ تو ایسا آدمی جو اٹھ کر ان عظیم لوگوں کے دامن پر ہاتھ ڈالتا ہے وہ اپنی فکر کرے اور اس نے خدا کو کیا منہ دکھانا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہم پر ان گنت احسان ہیں۔

وہ لوگ امت کیلئے نمونہ ہیں کہ حضور ﷺ نے نماز کیسے پڑھی ہے۔ خیرات کے حکم پر انہوں نے کس اعلیٰ درجہ میں عمل کیا، جہاد کے موقع پر کیا کیا قربانیاں دیں، اپنے ساتھیوں کے لئے کیسے ایثار کیا، ان کے حالات پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کو کیسے انسان مطلوب ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ

بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ اس جانِ جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے

چند اصولی باتیں

آگے بڑھنے سے پہلے چند اصولی باتیں سمجھ لینا چاہئیں۔

1۔ صحابہ رضی اللہ عنہم معصوم نہیں

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تھنا عشریہ میں لکھتے ہیں:

”اہلسنت کے نزدیک عصمت انبیاء علیہم السلام کا خاصہ ہے۔ یہ صحابہ کو معصوم نہیں جانتے اسی لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین اور حضرت علی علیہ السلام نے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو مختلف جرائم میں سزا دی۔“

مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ اپنی کتاب خلفائے راشدین میں لکھتے ہیں:

”خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نہیں ہوتا نہ اس کی اطاعت ہر کام میں مثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے واجب ہوتی ہے۔ بالفرض کوئی خلیفہ سہوایا عدا کوئی حکم شریعت کے خلاف دے تو اس حکم میں اس کی اطاعت نہ کی جائے گی۔ عصمت خاصہ نبوت ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو معصوم جاننا عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔“ (عقیدہ نمبر 4)

مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ (دیوبندی) کتاب تدوین حدیث ص: 435 پر لکھتے ہیں:

”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت میں ہر قسم کے لوگ تھے یعنی اعلیٰ، اوسط، ادنیٰ مدارج میں ان کو بھی تقسیم کیا جاسکتا ہے جیسے کہ ہر جماعت کے افراد میں یہ تقسیم جاری ہوتی ہے۔ تاہم یہ مسلم تھا کہ پیغمبر کے سوا کوئی بشر چونکہ معصوم پیدا نہیں کیا جاتا اس لیے نہ اس زمانے میں نہ اس کے بعد اس وقت تک کسی طبقہ کے صحابیوں کو معصوم قرار دینے کا عقیدہ مسلمانوں میں کبھی پیدا ہوا۔“

مولانا بدر عالم میرٹھی مہاجر مدنی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سوا کسی فیصلہ کو الہی فیصلہ اور قضاء الہی نہیں کہا

جاسکتا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کے علاوہ کسی اور مرد بشر کا فیصلہ کتنے چینی سے بالاتر ہو سکتا ہے اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر انسان کے فیصلہ پر دل و جان سے راضی ہونا لازم قرار نہیں دیا جاسکتا۔“

(ترجمان السنن ج: 3 ص: 426)

2۔ الصحابة کلہم عدول کا معنی

مولانا عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں:

”یہ عقیدہ کسی عقیدہ اور علم کلام کی کتاب میں مذکور نہیں البتہ حضرات محدثین اصول حدیث میں راویوں کی تحقیق و تعدیل کے بیان کرتے وقت ذکر کیا کرتے ہیں۔ جس کسی نے عقائد میں درج کیا ہے، اسی جگہ سے کیا ہوگا اور عدالت کے معنی اس میں روایت کے اندر کذب کے ارادہ سے پرہیز کرنا ہے اور درحقیقت تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اس عدالت کے ساتھ موصوف تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کرنے کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے۔“ (فتاویٰ عبدالحی اردو کا مل مقب ص: 83)

مولانا عبدالسلام ندوی اپنی کتاب ”اسوہ صحابہ“ ص: 20 پر فرماتے ہیں:

”یہ کسی محدث کا دعویٰ نہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم انصاف کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے، اور ان سے کوئی فعل تقویٰ و طہارت کے خلاف صادر نہیں ہو سکتا یا وہ انبیاء کی طرح معصوم ہیں یا وہ تمام گناہوں سے محفوظ ہیں بلکہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی صحابی روایت کرنے میں دروغ بیانی سے کام نہیں لیتا۔“

امام ابو حاتم محمد بن حبان اپنی کتاب ”صحیح ابن حبان“ میں عدالت کی تعریف یوں فرماتے ہیں:

”انسان میں صفت عدالت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اکثر احوال اطاعت الہی پر مبنی ہوں۔ یہ اس لیے کہ اگر ہم عادل و راست باز صرف اس کو قرار دیں جس سے کسی حالت میں صدور معصیت نہ ہو تو ہمیں تسلیم کرنا

پڑے گا کہ دنیا میں کوئی عادل ہی نہیں کیونکہ انسانوں کے حالات شیطان کی در اندازی سے خالی نہیں ہوتے بلکہ عادل وہ ہے جس کی ظاہر حالت میں خدا کی بندگی موجود ہو اور غیر عادل وہ ہے جس کے اکثر احوال زندگی اللہ کی نافرمانی میں بسر ہوتے ہوں۔“

مولانا محمد اعلیٰ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”کشاف اصطلاحات الفنون“ میں لفظ صحابی کے تحت اصول حدیث کی مختلف کتابوں کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

”جان لو! صحابہ کرام رضی اللہ عنہم روایت حدیث کے معاملے میں سب کے سب عدول ہیں اگرچہ ان میں سے بعض کسی دوسرے معاملے میں غیر عادل ہوں۔“ (کشاف اصطلاحات الفنون، ج: 1، ص: 809)

حافظ ابو بکر احمد الخطیب بغدادی اپنی کتاب ”الکفایہ فی علم الروایہ، باب الکلام فی العدالة و احکامہا“ میں حضرت سعید بن مسیب سے نقل کرتے ہیں:

”کوئی بزرگ اور عالم اور حاکم ایسا نہیں جس میں لازماً کوئی نہ کوئی عیب نہ ہو، لیکن لوگوں میں سے جس کے عیوب کا چرچا نہ ہو اور جس کے فضائل اس کے نقائص سے زیادہ ہوں، اس کا نقص اس کے فضل کی بنا پر زائل ہو جائے گا۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”میرے علم میں کوئی ایسا نہیں جس نے اللہ کی طاعت کی ہو اور پھر اس میں اللہ کی نافرمانی کی آمیزش نہ کی ہو سوائے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے، اور کوئی ایسا بھی نہیں جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہو مگر اس کے ساتھ اس کی اطاعت بھی نہ کی ہو۔ پس جس کی اطاعت غالب ہو تو اسے عادل قرار دیا جائے گا۔ اور جس کی معصیت غالب ہو اسے مجروح ٹھہرایا جائے گا۔“ (الکفایہ)

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

”کہ سب صحابہ عادل ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ سب صحابہ رضی اللہ عنہم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے میں معتبر ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ سب صحابہ معصوم ہیں یا ان سے کبھی گناہ صادر نہ ہوا ہو۔“

(فتاویٰ عزیزی مترجم، ص: 216-217، سے مختصراً)

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”سب صحابہ رضی اللہ عنہم ثقہ راوی ہیں اور روایت کرنے میں سچے ہیں اور حدیث بیان کرنے میں سب لوگوں سے سچے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں معلوم ہو سکا جس نے جان بوجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہو حالانکہ انہی صحابہ کرام میں سے بعض سے کثرتِ روایاں صادر ہوئیں جیسا کہ واقعہ ہے اور ان سے گناہ بھی سرزد ہوئے اور وہ معصوم نہ تھے۔“ (منہاج السنہ ج: 1، ص: 229)

محدث ابن النباری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”یہ مراد نہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم بالکل معصوم ہیں اور ان سے گناہوں کا صدور محال ہے بلکہ صرف مراد یہ ہے کہ اسباب عدالت اور تزکیہ کی طلب سے متعلق بحث کے بغیر ان کی روایت قبول کی جائے گی سوائے اس صورت کے کہ جب کسی امرِ قادح کے ارتکاب کا ثبوت مل جائے اور یہ ثابت نہیں۔“

(منہج الوصول الی اصطلاحات احادیث الرسول نواب سید صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ)

ص: 164، مولانا سعید احمد اکبر آبادی فاضل دیوبند کی کتاب فہم قرآن، ص: 134)

3- کیا صحابہ رضی اللہ عنہم معیار حق ہیں؟

جب قرآن مجید کی طرف رجوع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کسی مقام پر بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے انفرادی افعال و اعمال کو ہمارے لیے مستقل اسوہ و مرجع قرار نہیں دیا گیا بلکہ تمام مسلمانوں کے ساتھ خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی یہ تعلیم فرمائی گئی ہے کہ جب کسی معاملہ میں تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو اُسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ (النساء: 59/4) اس ارشاد پاک کے اولین مخاطب خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی ہیں اور اس میں اللہ

تعالیٰ نے خود فیصلہ فرمادیا ہے کہ ایک ایک صحابی رضی اللہ عنہ بجائے خود معیار حق نہیں ہے بلکہ اختلاف کی صورت میں صحابہ رضی اللہ عنہم کیلئے بھی مرجع کتاب و سنت ہی ہے۔

ایک روایت اس سلسلہ میں عام طور پر بیان کی جاتی ہے کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے راستہ پالو گے۔ اس روایت اور اس سے ملتے جلتے الفاظ پر مشتمل بعض دیگر روایات کی سند محدثین اور فن رجال کے ماہرین کے نزدیک نہایت کمزور ہے۔ اس لیے عقائد و احکام کی بحث میں ان سے استدلال جائز نہیں بلکہ فضائل میں بھی ان کے ضعف کی صراحت کیلئے بغیر ان کا بیان کرنا صحیح نہیں ہے۔

حافظ امام ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے ”جامع بیان العلم“ میں اس روایت کی سند نقل کر کے لکھا ہے: ”یہ ایسی سند ہے جس کے سہارے کوئی حجت قائم نہیں ہوتی۔“ امام ابن حزم رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”یہ ہر اعتبار سے گری ہوئی روایت ہے۔ ایک جھوٹی، من گھڑت اور باطل خبر ہے جو صحیح ثابت نہیں ہوتی۔“ (الاحکام ابن حزم)

امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ”تخریج کشاف“ میں اس اور اس جیسی دوسری روایات کی ساری سندوں کا ذکر کے انہیں ضعیف اور اہی قرار دیا ہے۔

امام شوکانی رحمہ اللہ نے ”ارشاد الفحول“ ص: 83 پر اجماع پر بحث کرتے ہوئے یہ روایت نقل کی اور لکھا: ”اس کی سند میں کلام ہے جو معروف ہے اور تصریح کی کہ اس کا ایک راوی نہایت ضعیف اور دوسرا راوی امام ابن معین رحمہ اللہ کے نزدیک کذاب ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے منکر الحدیث کہا ہے۔ امام ابن معین رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ راوی ایک کوڑی کا بھی نہیں۔ ابن عدی رحمہ اللہ نے اس راوی کی روایات کو من گھڑت قرار دیا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام لمؤرخین، ج: 2، القول فی التقليد میں ان روایات کو غیر صحیح ثابت کیا۔

امام شوکانی رحمہ اللہ کا قول فیصل ”ارشاد الفحول، الفصل السابع فی الاستدلال، البحث الخامس فی قول صحابی“ میں یہ ہے کہ قول صحابی حجت

نہیں۔ اللہ نے اس امت کی طرف صرف نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ ہمارے لیے بس ایک ہی رسول علیہ السلام اور ایک ہی کتاب ہے۔ تمام امت اللہ کی کتاب اور اس کے نبی علیہ السلام کی اتباع پر مامور ہے اور اس معاملہ میں صحابہ وغیر صحابہ میں کوئی فرق نہیں۔ یہ سب کے سب تکالیف شرعیہ اور اتباع کتاب و سنت کے مکلف ہیں جس شخص نے یہ کہا کہ اللہ کے دین میں کتاب و سنت یا جو کچھ ان دونوں کی طرف راجع ہوتا ہے، اس کے سوا کسی اور چیز سے بھی حجت قائم ہو سکتی ہے، اس نے دین کے بارے میں ایک بے ثبوت بات کہی۔“

4۔ صحابہ رضی اللہ عنہم سے گناہ کا سرزد ہونا

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی گناہ سرزد ہوئے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی ساری بزرگی اور کرامت ختم ہو گئی۔ قرآن مجید کا ہی بیان ہے کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ (ہود 114/115) اگر کوئی یہ کہے کہ صحابہ سے گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا تو یہ درست نہیں کیونکہ سورہ توبہ: 25/26، میں جنگ حنین کے روز بھاگنے والوں کو ڈانٹا گیا، آیت نمبر 81 تا 85 میں غزوہ تبوک میں شامل نہ ہونے والوں پر عتاب ہے۔ اسی طرح سورہ جمعہ: 11/62 میں خطبہ جمعہ چھوڑ جانے والوں کو ٹوکا گیا۔ بخاری کتاب الحدود باب الضروب میں بعض صحابہ پر حد جاری ہونے کا بیان ہے۔ ایسی باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف نہیں آتا کیونکہ زندہ وجود مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور مرد بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پھڑپھڑا پو جا گیا تو اس سے موسیٰ علیہ السلام پر الزام نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میں صحابہ رضی اللہ عنہم کیلئے امان ہوں اور صحابہ امت کے لیے امان ہیں۔ جب میں چلا جاؤں گا تو اصحاب پر وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ ہے (یعنی فتنہ و آزمائش کا) اور جب صحابہ رضی اللہ عنہم چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ ہے۔“ (یعنی فتنہ و آزمائش کا)

(مسلم کتاب الفضائل باب بیان ان بقا النبی صلی اللہ علیہ وسلم امان لاصحابہ و بقاء

اصحابہ امان لامتہ)

5- حدیث خیر القرون کی وضاحت

شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب ”حجة الله البالغة“ کی دوسری جلد کے آخر میں اس حدیث کی وضاحت کی ہے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں:

”یہ جو ایک قرن کو دوسرے قرن (دور) پر فضیلت دی گئی ہے اور اس کو دوسرے قرن سے افضل بتایا گیا تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ اس قرن والوں کو ہر ایک حیثیت سے دوسرے قرن والوں پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ آپ ﷺ نے اس حدیث میں اس غلط فہمی کو رفع فرمایا اور اصل حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ میری امت کی مثال بارش کی ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کی ابتداء اعلیٰ و افضل ہے یا اس کا آخر بہتر ہے۔ آپ ﷺ کی ایک اور حدیث ہے جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم تو میرے اصحاب ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے۔“

(مسلم کتاب الطہارۃ باب استحباب اطالۃ الغرة والتعجیل فی الوضوء)

اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک کو دوسرے سے افضل بتانے کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں اور بعض اوقات ان میں تعارض ہوتا ہے اور یہ کہنا کسی صورت میں ممکن نہیں کہ جس قرن (دور) کو دوسرے کے مقابلہ میں افضل بتایا گیا ہے، اس کے ہر فرد کو دوسرے دور کے ہر فرد پر فضیلت حاصل ہو۔ اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ جبکہ یہ امر واقعہ ہے اور سب اس کو مانتے ہیں کہ قرون فاضلہ (خیر القرون) میں بھی بعض ایسے افراد موجود تھے جن کے نفاق و فسق پر امت کا اتفاق و اجماع ہے مثلاً حجاج بن یوسف، یزید بن معاویہ، مختار ثقفی اور قریش کے چھوکرے جن کے ہاتھوں امت کی ہلاکت ہوئی اور جن کی بد اعمالیوں، بد کردار یوں کا حال خود آنحضرت ﷺ نے بیان فرمایا۔ اس بارے میں محقق اور قطعی بات یہی ہے کہ قرن اوّل کے جمہور قرن ثانی کے جمہور سے افضل تھے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کا ایک ایک فرد اس دوسرے دور کے ایک ایک فرد سے افضل ہوگا۔

6- صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہر قسم کے لوگ شامل تھے

سورہ توبہ: 9/ 100 تا 102 میں صحابہ کے تین گروپ بیان ہوئے ہیں پہلا گروہ نیکیوں میں پہل کرنے والوں کا ہے یہ شروع میں کلمہ پڑھنے والے اور نیکیوں میں بہت آگے تھے۔ ان کے ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بعد میں ایمان لائے مگر انہوں نے پہلوں جیسی نیکیاں کر کے دکھادیں۔ ان دونوں گروہوں کے لیے آیت نمبر 100 میں فرمایا ”رضی اللہ عنہم ورضو عنہ“ آیت 101 میں فرمایا کہ دوسرا گروپ منافقوں کا ہے۔ وہ نفاق میں اتنے ماہر تھے کہ ان کو صرف خدا جانتا ہے۔ ان کی تعداد کا اندازہ اسی سے کر لیں کہ جنگ احد کے موقع پر لشکر کے 1/3 حصہ کے برابر منافق بالکل ننگے ہو کر سامنے آ گئے۔ آیت نمبر 102 میں تیسرے گروہ کا بیان ہے جو منافق نہیں تھے مگر ان کے اعمال ملے جلے تھے۔ ان کیلئے فرمایا شاید اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے۔ ان کا معاملہ ملتوی ہے۔ ہمارے دور کے لوگ ہر ایک کو ”رضی اللہ عنہ“ کہتے ہیں حالانکہ یہ شان صرف ان کی ہے جو السابقون الاولون یا ان کے بہترین پیروکار تھے۔

سورہ آل عمران: 152/3 میں فرمایا: ”تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے۔“ یہ آیت جنگ احد کے بعد نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ابوطالبہ رضی اللہ عنہ، تینوں سے روایت ہے مگر امام ابن کثیر نے ایک لکھی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے مجھے کوئی قسم دیتا تو میں کہہ دیتا کہ صحابہ میں دنیا کا طالب کوئی نہیں یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔“

(تفسیر ابن کثیر ج: 1، ص: 413 عربی)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں زیادہ تعداد مخلص مومنوں کی تھی جن کی قربانیاں دین کی ترقی کا باعث بنیں۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ منافق اور بعد میں بدل جانے والے لوگ بھی صحابہ میں گھسے ہوئے تھے اور ان پر بھی لفظ صحابی ہی بولا گیا۔ امام بخاری کتاب التفسیر سورہ توبہ باب فقاتلو آئمة الکفر انہم لا ایمان لہم کے تحت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ

کی حدیث لائے ہیں جس میں راوی حدیث زید ابن وہب کہتے ہیں کہ ہم حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ انہوں نے فرمایا:

”یہ آیت جن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے ان میں سے اب صرف تین شخص باقی ہیں۔ اس طرح منافقوں میں سے اب بھی چار آدمی زندہ ہیں۔ میں ان کو جانتا ہوں ان میں سے ایک ایسا بوڑھا ہے کہ اگر وہ ٹھنڈا پانی پئے تو اس کی ٹھنڈک تک محسوس نہیں کرتا۔“

سورہ توبہ: 101/9 میں فرمایا گیا ہے:

”بعض کچے منافق ایسے ہیں جن کو رسول کریم ﷺ بھی نہیں جانتے۔ جنگ احد سے واپس مڑنے والے منافقوں کو بھی صحابی کہا گیا۔“

(ترمذی کتاب التفسیر سورہ نساء، عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ)

بخاری کتاب التفسیر (سورہ المائدہ) باب و کنت علیہم شہیداً ما دمت

فیہم کے تحت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث میں بیان ہے:

”میدان حشر میں کچھ لوگ میری امت میں سے حاضر کئے جائیں گے اور ان کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ میں کہوں گا اے رب یہ میرے صحابی ہیں۔ جواب ملے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا نئے کام کئے اور جب سے آپ ان سے جدا ہوئے یہ لوگ اسلام سے پھر گئے۔“ مندا احمد میں روایت نمبر: 27022-27195-27081 بھی اسی سلسلہ میں ہیں۔“

یہ روایت بخاری، سورہ انبیاء کی تفسیر میں بھی آئی ہے۔ کتاب الرقاق باب کیف الحشر میں بیان انا اعطینک الکوفثر میں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، ہبل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور یہ بھی درج ہے کہ میں ان لوگوں کو پہچان لوں گا۔ بخاری ہی میں ان ابواب کے علاوہ دوسرے مقام پر

اور ترمذی میں ابواب صفة القيامة باب ما جاء في شأن الحشر، مسلم شریف کتاب الطهارة باب استحباب اطالة الغرة والتحجيل في الوضوء میں بھی آئی ہے۔ مسلم شریف کتاب البر والصلة الادب باب نصر الاخ ظالماً او مظلوماً میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں حضور ﷺ نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی پر بھی لفظ صحابی بولا۔

سورہ فاطر: 32/5 میں بھی مسلمانوں کے تین گروپ بیان ہوئے۔

- (1) اپنے آپ پر ظلم کرنے والے
- (2) میانہ رو یعنی ملے جلے اعمال والے
- (3) سابقون بالخیرات یعنی نیکوں میں آگے نکل جانے والے

تمام مسلمان گروہوں کی کتابوں کے تحقیقی مطالعہ، قرآن وحدیث پر غور و فکر کے بعد ایک عجیب صورت حال سامنے آتی ہے کہ حضور ﷺ کے مبارک زمانہ میں جو لوگ مسلمان ہوئے وہ دو طرح کے تھے۔ ایک گروہ آپ ﷺ کو نبی سمجھ کر سچا ایمان لانے والا تھا اور کچھ نے بادشاہ سمجھ کر تسلیم کر لیا تھا۔ یہ تقسیم احادیث میں صاف نظر آتی ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں آپ ﷺ کی رسالت جاگزیں نہ ہوئی اور وہ آپ ﷺ کو ایک بادشاہ ہی سمجھتے رہے۔ صحابہ کو دی گئی بشارتیں نیک اعمال سے مشروط ہیں۔

(ابن قیم: الفوائد، ص: 17، مرقاة المفاتیح ملا علی قاری، ج: 1- ص: 28)

7- کیا مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم بیان کرنا منع ہے؟

مشاجرات صحابہ کے متعلق یہ موقف درست نہیں کہ ان کو بیان نہ کیا جائے کیونکہ تمام کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے جو دنیا پڑھ رہی ہے، تو بیان کرنے سے منع کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں یہ لازم ہے کہ روایت درست ہوئی چاہیے۔ یہ موقف جماعت المسلمین کے بانی مسعود احمد بن الیسی اور اہل حدیث عالم مولانا صلاح الدین یوسف کا بھی ہے اگرچہ وہ اس پر قائم نہیں رہے اور خود ضعیف روایات کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ مشاجرات

صحابہ بیان کرنے کا مقصد صحابہ کو بدنام کرنا نہیں بلکہ صحیح اسلامی حکومت کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے۔

یاد رکھو! اس سے بڑا شرک کوئی نہیں ہے کہ ہم کہیں اس واقعہ میں چونکہ فلاں بزرگ کا نام آتا ہے لہذا خاموش رہو۔ دین میں کہاں لکھا ہے کہ بڑا آدمی غلطی کرے تو تنقید نہ کرو۔ کیا صحابہ رضی اللہ عنہم انبیاء کرام علیہم السلام سے بڑے ہیں؟ قرآن مجید میں سیدنا آدم علیہ السلام کو ٹوکا گیا کہ منع کرنے کے باوجود شجر ممنوعہ کے پاس کیوں گئے (طہ: 121/20) یہ بات ہر عالم برسر منبر بتاتا ہے۔ کیا اس سے سیدنا آدم علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے یا ان کی ثبوت کا انکار ہوتا ہے؟ کیا ان کی شان کا کوئی منکر ہے؟ اسی طرح سیدنا نوح علیہ السلام کو بیٹے کے بارے میں بات کرنے پر ٹوکا گیا اور انہوں نے اسی وقت معافی طلب کی۔ (ہود: 46/47)

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے لیے دعا کی تو ٹوک دیا گیا (توبہ: 114/9) موسیٰ علیہ السلام سے قتل خطا ہوا تو اس کو عمل شیطان کہا گیا (انقص: 28/15) خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ تحریم: 66/1 اور سورہ عیس: 8/1 ٹوک دیا گیا۔ اب کوئی ماں کا لال ایسا ہے جو ان مثالوں کی بناء پر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین کا سوچ کر کافر ہو جائے؟ ان کے بلند مرتبے ان کے پاس ہی ہیں۔ ان سے صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیوح قدوس صرف اللہ تعالیٰ ہے اس لیے جبر مہر علی شاہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، یہی توحید ہے کہ خدا جیسا کوئی نہیں۔

خود قرآن مجید میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو کئی موقعوں پر ٹوک دیا گیا مثلاً جنگ احد میں بلا اجازت درخت چھڑنے والوں پر تارائی لگائی کا اظہار فرمایا۔ (آل عمران: 152/3) لہذا! بڑے لوگوں پر تنقید ہو سکتی ہے مگر تنقید اور گالیاں دینے میں فرق ہے۔ یہ شرک کی قسم ہے کہ بڑے آدمی سے غلطی ہو جائے تو خاموش رہو اور ان کو تحفظ دو۔ غلط کام کا غلط نتیجہ ہی نکلے گا چاہے بڑے آدمی سے ہو۔

علامہ البانی رحمہ اللہ سلسلہ احادیث ضعیفہ میں لکھتے ہیں:

السلطان العادل المتواضع ظل الله ورحمه في الارض يرفع له عمل سبعين صديقا۔

یہ حدیث ابو بکرہ، انس، ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے مختلف کتب میں روایت کی گئی ہے۔ جن میں فردوس دیلمی، الحکیم ترمذی، بزار، طبرانی کبیر، شعب الایمان للبیہقی، ابن نجار میں درج ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے احادیث ضعیفہ ج: 1، ص: 491، 492، حدیث نمبر 3348 تا 3353 میں ان روایات پر بحث کر کے لکھا ہے کہ یہ تمام موضوع یا ضعیف ہیں۔

چونکہ بادشاہ ظل اللہ والی تمام روایات جھوٹی ہیں لہذا ظالم بادشاہوں کے فتوؤں کی دین میں کوئی حیثیت نہیں۔

امام ابو عبد اللہ قرطبی نے تفسیر قرطبی میں آیت منع غیبت کے تحت امام حسن بصری رحمہ اللہ کے حوالہ سے لکھا ہے..... ”تین قسم کے لوگوں کے عیب بیان کرنا غیبت نہیں“

(1) صاحب بدعت

(2) علانیہ فاسق

(3) ظالم حاکم

امام سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ نے شرح المقاصد میں لکھا ہے کہ:

”صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو محاربات و منازعات وقوع میں آئے وہ کتب تاریخ میں درج ہیں اور ثقہ لوگوں کی زبانوں پر مذکور ہیں، بظاہر اس امر پر دال ہیں کہ بعض صحابہ طریق حق سے تجاوز کر کے حد فق و ظلم کو پہنچ گئے اور اس کا باعث کینہ اور عناد اور حسد اور شدت خصومت اور طلب ملک و ریاست اور شہوت نفسانی کی طرف میلان تھا، کیونکہ ہر صحابی معصوم اور ہر وہ شخص کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے، نیکی کے ساتھ موسوم نہ تھا۔“

(بحوالہ ارجع المطالب ص 577، عیdale امرتسری)

”اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ نواصب عداوت اہل بیت اور روافض عداوت صحابہ رضی اللہ عنہم کی وجہ سے معدوم نہیں ہوں گے۔“

(نحفة الثناء عشرہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ص 154 اردو)

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ منہاج السنہ ج 3: ص 176-177 پر لکھتے ہیں:

”دو قسم کے لوگ سیدھے راستہ سے ہٹ گئے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو صحابہ رضی اللہ عنہم پر ایسے اعتراض پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں جو بخشش کا امکان رکھتے ہیں مگر وہ لوگ ان اعتراضات کو اچھال رہے ہیں۔ ان کو صحابہ رضی اللہ عنہم کی کوئی نیکی نظر نہیں آتی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو صحابہ رضی اللہ عنہم کی غلطیوں کو بھی نیکی بنا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ لوگ غلو میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ گناہ کو نیکی بنا دیتے ہیں۔ غالی ان کی ایک برائی کو اچھال کر ان کی باقی نیکیوں پر پانی پھیر دیتے ہیں حالانکہ خارجیوں سمیت پوری امت مانق ہے کہ نیکیاں کرنے والے کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔“

8۔ فتنہ ناصبیت

اس دور میں فتنہ ناصبیت بہت ترقی کر گیا ہے۔ ناصبی دشمن اہل بیت علیہم السلام کو کہتے ہیں۔ کہ اچھی سے علانیہ کتابیں شائع ہو رہی ہیں جن پر لکھا ہوتا ہے ”ناصری بھائیوں کے لئے“ وہ لوگ دفاع صحابہ کے نام پر صحیح حدیثوں کو رد کر رہے ہیں اور پرچار کر رہے ہیں کہ یزید امیر المؤمنین تھا، امیر معاویہ برحق اور علی و حسین علیہم السلام نعوذ باللہ جموٹے تھے۔ یہ تمام کاروائی جو دفاع صحابہ کے نام پر ہو رہی ہے، اہل حدیث و اہل سنت حضرات ہضم کر رہے ہیں۔ اور یہ نہیں سوچتے کہ اس طرح ہم اپنے ہی گھر کو آگ لگا رہے ہیں۔ جس طرح پہلے تین خلفاء رضی اللہ عنہم قابل احترام میں اسی طرح حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد بھی قابل احترام ہیں۔ ناصبیوں کے نزدیک صحابہ صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلامی حکومت کو تباہ کیا حالانکہ قیامت تک آنے والی اس امت کی مصیبتوں کے وہی ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے

انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹ دیا اور ابن خلدون کے الفاظ میں انقلاب الخلافة البی الملک پر عمل پیرا ہوئے۔

یاد رکھو! اسلام میں کوئی خرابی نہیں، یہ مشین بالکل ٹھیک ہے مگر چلانے والوں کی غلطی کی وجہ سے نظام خراب ہو گیا چاہے وہ کتنے نیک تھے۔ نظام اسلام میں کوئی خرابی نہیں یہ دین برحق اور بالکل صحیح ہے۔ مگر ناصبی نظام چلانے والوں کی غلطی تسلیم نہیں کرتے بلکہ اسلام کو زیر عتاب لے آتے ہیں۔ اسی وجہ سے غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ اسلام صرف 30 سال تک چلا، اس لئے یہ قابل عمل نہیں ہے۔ اس اعتراض کا صحیح حل کرنے کی بجائے ناصبی شخصیات کا دفاع شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ سارا مواد بخاری و مسلم سمیت حدیث کی معتبر کتابوں میں ہے۔ ناصبی یا تو احادیث کو چھپاتے ہیں یا ان کو رد کر دیتے ہیں تاکہ ان کے مدوح مجرد نہ ہوں۔

خلافت راشدہ اور اس کی خصوصیات

اس بابرکت نظام کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حکمران لوگوں کی آزاد مرضی سے چنا جاتا ہے۔ لوگ بغیر کسی دباؤ یا لالچ کے خود اپنی رضا و رغبت سے اسے پسند کر کے بیعت کرتے ہیں۔ اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ بھی آتے ہیں:

”کہ جس شخص کو مشورے کے بغیر حکومت دی جائے اس کے لئے اس کا

قبول کرنا حلال نہیں ہے۔“ (فتح الباری ج 2: ص 125، امام ابن حجر)

خلیفہ راشد لوگوں کے مشورہ کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ کتاب اللہ و سنت رسول میں کوئی حکم نہ ملتا تو قوم کے سرکردہ اور نیک لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کیا جاتا۔ پھر جو رائے قرار پاتی اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا۔ مشورے کے بارے میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا تصور یہ تھا کہ اہل شوری کو پوری آزادی کے ساتھ اظہار رائے کا حق ہے۔

بیت المال کو خدا اور خلق کی امانت سمجھا جاتا تھا۔ اس میں نہ خلاف قانون کچھ آتا نہ خلاف قانون شریعت کچھ خرچ کیا جاتا۔ حکمرانوں کی ذاتی اغراض کیلئے خرچ کو حرام سمجھا

جاتا تھا۔ یہی بادشاہی اور خلافت میں بنیادی فرق ہے۔

حکومت کی ذمہ داری کو خلفائے راشدین بوجھ سمجھتے تھے اور لوگوں سے توقع رکھتے تھے کہ وہ صحیح کام میں ساتھ دیں گے اور اور غلط کام پر ٹوک دیں گے۔ وہ خود کو قانون سے بالا تر نہیں سمجھتے تھے بلکہ قانون کی نگاہ میں خود کو عام آدمی کے برابر قرار دیتے تھے۔

ان کی حکومت ہر قسم کی قبائلی، نسلی اور وطنی عصبیتوں سے پاک تھی۔ اس خلافت کی سب سے اہم خصوصیت تنقید اور اظہار رائے کی آزادی تھی۔ وہ ہر وقت اپنی قوم کی دسترس میں تھے۔ وہ خود اہل شوریٰ کے درمیان بیٹھے اور مباحثوں میں حصہ لیتے تھے۔ ان کی کوئی سرکاری پارٹی نہ تھی نہ ان کے خلاف کوئی پارٹی تھی۔ شوریٰ سے کچھ چھپایا نہ جاتا اور تمام فیصلے دلیل کی بنیاد پر کئے جاتے۔

خلافت راشدہ روشنی کا بینار تھا جس کو تمام ادوار کے محدثین و فقہاء اور عام مسلمان اسلام کے مذہبی، سیاسی، اخلاقی اور اجتماعی نظام کے معاملہ میں معیار سمجھتے رہے۔ خلافت راشدہ کا اختتام ہی مسلمانوں کی فرقہ بندی کی اصل وجہ ہے کہ ملکیت کے نظام میں کوئی ایسا معتد ادارہ موجود نہ رہا جو اختلافات کو بروقت حل کر سکے۔

خلافت 30 سال تک ہے

حضور ﷺ نے فرمایا:

”میرے بعد خلافت تیس سال تک ہے پھر ملک عضو ضائع یعنی کاٹ کھانے

والی بادشاہت ہے۔“

(البانی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ج: 1، ص 520، حدیث 459، ابوداؤد

حدیث نمبر 4646، ترمذی کتاب الفتن باب ماجاء فی الخلافہ، ابن حبان

حدیث نمبر 1535، سیر اعلام النبلاء للذہبی ج: 4، ص 79، الجواب

الصحیح امام ابن تیمیہ ج: 4، ص 138)

مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ (تبلیغی جماعت والے) اپنی کتاب ”معارف الحدیث“

کی جلد 7 میں سیاست کے عنوان کے تحت اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

”امیر معاویہ ان خلفاء میں شامل نہیں جو حضور ﷺ نے بیان فرمائے۔ امام ابن حجر فتح الباری ج: 12، ص: 392، پر لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ کو جو خلیفہ کہتے ہیں تو یہ لغوی معنوں میں ہے۔ خلافت علی منہاج النبوت 30 سال تک تھی۔ پھر معاویہ اور ان کے بعد آنے والوں کو بے شک لوگ خلیفہ کہتے ہیں مگر ان کا طریقہ بادشاہوں کا تھا۔“

امام ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری، ج: 12، ص: 392 پر لکھتے ہیں کہ حدیث ہے:

”خلافت میرے بعد 30 سال تک ہے اس سے مراد خلافت نبوت ہے اور

معاویہ اور بعد والے بادشاہوں کے طریقے پر تھے چاہے ان کا نام خلیفہ رکھو۔“

اہل حدیث عالم مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ ابوداؤد کی شرح ”عون المعبود“ ج: 4، ص: 342 پر لکھتے ہیں:

”امام متاوی رحمہ اللہ نے کہا خلافت ختم ہونے کے بعد یعنی 30 سال کے بعد

بادشاہت ہے۔ کیونکہ خلیفہ کا نام صرف ان کے لیے ہے جو سنت نبوی پر

چلتے رہے اور مخالف سنت نبوی بادشاہ تھے، خلیفہ نہ تھے۔ ہاں ان بادشاہوں

کو خلیفہ کہہ دیتے ہیں کیونکہ ایک کے بعد دوسرا جو آیا (یہ صرف لغت کے

مطابق ہے نہ کہ دین کے مطابق) مولانا عبدالرحمن مبارکپوری رحمہ اللہ اہل

حدیث عالم ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی ج: 3، ص: 230 پر لکھتے

ہیں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ صحابی نے کہا پہلا بادشاہ معاویہ ہے اور خلافت

نبوت سے مراد خلافت کاملہ لی جاتی ہے اور وہ صرف 15 اشخاص میں منحصر

ہے (حضرت حسن علیہ السلام تک) لہذا جب 12 خلفاء کی بات آئے تو اس کے

خلاف نہیں کیونکہ وہ مطلق حکمرانوں کی بات ہے۔“

شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ تحفۃ اثناء عشریہ ص: 363 پر لکھتے ہیں:

”کل اہل سنت متفق ہیں اس بات پر کہ معاویہ بن ابی سفیان شروع امامت حضرت امیرؓ سے اس وقت تک کہ حضرت امام حسنؓ نے اس کے سپرد کی، باغیوں میں سے تھا کہ امام وقت کا مطیع نہ تھا۔ اور جب حضرت امامؓ نے حکومت اس کے سپرد کر دی تو بادشاہوں سے ہوا..... اسی واسطے اہل سنت اس کو کہتے ہیں کہ اسلام میں اول بادشاہ وہ ہوا ہے۔“

مولانا ابوالکلام آزادؒ ”مسئلہ خلافت ص: 23 باب خلافت خاصہ و ملوک“ میں لکھتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”خلافت میرے بعد تیس سال تک ہے پھر بادشاہت ہے۔“ جیسا کہ اصحاب سنن نے لکھا ہے۔

مولانا محمد میاں استاد دارالعلوم دیوبند ماہنامہ دارالعلوم دیوبند بابت دسمبر 1965ء میں لکھتے ہیں:

”عہد خلافت راشدہ کے بعد داعی اسلام تمام دولتیں (حکومتیں) اپنے اپنے دولتی قصروں (حکومتی محلوں) کی تعمیر، فرعون کے دولتی نقشہ (مطلقہ ادارہ غیر مسئول) کے مطابق کر کے اسلام اجتماعی کو پس پشت ڈال کر قرآن حکیم کے فرامین سیاسی کو زیر پا کر چکی ہیں۔ اس لیے ان کو نبوت کے عادل دربار سے ملوک عضو اور شاہان جبارہ کا غیر اسلامی خطاب مل چکا ہے۔“

مولانا عبید اللہ انور دیوبندیؒ فرماتے ہیں:

”کہ امیر معاویہ نے قیصر و کسریٰ کی سنت کے مطابق بادشاہت کا سلسلہ قائم کر دیا۔“ (رسالہ خدام الدین لا ہور، 22 جون 1962)

مولانا شاہ معین الدین ندویؒ لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ تاریخ اسلام کے پہلے مطلق العنان اور مستبد بادشاہ ہیں اس لیے ان کے عہد میں خلافت راشدہ کی جمہوریت اور اس کا طریق جہان بانی تلاش کرنا بے سود ہے۔“

(غیر مہاجر و انصار صحابہ ج: 1 ص: 74)

خلافت اور ملوکیت کا فرق اور ملوکیت کا جبر

ایک ناصبی خالد بن عبداللہ القسری گورنر مکہ تھا۔ ولید بن عبدالملک نے تمام گورنروں کو حکم دیا تھا کہ وہ خطبہ جمعہ میں حجاج بن یوسف کی تعریف کیا کریں۔ حجاج وہ ظالم تھا جس کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ بنی ثقیف میں ایک امیر (خون بہانے والا) پیدا ہوگا۔ حجاج نے ایک لاکھ بیس ہزار آدمی چھری سے ذبح کرائے تھے جیسا کہ ترمذی کی صحیح حدیث میں بیان ہے۔ یہ خالد بن عبداللہ القسری ہر جمعہ حجاج کی تعریف کیا کرتا تھا۔

ولید بن عبدالملک کے بعد سلیمان بن عبدالملک تخت پر بیٹھا۔ وہ حجاج بن یوسف کا دشمن تھا۔ سلیمان نے حکم دیا کہ جمعہ کے خطبہ میں حجاج بن یوسف پر لعنت کی جائے۔ اب ذرا ملوکیت کا جبر اور ماتحتوں کی دانش فردشی ملاحظہ ہو۔ وہی خالد القسری جو حجاج کی تعریف کیا کرتا تھا، وہ سوچنے لگا کہ پچھلے جمعہ تک تو میں حجاج کی تعریف کرتا رہا، اب اس پر لعنت کیسے کروں؟

اس کا حل اس نے یہ نکالا کہ خطبہ میں حمد و ثناء کے بعد کہا کہ ابلیس ملائکہ میں شامل تھا، فرشتے اس کو بہت اچھا جانتے تھے مگر اللہ تعالیٰ کو پسند تھا کہ یہ اندر سے خراب ہے۔ اس نے آزمائش کی تو ابلیس فیل ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی۔ اس طرح ہم حجاج کی ظاہری نیکیاں دیکھ کر اس کو اچھا سمجھتے رہے۔ مگر وہ ابلیس کی طرح نکلا اور ہمارے امیر المؤمنین سلیمان بن عبدالملک کو اللہ تعالیٰ نے وہ بات بتادی جو ہمیں معلوم نہیں تھی۔ اب ان کی طرف سے حکم آیا ہے لہذا لعنت اللہ علیہ!

یہ ملوکیت کا ایک نمونہ ہے۔ یہ ساری کہانی ایک کتاب غایۃ المرام میں موجود ہے جو ام القریٰ یونیورسٹی مکہ نے شائع کی ہے۔ اس میں حضور ﷺ کے دور سے لے کر 900 ہجری تک مکہ کے تمام گورنروں کے حالات لکھے ہیں۔

تغیر کا آغاز

اس بات کو سمجھنے کیلئے بہت پیچھے جانا پڑے گا تاکہ پتہ چلے کہ بیماری ایک دن میں نہیں آتی۔ نبی ﷺ کے دور میں معاشرہ کیسا تھا اور بعد میں کس طرح آہستہ آہستہ تبدیلی آتی گئی۔ حضرت علی علیہ السلام کی باری جب آئی تو ان کی حکومت کو چلنے نہ دیا گیا کیونکہ معاشرہ ان کے قابل نہ رہا تھا۔ علی علیہ السلام ان کے کسی کام کے نہ تھے۔ لوگ جس راہ پر چل پڑے تھے۔ اس پر علی علیہ السلام جیسا خلیفہ ان کو درکار نہ تھا۔ علی علیہ السلام کے بارے میں ان کو معلوم تھا کہ وہ اصول سے ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ جو کچھ قرآن و سنت میں حکم ہے، وہ اس پر کاربند رہتے چاہے حکومت رہے نہ رہے یا گورنر بن جائیں۔ لوگوں کو دنیاوی زندگی بیماری ہو چکی تھی۔ حضور ﷺ کے بعد جلد ہی وہ وقت آ گیا جس کا خطرہ آپ ﷺ محسوس فرماتے تھے۔

حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں بہت تیزی سے فتوحات ہوئیں اور علاقہ بہت وسیع ہو گیا۔ ہمارے دیکھنے میں ہر بات بہت اچھی نظر آتی ہے جبکہ یہی بات مثالی اسلامی معاشرے کی بربادی کا سبب بنی۔ ان نئے آنے والوں کی ویسی تربیت نہ ہو سکی جیسی صحبت نبوی ﷺ میں میسر تھی۔ مملکت میں توسیع ضرور ہوئی مگر معاشرے میں استحکام نہ ہو سکا، اس لیے لوگوں میں بری عادات پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ تربیت کا فرق تو سورہ انفال 65/8 میں بیان فرمایا گیا کہ پہلے ایک مسلمان دس کافروں پر بھاری تھا پھر ایک دو کا مقابلہ رہ گیا۔ تعداد زیادہ ہو گئی تھی مگر تربیت میں فرق تھا۔ جو لوگ شروع سے مسلمان تھے ان میں اور بعد میں مسلمان ہونے والوں کا فرق واضح تھا۔

حضور ﷺ ایسی صورت حال کے بارے میں بہت فکر مند تھے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری ج: 11 میں حدیث نمبر 6425 کے تحت لکھتے ہیں:

”حضرت مسور بن مخرمہ حضرت عمرو بن عوف بدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کو بحرین سے جزیہ لانے بھیجا۔ وہ جب جزیہ کا مال لے کر آئے تو اگلے دن سب انصار نے فجر

کی نماز اپنی اپنی مسجد میں پڑھنے کی بجائے مسجد نبوی میں ادا کی جب رسول کریم ﷺ نے سلام پھیرا تو سب آگے ہو گئے۔ آپ ﷺ یہ دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا میرا خیال ہے تمہیں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر مل گئی ہے۔ انصار رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ہاں! فرمایا خوش ہو جاؤ! تمہاری پسند تمہیں مل گئی۔ اللہ کی قسم! مجھے تمہارے بارے میں غریبی کا ڈر نہیں بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ دنیا تم پر فراخ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلوں پر فراخ کر دی گئی تھی۔ پھر تم دنیا حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو گے جیسے تم سے پہلے لوگوں نے کیا جیسے نہیں مال نے اللہ سے غافل کر دیا تھا، ویسے ہی تمہیں مال اللہ سے مافل کر دے گا۔“

اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات جو فقر سے ہے میسر، تو مگری سے نہیں

ایسا ہی دوسری احادیث میں فرمایا۔ اس حدیث کی صداقت کی گواہی مسلمانوں کی 14 سو سال کی تاریخ دیتی ہے کہ جب علاقے فتح ہو گئے تو خدا کی طرف دھیان کم اور دنیا کی طرف زیادہ ہو گیا۔ حضور ﷺ فرماتے تھے:

”میرا وجود غنیمت جانو۔ جب میں اٹھ گیا تو صحابہ میں فتنے میں آجائیں گے اور جب صحابہ رضی اللہ عنہم اٹھ گئے تو باقی امت میں اور فتنے آجائیں گے

(صحیح مسلم معاشرۃ نبی ﷺ)

حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ابن الربیع اسیدی کا تب وحی تھے۔ ترمذی شریف کی شرح تخریج الاحوذی ج: 3، ص: 321 پر ان سے مروی ایک حدیث کے تحت لکھا ہے:

”وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے اور رو رہے تھے، انہوں نے پوچھا حنظلہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ منافق ہو گیا۔ پوچھا کیا بات ہوئی کہنے لگے جب ہم رسول کریم ﷺ کی مجلس میں ہوتے ہیں اور

وہ جنت دوزخ کا بیان فرماتے ہیں تو اس وقت ہمارا حال یہ ہوتا ہے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے جنت دوزخ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب واپس آ کر بیوی بچوں اور زمینوں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو وہ باتیں ہم بھول جاتے ہیں اور وہ اثر باقی نہیں رہتا۔ یہ فرق مجھے منافقت نظر آتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم ہمارا بھی یہی حال ہے۔ میرے ساتھ چلنا کہ حضور ﷺ سے جا کر اپنا حال کہیں۔ پھر وہ دونوں حضور نبوی گئے۔ حضور ﷺ نے پوچھا حفظہ اللہ کیا بات ہے؟ انہوں نے ساری بات عرض کی۔ سن کر حضور ﷺ نے فرمایا اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہتا جو میری مجلس میں ہوتا ہے تو فرشتے تم سے تمہاری مجلسوں، بستر اور بازاروں میں مصافحہ کرتے۔ یہ وقت وقت کی بات ہے۔ ”مسلم شریف میں فرمایا جب آسمان سے ستارے ختم ہو گئے تو آسمان ختم ہو گئے تو آسمان ختم ہو جائے گا اور جب میں دنیا سے چلا گیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم میں فتنے آ جائیں گے۔ (تحفة الاحوذی، ج: 3، ص: 321)

بخاری شریف میں روایت ہے جس میں فرمایا:

”میں تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔“

(بخاری کتاب المناقب باب علامات النبوة فی الاسلام، کتاب الفتن باب قول النبی ﷺ ویل للعرب من شرق اقرب اور باب لابیاتی زمان الادی بعدہ شرمندہ)

”شراب ام الخبائث ہے۔“

(صحیح الجامع الصغیر ج: 1 ص: 232، حدیث: 3344، صحیحہ ج: 4، حدیث: 1854)

مگر بہت زمانہ نہیں گذرا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی لوگ شراب پینا شروع ہو گئے۔ یہ فتوحات کا نتیجہ تھا۔ عربوں نے جب عراق اور شام کے باغات والے علاقے دیکھے تو

پھر عیش و آرام میں پڑ گئے، کبوتر بازی شروع کر دی جس بات کا اندیشہ حضور ﷺ نے ظاہر فرمایا تھا، وہی شروع ہو گئی۔ اتنے لوگ شراب پینا شروع ہو گئے کہ سزا بڑھانا پڑی۔ ”حضور ﷺ کے دور میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شروع زمانہ میں، جب شرابی کو لایا جاتا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اٹھتے تھے، کوئی ہاتھوں سے مارتا، کوئی جوتے مارتا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو شراب عام ہو گئی۔ پھر آپ نے 40 کوڑے مقرر کئے۔ جب لوگ حد سے گذر گئے اور فاسق ہو گئے تو پھر 80 کوڑے مقرر کئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ سرہ نے شراب پیچی انہوں نے کہا اللہ سرہ کو تباہ کرے اسے فرمان نبوی کا علم ہے کہ اللہ تباہ کرے یہودیوں کو جب ان پر حرام ہوئی چربی تو انہوں نے اسے گلایا۔

(صحیح بخاری حدیث: 6779، نسائی کتاب الفروع والعنبر باب النہی من الانتقاع بما حرم اللہ عزوجل)

جب عراق و شام فتح ہوئے، زرخیز علاقے ہاتھ آئے، عربوں نے وہاں کا معیار زندگی دیکھا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی اعلیٰ عمارتیں بنانا شروع کر دیں۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ یہ صورت حال برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے حضور ﷺ نے فرمایا تھا ”جب مدینہ سلطع پہاڑ تک وسیع ہو جائے تم شہر

چھوڑ دینا اس وقت یہاں دین بہت تھوڑا رہ جائے گا۔“ وہ شام چلے گئے۔

یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ انہوں نے شام میں دیکھا کہ حاکم محلات میں رہتا ہے۔ وہاں انہوں نے اعتراض کیا کہ حاکم (امیر معاویہ) سونا

چاندی جمع کر رہا ہے اور غریب بھوکے مر رہے ہیں۔ اس پر امیر معاویہ نے

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شکایت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے واپس بلالیا اور کہا تم

حکومت کے خلاف پراپیگنڈہ کرتے ہو۔ معاویہ نے مجھے لکھا ہے کہ اگر شام

چاہئے تو ابوذر رضی اللہ عنہ کو واپس بلا لیں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا میں حکومت کے خلاف نہیں بلکہ حاکموں کے سونے چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرنے کے خلاف ہوں۔ حضور ﷺ نے مجھے فرمایا تھا: ”اگر احد پہاڑ بھی سونے کا ہو تو شام سے پہلے اسے خیرت کر دینا۔“ حاکم دولت اکٹھی کر رہے ہیں اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ پھر ان سے کہا گیا کہ مدینہ چھوڑ دیں۔ ان کو ربذہ کے علاقہ میں جلا وطن کر دیا گیا۔

(بخاری کتاب الزکاة باب ما آذی زکاة فلیس بکنز، کتاب التفسیر باب والذین یکنزون الذہب والفضہ مسلم کتاب الزکوة باب تغلیظ عقوبۃ من لا یودی الزکوة)

مال غنیمت کی کثرت اور خوبصورت لونڈیوں نے لوگوں کا ذہن بدل دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سختی ان لوگوں کے آگے بند باندھے تھی۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے حکمران کی بجائے نرم حکمران چاہتے تھے جو ان کے عیش میں رکاوٹ نہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ لوگ پناہ مانگتے تھے کہ وہ کسی کا لحاظ نہ کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتے تھے کہ نرم طبیعت ہیں، وہ سختی نہ کریں گے۔ یہ پہلا سبب ہے جس کی بنا پر لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ترجیح دی۔

جب پھسلنے پر آئے تو بڑے سے بڑا آدمی پھسل جاتا ہے۔ حضرت قدامہ رضی اللہ عنہ ابن مظعون بدری صحابی تھے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سالے اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا و عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ماموں تھے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بحرین میں گورنر تھے۔ انہوں نے بحرین میں شراب پینا شروع کر دی۔ وہاں سے حضرت جارود رضی اللہ عنہ صحابی آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے بحرین میں یہ کام دیکھا ہے، صبر نہ کر سکا اور آپ کو اطلاع دینا میرا فرض تھا۔ حضرت نے کہا بیٹھ جا۔ بعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے۔ انہوں نے کہا قدامہ کے شراب پینے کی گواہی میں بھی دیتا ہوں۔ ان کو بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹھ جا۔ حضرت جارود رضی اللہ عنہ

کہنے لگے کہ میں نے حق بات بیان کی ہے۔ آپ کا سالہ شراب پیتا ہے اور آپ مجھے بات کرنے سے روک رہے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو قدامہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند بنت عقبہ سے پوچھ لیں۔ اس خاتون سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں قدامہ رضی اللہ عنہ شراب پیتے ہیں۔ جب قدامہ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا ہاں پیتا ہوں اور علانیہ پیتا ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے سورہ المائدہ: 93/5 تلاوت کی جس میں فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے۔ پھر کہا کہ ہم سے بڑا صاحب ایمان اور نیک عمل والا اور کون ہے لہذا ہمیں شراب پینے کا کچھ گناہ نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی اس کا منہ بند نہ کرو۔ اگر ایمان و عمل صالح والا جو چاہے کھائے پے تو قصہ ختم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا قدامہ رضی اللہ عنہ نے قرآن کی بدترین تاویل کی۔ نیک عمل تو خود تقاضا کرتا ہے، کہ شراب سے بچو۔ اسی سورہ میں ہے کہ شراب منہ سے اس سے بچو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قدامہ کو 80 کوڑے لگوائے۔ (تفسیر قرطبی، ج 6، ص: 298-297)

دوسرا کام جس سے اسلام کو نقصان پہنچا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلہ کی خلاف ورزی تھی۔ ان کا فیصلہ یہ تھا کہ کوئی چاہے پہلے ایمان لایا ہو یا بعد میں، کوئی قریشی ہو، یا مہاجر یا انصاری، آزاد ہو یا غلام ہو، سب کو بیت المال سے مساوی وظیفہ ملے گا۔ اس دنیا میں مرتبہ کی وجہ سے وظیفہ میں فرق نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے برابر اصرار کرتے رہے کہ مرتبہ کے حساب سے تفصیل ہونی چاہیے۔ قریشی و مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہم کو زیادہ وظیفہ ملنا چاہیے۔ مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نہیں مانے۔ ان کا کہنا تھا کہ ثواب خدا سے تعلق رکھتا ہے، دنیا میں سب مسلمانوں کے حقوق برابر ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں یہ پالیسی بدل دی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام میں سرمایہ داری کا آغاز ہو گیا۔ کچھ لوگ بہت امیر ہو گئے مثلاً حضرت طلحہ و زبیر و عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم وغیرہ اور کچھ پیچھے رہ گئے۔ آخر عمر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو احساس ہو گیا کہ یہ پالیسی غلط ہے۔ امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو یہ پرچے پھاڑ دوں گا اور سب کو برابر دوں گا۔“ مگر وہ وقت نہ آیا۔

(فتح الباری ج: 7، ص: 490، بحوالہ امام دارقطنی رحمہ اللہ)

”حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آکر بجائے مساوی وظیفے دینے کے، جاگیریں دینا شروع کر دیں۔“

(شرح مسلم اکمال اکمال المَعْلَم ج: 1، ص: 134، علامہ ابی مالکی رحمہ اللہ)

اس طرح اسلام میں سرمایہ داری کے ساتھ جاگیر داری بھی شروع ہو گئی۔ نمازیں روزے باقی رہے مگر سوسائٹی کا رخ غلط ہو گیا۔ ان سب کی وجہ دو چیزیں بنیں۔ ایک تو فتوحات کے نتیجہ میں دولت کا سیلاب آ گیا۔ عرب جو گوہ کا گوشت کھاتے، اونٹنی کا دودھ پیتے ان کو طرح طرح کے سامان عیش میسر آ گئے۔ خوبصورت لونڈیاں ہاتھ آ گئیں اور محلات بن گئے۔

دوسرا سبب دولت کی غیر مساوی تقسیم تھی۔ قانون قدرت بے لاگ ہے بڑے سے بڑا آدمی نیک نیتی سے ایسا کام کرے جو غلط ہو تو نتیجہ غلط ہی نکلے گا۔ غلطی اپنا اثر ضرور چھوڑتی ہے، جنگ اُحد میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے دُربلا اجازت چھوڑا تو نتیجہ میں شکست ہوئی اور رسول کریم ﷺ زخمی ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہاجرین کا وظیفہ جو بدر میں بھی شریک ہوئے 5,000 انصار رضی اللہ عنہ کا 4,000 اُحد میں شریک ہونے والوں کا 3000 درہم مقرر کیا۔ اس تفصیل کا نتیجہ چند سالوں میں طبقاتی نقادت کی شکل میں سامنے آیا۔ امیر بہت امیر اور غریب بہت غریب ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جاگیریں دینے کے عمل سے یہ تقسیم اور بڑھ گئی۔ امیر لوگ عیش کے عادی ہو گئے۔

لوگوں کو معلوم تھا کہ علی رضی اللہ عنہ آئے تو ہمیں واپس لوٹا دیں گے اور ہوا بھی یہی! جب علی رضی اللہ عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد پہلی تقریر فرمائی تو حضرت رسول کریم ﷺ کی دستار مبارک سر پر رکھی، آپ ﷺ کی کمان پٹنی اور فرمایا:

”اللہ نے ہم پر انعام کیا، ہم میں سے رسول علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اسلام جیسی دولت

عطا فرمائی اور ایمان نصیب کیا۔ یہ مال اگر میرا ذاتی مال بھی ہوتا تو سب میں برابر تقسیم کرتا لیکن یہ تو ہے ہی سب مسلمانوں کا بیت المال! پھر آپ نے خادم سے کہا تمام رقم گنوا اور طلحہ وزیر رضی اللہ عنہ کو 3/3 دینا دو اور اس غلام کو بھی 3 دینا دو۔ طلحہ رضی اللہ عنہ وزیر رضی اللہ عنہ نے یہ دینا لینے سے انکار کر دیا اور جنگ جمل کو چل پڑے۔“

ولید بن عقبہ نے کہا:

”علی رضی اللہ عنہ! تم نے میرا باپ جنگ بدر میں قتل کیا تھا اور میرے چچا حکم بن عاص کا مذاق بھی اڑایا تھا جب اسے مدینہ بدر کیا گیا تھا اور اب مجھے 3 دینا غلاموں کے برابر دے رہے ہو؟“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا وہی برقرار رہے گا اور سب کو برابر ملے گا۔“ (شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج: 1)

یہ لوگ اسی وقت مسجد میں الگ ہو کر بیٹھ گئے اور کوئی شام چلا گیا، کوئی عراق چلا گیا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور

حضرت عمر رضی اللہ عنہ قتنوں کو روکنے والا دروازہ تھے۔ ”شقیق بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا

کہ میں نے حدیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ صحابی سے سنا۔ انہوں نے کہا:

”ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا تم میں سے کسی کو قتنوں کے باب میں رسول ﷺ نے جو فرمایا: وہ یاد ہے۔ میں نے کہا: ”مجھ کو جیسا آپ ﷺ نے فرمایا: ”ویسا ہی یاد ہے۔“ انہوں نے کہا: ”تم تو دلیر ہو۔“ میں نے کہا: ”بات یہ ہے کہ آدمی کو جو قتنہ اس کے گھر بار یا مال یا اولاد یا ہمسایوں سے پہنچتا ہے وہ تو نماز، روزہ، صدقہ اچھی بات کا حکم کرنے، بری بات سے منع کرنے سے اتر جاتا ہے۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے

کہا: ”میں اس فتنے کو نہیں پوچھتا۔ میں تو وہ فتنہ پوچھتا ہوں جو سمندر کی موج کی طرح امنڈ آئیگا۔“ میں نے کہا اس سے آپ کو امیر المومنین کوئی ڈر نہیں۔ تمہارے اور اس فتنہ کے درمیان تو ایک بند دروازہ ہے۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: ”بتاؤ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟“ میں نے کہا: ”توڑا جائے گا۔“ انہوں نے کہا: ”پھر تو وہ کبھی بند ہی نہ ہوگا۔“

شقیق نے کہا ہم لوگوں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا عمر رضی اللہ عنہ اس دروازہ کو پہچانتے تھے؟ انہوں نے کہا بے شک جیسے اس کا یقین تھا کہ آج کی رات کل کے دن سے قریب ہے۔ میں نے ان سے ایک حدیث بیان کی جو انکل پچھن تھی۔ شقیق نے کہا ہم حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھنے سے ڈرے کہ دروازہ سے کیا مراد ہے ہم نے سروق سے کہا تو انہوں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ”دروازہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔“

(بخاری کتاب مواقیب الصلوٰۃ باب الصلوٰۃ کفارة، کتاب المناقب باب علامات النبوة فی الاسلام ترمذی کتاب الفتن باب ما جاء فی النهی عن سب الرياح، مسلم کتاب الايمان باب رفع الامانة والايمان)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انتظام بہت اچھا تھا

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”میں خواب میں کنوئیں پر تھا۔ پانی نکال رہا تھا، اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ آ پہنچے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ڈول لے لیا۔ ایک دو ڈول کھینچے مگر کمزوری کے ساتھ اللہ اس کو بخشے۔ اس کے بعد خطاب کے بیٹے نے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ڈول لے لیا۔ وہ ڈول ان کے ہاتھ میں بہت بڑا ڈول بن گیا۔ میں نے لوگوں میں ایسا شور نہ نہیں دیکھا جو ان جیسا کام کرے کہ لوگ اپنے اپنے اونٹوں کو خوب پلا کر بٹھانے کی جگہ لے گئے۔“

(بخاری کتاب التعلیل باب نزع الماء من النیر حتی یروی الناس، بخاری کتاب المناقب باب علامات النبوة فی الاسلام)

انصار رضی اللہ عنہم سے نیک سلوک کی وصیت

جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تو شوریٰ بنانے کے بعد فرمایا:

”میرے بعد جو خلیفہ ہو میں اس کو وصیت کرتا ہوں کہ اگلے مہاجرین سے بھلائی کرتا رہے، ان کا حق پہچانے اور ان کی عزت کا خیال رکھے اور انصار کے ساتھ بھی بھلائی کرے جنہوں نے مدینہ میں جگہ دی اور ایمان پر ثابت قدم رہے۔ ان میں سے جو نیک ہے اس کی نیکی کی قدر کرے اور جو ان میں سے قصور کرے اس کے قصور سے درگزر کرے۔“

(بخاری کتاب الجنائز باب ما جاء فی قبر النبی ﷺ)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تقویٰ کی گواہی از سیدنا علی رضی اللہ عنہ

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبہ میں فرمایا:

”قلاں شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ دے۔ انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، مرض کا چارہ کیا، فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ گئے۔ سنت کو قائم کیا، صاف ستھرے (نقی الشوب) دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ بھلائیوں کو پالیا اور ان کی شرانگیزیوں سے آگے بڑھ گئے، اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا پورا خوف کھایا۔“

(خطبہ نمبر 225، نہج البلاغہ عربی ص 457، اردو ص 629)

ابن ابی الحدید نے تحریر کیا ہے کہ لفظ قلاں سے کنایہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہے۔ اور یہ کلمات انہی کی مدح و توصیف میں کہے گئے ہیں جیسا کہ سید رضی کے تحریر کردہ نسخہ، نہج البلاغہ میں لفظ قلاں کے نیچے انہی کے ہاتھ کا لکھا ہوا لفظ عمر رضی اللہ عنہ موجود ہے۔ ابن ابی الحدید نے خیر و شر کا ضمیر کا مرجع خلافت کو قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ کلمات ایسے شخص پر صادق آسکتے ہیں جو تسلط و اقتدار رکھتا ہو، کیونکہ اقتدار کے بغیر ناممکن ہے کہ سنت کی

ترویج ہوا اور بدعت کی روک تھام ہو سکے۔

انتخاب ابو بکر کی وضاحت

بخاری شریف کتاب المحاربین باب رجم الحبلی من الزنا اذا احصنت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ خطبہ منقول ہے جو انہوں نے انتخاب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وضاحت فرماتے ہوئے مسجد نبوی میں دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں مہاجرین میں سے کئی لوگوں کو تعلیم دیا کرتا تھا۔ ان میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخری حج کیا تو منیٰ میں ایک دن میں عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مکان میں تھا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے ہوئے تھے۔ اتنے میں وہ لوٹ کر آئے اور کہا کاش تم بھی یہ واقعہ دیکھتے۔ ایسا ہوا کہ ایک شخص (نام نامعلوم) آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ کہنے لگا امیر المومنین آپ فلاں شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ فوت ہوں گے تو میں فلاں (طلحہ رضی اللہ عنہ بن عبید اللہ) سے بیعت کر لوں گا۔ کیونکہ خدا کی قسم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت بھی تو اچانک ہو گئی تھی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت غصے ہوئے۔ اس کے بعد کہنے لگے ان شاء اللہ میں شام کو لوگوں میں کھڑا ہو کر خطبہ سناؤں گا اور ان کو ان لوگوں سے خبردار کروں گا جو حکومت پر زبردستی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین ایسا نہ کیجئے۔ یہ حج کا موسم ہے یہاں ہر قسم کے لوگ جمع ہیں۔ جب آپ خطبہ سنانے کھڑے ہوں گے تو آپ کے پاس وہ جمع ہو جائیں گے۔ میں ڈرتا ہوں کہ آپ جو کہیں گے وہ لوگ اس کا نہ جانے کیا مطلب لیں۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ آپ ٹھہر جائیں۔ جب آپ مدینہ پہنچیں جو ہجرت اور سنت کا مقام ہے۔ وہاں آپ کو شریف اور سمجھ دار لوگ ملیں گے وہاں اطمینان سے جو چاہیں فرمائیں۔ وہ لوگ علم والے ہیں وہ آپ کی گفتگو یاد بھی رکھیں گے اور جو صحیح مطلب ہے وہی بیان کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا خدا کی قسم میں مدینہ جا کر سب سے پہلے اسی موضوع پر تقریر کروں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ہم مدینہ میں اس

وقت آئے جب ذوالحجہ کا مہینہ ختم ہونے والا تھا۔ جمعہ کے دن سورج ڈھلتے ہی نماز پڑھنے چلے۔ مسجد میں پہنچ کر دیکھا تو سعید بن زید رضی اللہ عنہ بن عمر بن نفیل منبر کے بالکل پاس بیٹھے ہیں۔ میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا اور میرے گھٹنے ان کے گھٹنوں سے لگ رہے تھے۔ تھوڑی دیر نہیں گزری کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے۔ جب میں نے ان کو آتے دیکھا تو میں نے سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے کہا آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ باتیں کہیں گے جو خلافت کے وقت سے لے کر آج تک نہیں کہیں۔ انہوں نے میری بات نہیں مانی اور کہنے لگے مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ ایسی بات کہیں گے جو آج تک نہیں کہی۔

جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر بیٹھے، موذن خاموش ہوئے تو وہ کھڑے ہوئے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، پھر کہنے لگے میں تم سے ایسی بات کہتا ہوں جس کا کہنا میری تقدیر میں لکھا تھا۔ مجھ کو معلوم نہیں شاید یہ گفتگو موت سے پہلے میری آخری گفتگو ہو۔ پھر جو کوئی اس بات کو سمجھے اور یاد رکھے، اس پر لازم ہے تو کہ جہاں تک اس کی اونٹنی پہنچے اس بات کو مشہور کرے اور جو کوئی نہ سمجھے تو میں کسی کیلئے درست نہیں جانتا کہ وہ مجھ پر جھوٹ بولے۔

پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رجم کے مسائل اور بعض دوسری باتوں کے بعد فرمایا کہ مجھ کو یہ خبر بھی پہنچی کہ تم میں سے کسی نے یہ کہا اگر عمر رضی اللہ عنہ مر گئے تو میں فلاں شخص کی بیعت کر لوں گا۔ دیکھو تم میں سے کسی کو یہ دھوکہ نہ ہو باوجود اس کے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اچانک بیعت ہوئی اور چل گئی اور اللہ تعالیٰ نے اچانک بیعت کی خرابی سے تمہیں بچالیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تم میں ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا کون ہے جس کی ملاقات کیلئے لوگ سفر کرتے ہوں؟

جس نے کسی کی بیعت بغیر مسلمانوں کے مشورہ کے کی، تو دونوں قتل کر دیئے جائیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کا حال یہ ہے کہ جب نبی ﷺ کی وفات ہو گئی تو انصار ہمارے خلاف ہو گئے اور سب جا کر بنی ساعدہ کے ڈیرے پر اکٹھا ہو گئے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی بھی غیر حاضر تھے۔

لیکن باقی سب مہاجرین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئے۔ میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ

سے کہا چلو اپنے انصاری بھائیوں کے پاس چلتے ہیں۔ ہم اس ارادے سے نکلے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو رستے میں دو نیک انصاری آدمی ملے۔ انہوں نے بتایا کہ انصار نے یہ فیصلہ کیا ہے یعنی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کا۔ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا اپنے انصاری بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو وہاں مست جاؤ اور تم نے جو کرنا ہے کرو۔ میں نے کہا خدا کی قسم ہم ضرور ان کے پاس جائیں گے۔ آخر ہم گئے۔ دیکھا کہ ان میں ایک آدمی کپڑا لپیٹے لیٹا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں نے پوچھا انہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ان کو بخار ہے۔ تھوڑی دیر ہم وہاں بیٹھے۔ اتنے میں ان کے خطیب (ثابت بن قیس بن شماس یا کسی اور) نے اللہ کی جیسی چاہئے تعریف کی اور کہا:

”ہم انصار اللہ ہیں اور اسلام کی فوج ہیں تم مہاجرین تھوڑے لوگ ہو اور تمہاری چھوٹی سی لکڑی اپنی قوم سے نکل کر ہم میں آ رہے۔ اب تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہمارے بیچ کئی کرو اور ہم کو خلافت سے محروم کر کے خود خلیفہ بن بیٹھو۔“

جب خطیب خاموش ہوا تو میں نے گفتگو کرنا چاہی، میں نے ایک عہدہ تقریر اپنے ذہن میں تیار کر رکھی تھی۔ میں نے چاہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بات کرنے سے پہلے میں بات شروع کر دوں اور انصار کی تقریر سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غصہ ہوا ہے اسے دور کر دوں۔ جب میں نے بات کرنا چاہی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ذرا ٹھہر۔ میں نے ان کو ناراض کرنا برا جانا۔ آخر انہوں نے تقریر شروع کی اور خدا کی قسم وہ مجھ سے زیادہ عقل مند اور مجھ سے زیادہ سنجیدہ تھے۔ میں نے جو اپنے دل میں سوچا تھا اس میں سے انہوں نے کوئی بات نہیں چھوڑی بلکہ اس سے بھی بہتر بات کی۔ انہوں نے کہا:

”انصاری بھائیو! تم نے جو فضیلت اور بزرگی بیان کی وہ سب درست ہے اور تم بے شک اس کے لائق ہو مگر خلافت قریش کے سوا کسی خاندان کے لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ قریش نسب کے لحاظ سے عرب میں سب سے بڑھ کر

ہیں اب تم ایسا کرو ان دو آدمیوں میں سے کسی کی بیعت کر لو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میرا اور ابو عبیدہ بن الجراح کا ہاتھ تھاما۔ وہ ہم لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کوئی بات اتنی بری معلوم نہ ہوئی جتنی یہ بات۔ خدا کی قسم میری گردن مار دی جائے اگر میں کسی گناہ میں مبتلا نہ بھی ہوں اور پھر بھی تو یہ مجھ کو زیادہ پسند تھا کہ میں ان لوگوں کی سرداری کروں جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود ہوں۔ میرا اب تک یہی خیال ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مرتے وقت میرا نفس مجھ کو بہکا دے اور میں کوئی دوسرا خیال کروں۔ پھر انصار میں سے ایک کہنے والا (نخاسب بن منذر رضی اللہ عنہ) یوں کہنے لگا سنو! سنو! میں وہ لکڑی ہوں جس سے اونٹ اپنا بدن رگڑ کر کھلی کی تکلیف رفع کرتا ہے اور میں وہ باڑ ہوں جو درخت کے گرد لگائی جاتی ہے۔ میں ایک عہدہ تدبیر بتاتا ہوں۔ ایسا کرو اسے قریش ایک خلیفہ تم میں سے ہو اور ایک انصار میں سے ہو (یعنی باری باری خلیفہ بنیں)

(فتح الباری ج: 12 ص 153)

اس پر شور مچ گیا کوئی کچھ کہنے لگا اور کوئی کچھ، میں ڈر گیا کہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑی جاتی ہے۔ آخر میں نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ میں اور ابو عبیدہ نے ان کی بیعت کر لی۔ پھر انصار یوں نے بیعت کی۔ اس کے بعد ہم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے۔ ایک انصاری نے کہا تم نے سعد کو قتل کر ڈالا۔ میں نے کہا: اللہ اس کو قتل کرے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”اس وقت ہم کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے زیادہ کوئی چیز ضروری معلوم نہ ہوئی کیونکہ ہم کو ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیعت ہونے سے پہلے ہم لوگوں سے الگ ہوں اور وہ کسی اور سے بیعت کر بیٹھیں۔ تب یا تو پھر ہم بھی اس کی

بیعت کرتے یا مخالفت کرتے اور آپس میں فساد پیدا ہوتا۔ دیکھو میں پھر کہتا ہوں جو شخص کسی سے بغیر مسلمانوں کے مشورہ کے بیعت کرے تو باقی اس کی بیعت نہ کریں اور وہ دونوں قتل کئے جائیں۔

پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دوبارہ بیعت مجمع عام میں ہوئی۔“

(بخاری کتاب الاحکام باب الاستخلاف)

مسلمانوں کا سب سے پہلا فرض حاکم مقرر کرنا ہے

بعض لوگ ان حالات میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ مقرر کرنے پر اعتراض کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے جنازہ کو چھوڑ کر مسلمان اس کام میں مشغول ہو گئے۔ اس بارے میں بہترین جواب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہے۔

امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ اپنے ایک مکتوب میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھتے ہیں:

”شوری کا حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے۔ وہ اگر کسی پر ایکا کریں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اس میں اللہ کی رضا و خوشنودی سمجھی جائے گی۔“

(نہج البلاغہ مکتوب نمبر 6، ص: 656-657)

حکمران کو عربی میں رئیس القوم کہتے ہیں اور سرگور اس کہتے ہیں۔ حکمران قوم کا دماغ ہوتا ہے۔ اگر سرکٹ جائے یا خراب ہو جائے تو سارا جسم بے کار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر حکمران خراب ہو جائے تو دین کا سارا انتظام اور قوم تباہ ہو جاتی ہے، جس قوم کے امراء و علماء بگڑ جائیں تو وہ قوم پھر باقی نہیں رہتی۔ حکمران کا مسئلہ تمام مسائل سے زیادہ اہم ہے۔ قیادت کیل پکڑ کر چلانے کو کہتے ہیں۔ سیاست کیا ہے؟ ساس الفرس یعنی گھوڑے کا انتظام کرنا، اسی سے لفظ سائیکس نکلا ہے یعنی منتظم، امت کی سیاست یہ ہے کہ دانا اور دیانت دار امت کے معاملات کا انتظام کریں۔ سیاست MANAGEMENT کو کہتے ہیں۔ سیاست اتنا مقدس کام ہے کہ نبی

اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے۔

(بخاری، کتاب الانبیاء، باب ما ذکر عن نبی اسرائیل۔ مسلم کتاب الامارۃ باب الامام جنتہ)

حکمران چنانچہ نماز روزے سے بڑھ کر اہم الہی اجبات شمار کیا گیا ہے۔ آج کل تو ہر چیز حکومت کے قبضہ میں ہے۔ اگر حکمران غلط ہو تو دین و قوم کا خدا ہی حافظ ہے۔ دنیا بھر کے علم کا نچوڑ یہ ہے کہ برسر کار آدمی دانا اور دیانتدار ہو، پھر دوسری شرط یہ ہے کہ قوانین صحیح اور انصاف پر مبنی ہوں، تب انصاف ملے گا، ان دونوں میں سے ایک نہ ہو تو معاملات درست نہ ہوں گے۔ سورہ نسا: 58/4 میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں جمع کر دی ہیں۔ فرمایا:

”خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں اور جب لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو۔“

نیر اس شرح عقائد نسفی میں ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ نصب امام واجب ہے۔ حتیٰ کہ جنازہ نبوی سے بھی یہ بات ضروری سمجھی گئی کیونکہ خطرہ تھا امت کا سارا انتظام تباہ ہو جائے گا اور مسلمانوں کا اتفاق ختم ہو جائے گا۔ حضور ﷺ کو دفن کرنے سے بھی یہ معاملہ مقدم سمجھا گیا اور بعد میں سنت بن گئی کہ جو حکمران فوت ہو اس کے دفن سے پہلے یہ انتظام ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ سب کاموں سے اہم نصب امام یعنی حکمران مقرر کرنا ہے۔ دوسری طرف عقل بھی یہ بتاتی ہے کہ سارے دین کا دار و مدار حکمران پر ہے اور بہت سے واجبات شرعیہ کا تعلق حکمران سے ہے۔ یہ بات عقل اور اصول فقہ دونوں میں ہے کہ جس واجب کیلئے کوئی چیز ضروری ہو اس چیز کا مہیا کرنا بھی واجب ہے، ان کی مثالیں دیتے ہوئے لکھا ہے کہ دین کے بعض احکام سوائے حکمران مقرر کرنے کے نافذ ہی نہیں ہو سکتے جیسا کہ شرح مواقف میں لکھا ہے:

”مسلمانوں کا ایک حکمران ہو جو شرعی احکام اور نفاذ حدود کا اجراء کرے مثلاً

حد زنا و شراب و بہتان، سرحدوں کی حفاظت، لشکروں کی تیاری، زکوٰۃ کی

وصولی، ناجائز قبضہ کرنے والوں سے چیزیں واپس لینا، چوروں ڈاکوؤں کا خاتمہ، جمعہ وعیدین کا انتظام، جھگڑوں کے فیصلے، مقدمات میں شہادتیں لینا، حقوق ادا کروانا، لاوارثوں کے معاملات کی دیکھ بھال، مالی غنیمت کی تقسیم، اور اس طرح کے اور کام جو قرآن وحدیث میں بیان ہوئے ہیں۔“

پہلے دو خلفاء کی فضیلت۔ خلافت محفوظہ و خلافت مفتونہ

قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے:

”بعض رسولوں ﷺ کو بعض پر فضیلت دی گئی۔“

اسی طرح خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم میں سے پہلے دو خلفاء کو فضیلت حاصل ہے۔ پہلے دو کی خلافت، خلافت محفوظہ ہے اور دوسری دو خلافتیں راشدہ ضرور ہیں مگر مفتونہ ہیں یعنی آزمائش سے پُر ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنا سروے کردہ گئی کی کوشش ضرور کی مگر بات نہ بنی۔ یہ بات شاہ اسماعیل رضی اللہ عنہ کی کتاب منصب امامت ص: 114-115 پر لکھی ہے۔ ملا علی قاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”نبوت کی طرز کی خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ختم ہو گئی اس کے بعد خلیفہ نیک مگر انتظام خراب ہو گیا۔“

(عون المعبود شرح ابی داؤد علامہ شمس الحق عظیم آبادی ج: 4، ص: 339)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل

حضور علیہ السلام نے فرمایا:

”اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔“

(مسلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، البانی رضی اللہ عنہ، ج: 2، ص: 582، حدیث نمبر

327، صحیح الجامع الصغیر، ج: 2، ص: 935)

حضور علیہ السلام نے جنت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل دیکھا

(بخاری کتاب الفضائل، باب فضائل عمر، حدیث نمبر 3682-7023)

جب حضور ﷺ اُحد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو پہاڑ ہلنے لگا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے اس پر قدم مبارک مار کر فرمایا:

”ٹھہر جا تیرے اوپر نبی ہے، صدیق ہے اور شہید ہیں۔“ ان حضرات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔“

(مسلسلۃ الاحادیث الصحیحہ البانی ج: 2، حدیث: 875، ص: 558 تا 562)

ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المال کا اونٹ ڈھونڈنے تشریف لے گئے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کسی خادم کو بھیج دیا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا

عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اس امت کا کون خادم ہے؟

(البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر ج: 7، ص: 150)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زخمی ہونا، شوریٰ، شہادت اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب

ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عوانہ نے انہوں نے
حسین سے انہوں نے عمرو بن مسمون سے انہوں نے کہا میں نے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے زخمی ہونے سے چند دن پہلے مدینہ میں دیکھا وہ
حذیفہ رضی اللہ عنہ بن الیمان اور عثمان رضی اللہ عنہ بن حنیف کے پاس ٹھہرے کہنے لگے تم
نے (عراق کے ملک میں) کیا یہ اندیشہ تو نہیں کہ تم نے زمین پر ایسی جمع نہ
لگائی ہو جس کی گنجائش نہ ہو انہوں نے کہا نہیں ہم نے اتنی ہی جمع مقرر کی
ہے جتنی زمین میں طاقت تھی کچھ بہت زیادہ نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا
دیکھو پھر سمجھ لو تم نے ایسی جمع تو نہیں لگائی ہے جس کی زمین میں گنجائش نہ
ہو۔ انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خیر اگر اللہ نے مجھ کو سلامت
رکھا تو میں عراق والوں کی بیوہ عورتوں کو ایسا بے نیاز کر دوں گا کہ میرے بعد
ان کو کسی مرد کی احتیاج نہ رہے عمرو بن مسمون نے کہا اس گفتگو پر چوتھا دن
ہوا تھا کہ وہ زخمی کیے گئے اور جس دن وہ صبح کو زخمی ہوئے اس دن میں ایسے
مقام پر کھڑا تھا کہ میرے اور ان کے بیچ میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی
نہ تھا ان کی عادت تھی جب نمازیوں کی دو صفوں میں سے گزرتے تو فرماتے
سیدھے ہو جاؤ صف برابر کرو جب دیکھتے کہ صفوں میں کوئی خلل نہیں رہا

اس وقت آگے بڑھ کر تکبیر کہتے (یعنی تکبیر تحریمہ) اور اکثر ایسا ہوتا کہ وہ
سورہ یوسف یا سورہ نحل یا ایسی ہی سورتیں پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تاکہ
لوگ جمع ہو جائیں (ان کو جماعت مل جاوے) خیر انہوں نے تکبیر کہی تھی
اتنے میں میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں (کجخت) کہنے نے مجھے مار ڈالا یا
کہا کاٹ لیا پھر وہ مردود پارسی دو دھاری چھری لیے ہوئے بھاگا اور
(دائیں بائیں) جو مسلمان ملا اس کو ایک ضرب لگا دی یہاں تک کہ تیرہ
آدمیوں کو زخمی کر دیا۔ ان میں سے سات شخص مر گئے یہ حال دیکھ کر ایک
مسلمان نے اس پر چادر پھینکی جب اس نے سمجھا کہ اب میں پکڑا گیا تو اپنا
گلا آپ کاٹ لیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ
پکڑ کر ان کو امام کر دیا (کہ نماز پوری کرو) جو لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قریب
تھے انہوں نے تو یہ سب حال دیکھا اور دور والے مقتدیوں کو خبر ہی نہیں ہوئی
مگر قرأت میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز نہ سنی سبحان اللہ سبحان اللہ
کہنے لگے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جلدی سے ہلکی پھلکی نماز پوری کی
جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے
کہا دیکھو تو میرا قاتل کون ہے ایک گھڑی تک وہ گھومے (خبر لیتے رہے)
پھر آئے کہنے لگے مغیرہ کا غلام ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہی کاربگر
غلام؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اس کو تباہ کرے میں
نے اس کے لیے انصاف کا حکم دیا تھا۔ پھر کہنے لگے شکر اللہ کا اس نے مجھ کو
ایسے شخص کے ہاتھ سے قتل نہیں کرایا جو اپنے تین مسلمان کہتا ہو ابن
عباس رضی اللہ عنہ تم اور تمہارے والد یہ چاہتے تھے کہ پارسی غلام مدینہ میں خوب
آباد ہوں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اگر آپ کہیں تو ان سب غلاموں کو قتل
کر دو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کیا لغو بات ہے جب انہوں نے تمہاری

زبان عربی بولی اور تمہارے قبلے کی طرف نماز پڑھی اور تمہاری طرح حج کیا خیر حضرت عمرؓ کو گھراٹھا کر لائے ہم بھی ان کے ساتھ ہی گئے ایسا معلوم ہوتا تھا گویا مسلمانوں پر اس سے پہلے کوئی ایسی مصیبت نہیں گزری، کوئی کہتا تھا کہ کوئی ڈر کا مقام نہیں کوئی کہتا تھا مجھ کو تو ڈر ہے (وہ جاں بر نہ ہوں گے) آخر شربت ان کے پلانے کو لائے انہوں نے پیا تو پیٹ سے باہر نکل گیا پھر دودھ لائے وہ بھی زخم سے باہر نکل پڑا جب سب نے جان لیا وہ بچنے والے نہیں عمرو بن میمون کہتے ہیں ہم ان کے پاس گئے لوگ آئے ان کی تعریف کر رہے تھے اتنے میں ایک جوان (انصاری آیا کہنے لگا امیر المؤمنین خوش ہو جاؤ اللہ نے جو نعمت تم کو عنایت فرمائی، آنحضرت ﷺ کی صحبت سے مشرف ہوئے اور بہت لوگوں سے پہلے اسلام لائے تم خود جانتے ہو پھر حاکم بنے تو عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کی ان سب کے بعد شہادت ہاتھ آئی، حضرت عمرؓ نے کہا حکومت کی نسبت تو میری آرزو یہ ہے کاش برابر سر ابر چھوٹ جاؤں نہ ثواب ملے نہ عذاب نہ وبال بڑھے، جب وہ جوان جانے لگا اس کا تہبند گھسٹ رہا تھا (اتنا بچا تھا) آپ نے فرمایا اس جوان کو پھر بلاؤ جب وہ آیا تو فرمانے لگے میرے بھتیجے ذرا اپنا ازار اونچا رکھ تیرا کپڑا بھی میلا نہ ہوگا اور تیرے پروردگار کا حکم بھی ادا ہوگا پھر عبداللہ اپنے صاحبزادے سے کہنے لگے دیکھ تو میرے اوپر قرضہ کتنا ہے لوگوں نے حساب کیا تو چھیا سی ہزار درہم یا کچھ ایسا ہی قرضہ نکلا حضرت عمرؓ نے کہا اگر میری اولاد کا مال اس قرضہ کو کافی ہو تو ان کے مالوں میں سے یہ قرض ادا کر دینا ورنہ (میری قوم بنی عدی بن کعب سے سوال کرنا، اگر ان سے بھی یہ قرض ادا نہ ہو سکے تو قریش کے لوگوں سے مانگنا بس قریش کے سوا اوروں سے نہ مانگنا دیکھو اس طرح میرا قرض ادا کر دینا اور تو حضرت

عائشہؓ کے پاس جا ان سے یوں کہہ عمر آپ کو سلام کہتا ہے یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین آپ کو سلام کہتے ہیں آج میں مسلمانوں کا امیر نہیں ہوں (کیونکہ اب مردوں میں داخل ہوں دوسرے ایسی تکلیف میں ہوں کہ امارت کا کام نہیں کر سکتا) خیر سلام کے بعد یوں کہنا عمرؓ آپ سے اجازت مانگتا ہے اگر اجازت دیجئے تو وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ حجرے میں دفن ہو۔ عبداللہ گئے ان سے اندر آنے کی اجازت مانگی اندر گئے تو دیکھا وہ خود حضرت عمرؓ کے غم میں بیٹھی رو رہی ہیں خیر عبداللہ نے کہا عمرؓ بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ سے اپنے ساتھیوں کے پاس دفن کی اجازت چاہتے ہیں انہوں نے کہا وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی مگر آج میں ان کو اپنی ذات پر مقدم رکھوں گی جب عبداللہ لوٹ کر آئے تو لوگوں نے حضرت عمرؓ سے کہا یہ عبداللہ آگئے حضرت عمرؓ نے کہا مجھ کو ذرا اٹھاؤ ایک شخص نے ان کو اٹھا کر اپنے اوپر بیٹھا دے دیا۔ انہوں نے عبداللہ سے پوچھا کہہ کیا خبر لایا عبداللہ نے کہا وہی جو آپ کی آرزو تھی حضرت عائشہؓ نے اجازت دے دی۔ کہنے لگے الحمد للہ اس سے بڑھ کر میرا اور کوئی مطلب نہ تھا اب جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ اٹھا کر لے جانا اور (باہر ہی سے) ان کو سلام کہنا اور کہنا عمر خطاب کا بیٹا آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اگر وہ اس وقت بھی اجازت دیں تو میری لاش حجرے میں لے جانا (وہاں دفن کر دینا) ورنہ مسلمانوں کے قبرستان (بقیع) میں دفن کر دینا، ام المؤمنین حفصہؓ اپنے والد کی خبر سن کر کئی عورتیں ساتھ لیے آئیں جب ہم نے ان کو دیکھا تو ہم سب کھڑے ہو گئے وہ باپ کے پاس گئیں اور گھڑی بھر روتی رہیں پھر مردوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی مردوں کے گھستے ہی وہ اندر چلی گئیں ہم دہیں سے ان کے رونے کی آواز

سننے رہے لوگوں نے کہا اے امیر المومنین کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں انہوں نے کہا خلافت کا حق دار ان چند لوگوں سے زیادہ کوئی نہیں جن سے آپ ﷺ مرتے دم تک راضی رہے انہوں نے علی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نام لیا اور کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ (مشورے میں) تمہارے ساتھ شریک رہے گا مگر خلافت میں اس کا کوئی حق نہیں یہ عبداللہ کو تسلی دینے کے لیے کہا پھر اگر خلافت سعد کو مل گئی تو بہتر ہے ورنہ سعد سے مدد لیتا رہے اور میں نے جو (کوفہ کی حکومت سے) ان کو موقوف کر دیا تھا تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ لیاقت نہ رکھتے تھے یا انہوں نے کچھ خیانت کی تھی یہ بھی کہا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہو میں اس کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین اولین کے حقوق پہچانے اور ان کی عزت اور حرمت کا خیال رکھے اور یہ وصیت کرتا ہوں کہ انصار سے عمدہ سلوک کرے جنہوں نے اوروں سے پہلے ایمان کو جگہ دی اور دارالایمان (یعنی مدینہ) میں ٹھکانہ بنایا جو ان میں نیک لوگ ہیں ان کی قدر کرے اور جو قصور وار ہوں ان سے درگزر کرے اور دوسرے شہروں کے مسلمانوں سے بھی اچھا سلوک کرے کیونکہ وہ اسلام کی قوت کے بازو ہیں انہی کی وجہ سے آمدنی ہوتی ہے کافران کو دیکھ کر غصے ہوتے ہیں ان سے رضا مندی کے ساتھ اتنا ہی روپیہ لیا جائے جو ان کی ضرورتوں سے بچ رہتا ہو میں یہ بھی اس کو وصیت کرتا ہوں کہ عرب لوگوں سے عمدہ سلوک کرے کیونکہ اسلام کی جڑ یہی لوگ ہیں اور اسلام کا مادہ انہی سے بنا ہے اور زکوٰۃ میں ان کے وہی مال لیے جائیں جو عمدہ اور اعلیٰ نہ ہوں پھر انہیں کے محتاجوں کو دے دیے جائیں میں یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ ذمی کافروں کی بھی جو اللہ اور رسول کے ذمہ میں آئے ہیں خبر رکھے اپنا عہد جو ان سے کیا ہے پورا کرے ان کو

ان کے دشمنوں سے بچائے ان سے اتنا ہی کام لے جتنا وہ کر سکتے ہیں خیر جب (تیسرے روز) ان کا انتقال ہوا اور ہم ان کا جنازہ لے کر پیدل نکلے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو سلام کیا اور کہا عمر بن خطاب آپ سے اجازت مانگتے ہیں انہوں نے کہا لاؤ ان کو اندر لاؤ وہ اسی حجرے میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کیے گئے جب ان کے دفن سے فراغت ہوئی تو یہ چھ آدمی جن کے عمر رضی اللہ عنہ نے نام لیے تھے ایک جگہ کھٹے ہوئے عبدالرحمن بن عوف نے کہا ایسا کرو تم چھ آدمی تین آدمیوں کو اپنے میں سے مختار کر دو۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تو علی رضی اللہ عنہ کو اختیار دیا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو اختیار دیا سعد رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اختیار دیا۔ (خیر چھ کے تین رہ گئے) عبدالرحمن بن عوف نے کہا علی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ تم دونوں میں سے جو کوئی خلافت کا طالب نہ ہو ہم اسی کو خلیفہ بنائیں گے۔ اللہ اور اسلام گواہ رہے میں اسی کو تجویز کروں گا جو میرے نزدیک افضل ہے۔ یہ سنتے ہی عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم دونوں مجھ کو مختار کرتے ہو قسم خدا کی میں اس کو خلیفہ بنانے میں کوئی کوتاہی نہ کروں گا جو افضل ہے۔ دونوں نے کہا اچھا ہم نے تم کو مختار کیا۔ پہلے انہوں نے ایک کا (علی رضی اللہ عنہ) کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگے تم کو تو آنحضرت ﷺ سے قرابت ہے اور تمہارا اسلام بھی پرانا ہے تم خود جانتے ہو اللہ تمہارا نگہبان اگر میں تم کو خلیفہ بناؤں گا تو تم عدل اور انصاف کرو گے اور اگر میں عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بناؤں گا تو تم ان کا حکم سنو گے ان کی بات مانو گے پھر عثمان رضی اللہ عنہ سے تنہائی کی ان سے بھی یہی گفتگو کی جب دونوں سے اقرار لے چکے تو کہنے لگے عثمان رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے ان سے بیعت کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ان سے

بیعت کی اور سارے مدینے والے گھس پڑے سب نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی۔

(بخاری ج 5، ص 45 تا 50 کتاب المناقب فصول البيعة والاتفاق على عثمان)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں ایک گروہ کا منظم ہو جانا

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک گروہ حکومت پر قبضہ کرنے کیلئے منظم ہو چکا تھا اور وہ قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے بارے میں علم ہو چکا تھا۔ اسی لیے انہوں نے خطبہ دیا کہ ایک گروہ منظم ہو چکا ہے اور اسلامی حکومت پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ مگر یاد رکھو جو لوگ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے ان کا اور ان کی اولاد کا اسلامی حکومت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ لوگ کون تھے؟ اس بات پر پردہ ڈالنے کی بہت کوشش کی گئی۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم کو بھی خلیفہ کا انتخاب کرنے والا شوریٰ کا رکن بناؤ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کو مار مار کر ہم نے اسلام میں داخل کیا اور اب یہ بنی بنائی حکومت پر قبضہ کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔

جس خطرہ کا حضور ﷺ کو اندیشہ تھا وہی انصار رضی اللہ عنہم کے ذہن میں بھی تھا۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتخاب کے موقع پر یہ کہا تھا کہ قریشی اور انصاری باری باری خلیفہ بننا چاہتے تھے تا کہ ہر خلیفہ محتاط ہو کر کام کرے۔ اگر ان لوگوں کی اولاد کبھی حکومت پر آگئی جن سے ہم نے جنگیں کیں، تو پھر ہمارا بہت نقصان ہوگا۔ ان کا اندیشہ واقعہ 7 میں حقیقت بن کر سامنے آ گیا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری شرح بخاری ج 12، ص 153 پر لکھتے ہیں:

”جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو دوران گفتگو حضرت حباب بن المنذر بدری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ ایک امیر تم میں سے ہو اور ایک امیر ہم میں سے ہو، اس خلافت کے بارے میں ہم آپ

سے حسد نہیں کرتے بلکہ ہم کو ڈر ہے کہ وہ لوگ حاکم بن جائیں گے جن کے باپ اور بھائی ہم نے جنگوں میں قتل کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر ایسا ہوا تو پھر مرجانا بہتر ہے۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے لڑنے والوں کے شجرے دیکھو کہ وہ کن کی اولاد ہیں؟ ان کے بڑے کس کس جنگ میں قتل ہوئے اور کس نے قتل کئے؟ پھر یہ واضح ہو کر سامنے آ جائے گا کہ یہ بعد کی بات نہیں بلکہ دیرینہ دشمنی ہے۔ اس کے ساتھ انصار کا واقعہ 7 میں برباد ہونا بھی سامنے رکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ پرانے بدلے لئے جارہے ہیں، یزید کو کوئی خطبہ نہیں تھا بلکہ اس نے اپنے بڑوں کے قتل کا بدلہ لیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا اقدام بھی کڑھی کا وقتی اہال نہیں تھا بلکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ دین کو لگا تار نقصان پہنچاتے چلے آ رہے ہیں۔

اس منظم گروہ کی کچھ کچھ نشاندہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کر دی۔ امام ابن اثیر نے 5 جلدوں میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے حالات پر کتاب اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ لکھی ہے۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حالات میں لکھتے ہیں:

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ جب تک اصحاب بدر رضی اللہ عنہم میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہے کسی دوسرے کا خلافت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر جب بدر والے ختم ہو جائیں تو جنگ احد میں حصہ لینے والوں میں کوئی زندہ ہو تو وہ حکمران بنے گا۔ پھر فرمایا ان کے بعد قلاں کی باری ہوگی۔ جن لوگوں کو فتح مکہ والے دن معافی ملی ان کا اور ان کی اولاد کا حکومت میں کوئی حصہ

نہیں۔“ (ابن اثیر، اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ، ج 4، ص 387-388)

جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا گیا تو آپ نے چھ ممتاز صحابہ کی کمیٹی بنادی جن سے حضور ﷺ آخر تک راضی رہے۔ فرمایا:

”میرے بعد یہ چھ آدمی اپنے میں سے کسی کو خلیفہ چن لیں۔ یہ عشرہ مبشرہ

میں سے تھے۔ ساتھ فرمایا مجھے اچھی طرح علم ہے کہ کچھ لوگ اس معاملہ کو درست نہیں سمجھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو مار مار کر ہم نے اسلام میں داخل کیا۔ اگر انہوں نے اس کمیٹی کو تسلیم نہ کیا اور اپنی حکومت کی کوشش کریں تو اللہ کے دین کے دشمن کا فر اور گمراہ ہوں گے۔“

(مسلم شریف کتاب المساجد باب نہی من اکلاہما أو بصلّا)

اس حدیث کی شرح میں علامہ ابی مالکی رحمہ اللہ کے حوالہ سے فتح الملہم ج: 2،

ص 261 پر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”ان لوگوں کا پتہ چل گیا جب عمرو بن العاص نے کہا اے عمر رضی اللہ عنہ! ہم کو کمیٹی میں شامل کیوں نہیں کیا؟ کیا ہم ان سے کم ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمرو بن العاص سے کہا بیٹھ جا! جہاں خدا نے تجھے رکھا ہے۔ میں نے اس کمیٹی میں کسی ایسے شخص کو شامل نہیں کیا جس نے کسی وقت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں تلوار اٹھائی۔“

یہی عمرو بن العاص تھے جنہوں نے جنگ صفین میں قرآن اٹھائے، ثالثی میں فیصلہ کیا اور مجمع میں آ کر جھوٹ بول دیا۔

(البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر ج: 7، ص 282-283 اور طبری ج: 4، ص 51)

امیر معاویہ نے جب عمرو بن العاص کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے بات چلائی تو عمرو نے کہا علی رضی اللہ عنہ تم سے پہلے کا مسلمان ہے۔ میں تم سے کیوں ملوں؟ امیر معاویہ نے کہا علی رضی اللہ عنہ تیرا اور میرا مخالف ہے۔ عمرو نے کہا سودا کر! امیر معاویہ نے کہا جب مصر علی رضی اللہ عنہ سے چھین لیں گے تو تاحیات اس کی آمدن تجھے ملے گی اور وہاں تم گورنر ہو گے۔ اس طرح عمرو بن العاص نے دین بیچ دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گورنر مصر کو قتل کر کے حکومت خود سنبھال لی اور وہاں کا خراج ساری زندگی کھایا۔

(مسیر اعلام النبلا ج: 4، ص 138 امام ذہبی رحمہ اللہ اور اخبار الطوال ابو حنیفہ دنیوری ص: 168)

علامہ لکھتے ہیں:

”وہ گروہ کون سا تھا؟ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ خلافت اور جس کو چاہے ملے، مگر حضور علیہ السلام کے گھر میں نہ جائے۔ نبوت اور خلافت اگر ایک گھر میں جمع ہو گئیں تو پھر لوگ انہی کو خلیفہ بناتے رہیں گے، ہماری باری کب آئے گی؟ وہ لوگ اہل بیت کی خلافت کا انکار کرتے تھے۔ وہی لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ٹنگے ہو کر سامنے آ گئے۔“

علامہ لکھتے ہیں:

”ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا تیرا باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور تم بھی چچا زاد ہو، لوگ تم کو خلیفہ کیوں نہیں بننے دیتے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نہیں جانتا! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں جانتا ہوں۔ ان قریشیوں کو یہ بات پسند نہیں کہ نبوت بھی تم میں اور خلافت بھی تمہارے خاندان میں آ جائے۔ یہ کہتے ہیں اگر نبوت و خلافت دونوں ہاشمیوں کے پاس چلی گئیں تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟“

جب کمیٹی میں خلیفہ کا فیصلہ ہونے والا تھا تو اس وقت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، جو مرتد رہ چکا تھا، اور ولید بن عقبہ جو نص قرآن سے فاسق ہے، کھل کر سامنے آ گئے اور کہا اے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ! اگر عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بناؤ گے تو ہم قریش ساتھ دیں گے ورنہ ہم اختلاف کریں گے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اگر وہ لوگ پھر بھی حکومت کیلئے کوشش کریں تو وہ گمراہ، بے دین اور اللہ کے دشمن ہوں گے۔ وہ دین بدل دیں گے۔ واقعی ان لوگوں نے جب حکومت چھینی تو انہوں نے صرف حکومت نہیں سنبھالی بلکہ دین بدل دیا، انہوں نے حج بدلا، زکوٰۃ بدلی، نمازیں بدل دیں، حج جمع کرنے والے کو کوڑے مارتے، عید کی نماز کی اذان شروع کر دی اور خطبہ پہلے شروع کر دیا، پہلے اللہ اکبر کے بعد نماز کے باقی اللہ اکبر کہنے چھوڑ

دیئے، دین کی ایک بات انہوں نے بدل دی، یہ حالات تھے جن میں امام حسین علیہ السلام نے اقدام کیا۔

امام ابن حجر فتح الباری ج: 12، ص: 147 پر لکھتے ہیں:

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خدشہ درست ثابت ہوا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد واقعی

ایسا ہی ہوا۔ امام ابن حجر فتح الباری ج: 13 حدیث نمبر 7096

کتاب الفتن باب الفتنہ کا الموج البحر کے بیان میں لکھتے ہیں کہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہی حکومت پر قبضہ کا منصوبہ بن چکا تھا۔“

قصۃ الشوری

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کمبلی بنائی اس قصہ میں لوگوں نے اتنی ملاوٹ کر دی کہ حضرت

عمر رضی اللہ عنہ پر بہت اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمبلی بنا کر بہت بڑی سازش کی۔ اپنے بیٹے کو بطور مبصر اور ثالث بنا کر بٹھا دیا۔ اور یہ کہ تین دن کے اندر اندر فیصلہ نہ ہوا اور تین تین ووٹ برابر ہوں تو جس کے حق میں عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ووٹ ہو، وہ خلیفہ مقرر ہوگا۔ اگر باقی نہ مانیں تو اختلاف کرنے والوں کے سر قلم کر دو۔ مزید یہ کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، کے بہنوئی تھے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان کے ہم خاندان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں صرف ایک ووٹ تھا۔ وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا تھا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوشش کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ نہ بن پائیں۔

خدا گواہ ہے، ان باتوں میں ذرا سچائی نہیں ہے، نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بیٹو کا اختیار دیا کہ وہ جو چاہے فیصلہ کرے اور نہ باقی اختلاف کرنے والوں کے قتل کا حکم دیا۔

امام محمد ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”تاریخ الامم و الملوک“ میں ان باتوں کی جو سند لکھی ہے۔ اس کے مطابق ان سب باتوں کا راوی علی بن محمد المدائنی ہے۔ علامہ

عبداللہ مامقانی شیعہ عالم کی کتاب تنقیح المقال فی علم الرجال ہے، جس میں راویوں کے حالات لکھے ہیں اور ان کے سچے، جھوٹے ہونے کا بتایا ہے۔ اس کتاب میں نمبر 8510 پر اس علی بن محمد المدائنی کا حال لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔

ایک اور بات شوری کے بارے میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب اجلاس شروع ہوا تو وہاں بہت جھگڑا ہوا اور ایک حدیث المناشدہ کئی صفحوں کی بنی، اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں تقریر کی کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہے اور یہ کہ میں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حکومت ہمیں نہیں ملے گی کیونکہ شوری میں رشتہ دار اکٹھے ہیں اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ میرے خلاف ہیں۔

اس روایت کو ابوطالب طبری شیعہ عالم نے اپنی کتاب ”الاحتجاج“ میں لکھا ہے، یہ اس کتاب میں ص: 72، سے ص: 76 تک لکھی ہے، جس میں بتایا کہ شوری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے فضائل کا اقرار کرایا، یہ روایت شروع ہی عمرو بن شمر سے ہوتی ہے۔ علامہ مامقانی شیعہ عالم نے نمبر 8714 پر اس عمرو بن شمر بن یزید ابو عبداللہ الحنفی الکوفی کے بارے میں لکھا ہے کہ ضعیف ہے۔

اس قصہ مناشدہ کے بارے میں سنی امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ محک الرجال (راویوں کی کسوٹی) نے بھی اس قصہ کو لکھا۔ انہوں نے مختصر لکھا مگر لکھا ہے۔ اور میزان الاعتدال ج: 1، نمبر شمار 1643 پر الحارث بن محمد عن ابی ظہیر کو مجہول لکھا ہے۔

یہ پہلا آدمی ہے جس سے یہ قصہ سنیوں کی کتاب میں شروع ہوتا ہے۔ اس کو شیعہ عالم نے ضعیف لکھا ہے۔ دوسرا راوی زافر بن سلیمان ہے۔ تنقیح المقال میں اس زافر بن سلیمان کو امام ذہبی نے میزان الاعتدال، ج: 2، ص: 63، نمبر شمار 2819 پر ضعیف لکھا ہے۔ اسی راوی کو تنقیح المقال میں نمبر 4186 پر علامہ عبداللہ مامقانی نے امامی مجہول لکھا ہے۔

امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حدیث مناشدہ خبر منکر یعنی غلط ہے۔ شوری میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی ہے جو دوسرے کے حق میں

خلافت سے دستبردار ہو جائے اور وہی باقی دو کا ثالث ہو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں اور سعد بن ابی وقاص، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں خاموش رہے۔ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اب میرا حکومت میں کوئی دخل نہیں اور خلیفہ میں جنوں گا۔ مجھ پر اللہ اور اسلام کا عہد ہے کہ میں بغیر کسی رشتہ داری کے لحاظ کے اس کو جنوں گا جس کو امت کے مشورہ سے بہتر پاؤں گا۔ ان کے اس حلف کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کئی دن سوئیں سکے انہوں نے مدینہ کے مرد و عورت اور باہر سے آئے ہوئے قافلوں سے مشورہ کیا، گورنروں سے پوچھا، اکثریت کی رائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں تھی۔

تین دن کے بعد انہوں نے اپنے بھانجے حضرت مسور بن مخزوم رضی اللہ عنہ کو تہجد کے وقت بلایا اور ان سے کہا شورلی کے باقی ارکان کو بلاؤ۔ وہ سب تشریف لائے۔ پھر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے سر پر وہ پگڑی باندھی جو حضور ﷺ نے ان کے سر پر باندھی تھی اور بہت دیر تک آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کی۔

اس مقام پر ملاوٹ کرنے والوں نے یہ ملاوٹ کی کہ پھر انہوں نے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا۔ ہاتھ نکالو! میں بیعت کرتا ہوں مگر یہ وعدہ کرو کہ تم قرآن و سنت اور ابوبکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ کے طریقہ کے مطابق حکومت کرو گے۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ میں شیخین رضی اللہ عنہما کے طریقہ کا پابند نہیں ہوں گا۔ پھر یہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے اقرار کر لیا۔

اب دیکھیں یہ طریقہ شیخین رضی اللہ عنہما کی پابندی والا کٹڑا ہی کیسا ہم ہے۔ اہل حدیث حضرات تو اس سے تقلید کا رد نکال رہے ہیں۔ اور شیعہ کہتے ہیں اگر ابوبکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ نیک ہوتے تو علی رضی اللہ عنہ ان کی پیروی سے انکار کیوں کرتے؟

فتح الباری میں امام ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ ملاوٹ والا فقرہ لکھ کر اس کے راوی لکھ دیئے اور لکھا کہ سفیان بن کعب ضعیف ہے۔ (فتح الباری ج: 13، ص: 197)

امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری ج: 13، ص: 194 پر اصل بات لکھ دی ہے:

”حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے سب مہاجر و انصار، صحابہ کو بلالیا، پانچوں فوجی کمانڈروں کو بھی بلالیا اور مسجد میں اجتماع میں خطبہ پڑھا پھر کہا علی رضی اللہ عنہ میں نے سب سے فردا فردا پوچھا، لوگ عثمان رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، تم ناراض نہ ہونا۔ پھر صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہی یہ بات کہی کہ میں تیری بیعت کرتا ہوں اور تم اللہ کے حکم، سنت رسول اور شیخین کے طریقہ کار پر حکومت کرنا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی اور پھر باقی مہاجر و انصار صحابہ رضی اللہ عنہم نے اور حاضر فوجی کمانڈروں نے بیعت کی۔“

شورلی کے مرحلہ میں کسی سے کوئی بے ایمانی نہیں ہوئی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر یہ تہمت بھی لگائی جاتی ہے کہ انہوں نے ایک طرف چھ آدمیوں کی کمیٹی بنائی جو سب کے سب عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور دوسری طرف ان کے عیب بھی بیان کئے، اگر ان میں عیب تھے تو ان کو شورلی میں شامل کیوں کیا؟ اور یہ کہ ان میں وہ عیب واقعی تھے تو پھر وہ خلافت کے اہل ہی نہ تھے۔ یہ کہانی بھی علی بن محمد المدائنی بیان کرتا ہے جو کہ مجھول راوی ہے۔ یہ شیعہ عالم علامہ مامقانی کے نزدیک بھی ضعیف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان میں سے کس کا کوئی عیب بیان نہیں فرمایا بلکہ ان کی تعریف کی کہ ان سے رسول ﷺ اس دنیا سے راضی تشریف گئے۔

مستدرک حاکم ج: 3، ص: 95 پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منسوب ایک روایت درج ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اعتراض میں حوالہ کے طور پر پیش کی جاتی ہے جب نامزد مہبران شورلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے اٹھ کر گئے تو آپ نے کہا میں نے کمیٹی تو بنادی ہے مگر

اللہ اگر ان لوگوں کا بھلا چاہے تو اس گنہگار (سیدنا علی علیہ السلام) کو خلیفہ بنالیں۔ یہ ان کو حق پر چلائے گا۔ اس کی گردن پر تلوار بھی رکھ دی جائے تو یہ حق کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کاش یہ اس کو خلیفہ بنالیں! ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ بنانا درست ہے تو آپ خود کیوں نہیں بنا دیتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں بنا دوں تو یہ مجھ سے بہتر آدمی یعنی ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اور اگر نہ بناؤں تو یہ بھی مجھ سے بہتر ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نامزد نہیں فرمایا۔

اس روایت سے بات اور زیادہ خراب ہوتی نظر آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ حق حضرت علی علیہ السلام کا ہے، ان کو نامزد نہیں فرمایا اور کمیٹی بنا کر فساد شروع کر دیا۔ اس روایت میں عمر مولیٰ غرضیف راوی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شوریٰ میں اس وقت زندہ صحابہ عشرہ مبشرہ میں چھ افراد کو کمیٹی میں شامل کیا جن کے نام یہ ہیں۔

- 1- حضرت علی علیہ السلام
 - 2- حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
 - 3- حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ
 - 4- حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ
 - 5- حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ
 - 6- حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ
- ساتویں فرد حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے۔ ان کو کمیٹی میں شامل نہ کیا۔ (ابن حجر مہذب فتح الباری 7: ص 61)
- کمیٹی کو یہ تنبیہ بھی فرمادی تھی کہ اگر تم نے اختلاف کیا تو شام سے معاویہ اور یمن سے عبداللہ بن ربیعہ آ کر حکومت پر قبضہ کر لیں گے۔

(الاصابہ ج: 4، ص: 65 اور ج: 3، ص: 414)

یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد اے لوگو! آپس میں گروہ بندی سے بچنا اور اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھو شام میں معاویہ موجود ہے۔ (ابن حجر الاصابہ ج: 3، ص: 414)

امیر معاویہ کے بارے میں فرمایا:

”اے شام کا علاقہ سپرد کر کے غلطی کی اگر اس بات کی سمجھ جواب آئی ہے پہلے آگئی ہوتی تو میں شام کا علاقہ کبھی ابوسفیان کے دونوں بیٹوں کو نہ دیتا۔“ (مسلم کی شرح فتح الملہم ج: 7، ص: 154 شبیر احمد عثمانی)

مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”یہی لوگ ہیں جو اہل بیت کو حکومت ملنے کے مخالف تھے اور اس کا ثبوت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات سے ملتا ہے کہ ہم نے ان کو مار مار کر اسلام میں داخل کیا ہے یعنی وہ شکست کھا کر اسلام میں داخل ہوئے۔“

مولانا لکھتے ہیں یہ مسلم کی ”شرح اکمال اکمال المعلم“ میں علامہ ابی مالکی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔

شوریٰ کے سلسلہ میں ایک اور بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ایک طرف تو اسلام میں طلب عہدہ منع ہے اور کسی آدمی کے نا اہل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی عہدہ کو طلب کرے۔ دوسری طرف جب حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی علیہ السلام سے کہا ہم تین امیدوار خلافت رہ گئے ہیں تو کیا ہم میں سے کوئی دستبردار ہو کر ثالث کا کردار ادا کرنے پر تیار ہے۔ تو اس موقع پر دونوں شیخ چپ رہے۔ اس سے ان دونوں کا طالب حکومت ہونا ظاہر ہوتا ہے۔

اس سلسلہ میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بعض دفعہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں جب عہدہ طلب کرنا پڑ جاتا ہے جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے طلب عہدہ کا ذکر سورہ یوسف: 55/12 میں ہے۔ ایک طالب اقتدار وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کیلئے عہدہ طلب کرتا ہے۔ ایسا آدمی حدیث کے مطابق خائن، بددیانت اور نا اہل ہے۔ ایک وہ ہے جو دیکھتا ہے کہ اگر میں جو اہل ہوں، خود کو عہدہ کے لئے پیش نہ کروں تو نا اہل عہدہ پر بیٹھ جائے گا اور امت برباد ہو جائے گی۔ اس طلب عہدہ میں وہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔

دور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

لوگ تو آنحضرت ﷺ سے خیر کے متعلق دریافت کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں پوچھا کرتا، اس ڈر سے کہیں اس میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ہم لوگ جاہلیت اور شر میں گرفتار تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ خیر (یعنی اسلام) ہم پر لے آیا۔ اب اس بھلائی کے بعد کیا پھر برائی پیدا ہوگی۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں، میں نے پوچھا پھر اس برائی کے بعد بھلائی ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں مگر اس میں دھواں ہوگا۔ میں نے عرض کیا دھواں سے کیا مراد ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو (پورا پورا) میری سنت پر نہیں چلیں گے۔ ان کی کوئی بات اچھی معلوم ہوگی اور کوئی بری، میں نے پوچھا کہ اس بھلائی کے بعد پھر برائی ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں اس وقت دوزخ کی طرف بلائے والے دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے۔ جو کوئی ان کی بات مانے گا اس کو دوزخ میں جھونک دیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ان کی نشانی تو بیان فرمادیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا لوگ ہماری جماعت میں سے ہوں گے اور ہماری بولی بولیں گے۔ میں نے عرض کی اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کیا کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور امام کے ساتھ رہ، میں نے کہا اگر جماعت اور امام نہ ہو تو؟ فرمایا ان سب گروہوں

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی طبیعت کی نرمی اور انتظامی صلاحیت کی کمی کی وجہ سے خود کو بطور امیدوار خلافت برقرار رکھا مگر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد حالات بہت بگڑ گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے سے انکار کیا کہ ان کے خیال میں لوگ عیش و عشرت کے عادی ہو چکے تھے اور ان کا واپس لوٹنا بہت مشکل تھا۔ یہی اندیشہ بعد میں سچ ثابت ہوا۔

سے الگ رہ (جنگل میں دور دراز چلا جا) اگرچہ وہاں ایک درخت کی جڑ مرنے تک چباتا رہے۔ (تو یہ تیرے حق میں بہتر ہے)

(بخاری کتاب الفتن باب کیف الامر ذالم تکن جماعة)

مولانا وحید الزماں خاں رحمہ اللہ مترجم بخاری اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

”محدثین نے کہا پہلی برائی سے مراد وہ فتنے ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد پیدا ہوئے اور دوسری بھلائی سے مراد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا زمانہ مراد ہے، بعضوں نے کہا پہلی برائی سے مراد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل اور دوسری بھلائی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ مراد ہے اور دھوئیں سے خارجی اور رافضیوں کے پیدا ہونے کی طرف اشارہ ہے اور دوسری برائی سے مراد بنی امیہ کا زمانہ مراد ہے۔“

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور سیرت شیخین

آپ کے انتخاب کا تفصیلی ذکر قصۃ الثورلی کے ذیل میں ہو چکا ہے۔ بخاری کتاب الاحکام باب کیف یمایع الامام الناس میں تفصیلی حدیث میں یہ قصہ مذکور ہے جس میں یہ ذکر بھی ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا علی رضی اللہ عنہ! برانہ ماننا اس نے سب لوگوں سے اس معاملہ میں گفتگو کی ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو مقدم رکھتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا میں تم سے اللہ کے دین، سنت رسول اور دونوں خلفاء کے طریقہ پر بیعت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی اور جتنے مہاجرین و انصار اور فوجوں کے کمانڈر اور عام مسلمان وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی بیعت کر لی۔

قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سیرت شیخین پر چلنے کا وعدہ بھی لیا تھا۔ سیرت شیخین کوئی نئی چیز نہیں بلکہ کردار ہے، کریکٹر ہے۔ قرآن و حدیث میں احکام ہیں اور ان پر عمل کر کے ان دونوں اصحاب نے

دکھا دیا۔ ان کو نے اپنایا اور دنیا سے منہ موڑے رکھا۔ مال و دولت کو ہاتھ نہ لگایا۔ اپنے خاندان والوں کو کوئی عہدہ نہ دیا اور نہ ان کو عیاشی کرائی۔ دونوں کی حکومت زہد و تقویٰ کا نمونہ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس معیار پر پورے نہ اترے۔ بیت المال خاندان میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ گورنروں نے ایسی مالی بے ضابطگیاں کیں جو سب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیٹ پر گئیں۔ ان کی تمام فضیلت سر آنکھوں پر مگر نظام حکومت درست نہ رہ سکا۔ خود حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ انہوں نے بھی ان کی پالیسیوں سے ناراض ہو کر سلام کلام چھوڑ دیا تھا۔ ولید بن عقبہ گورنر نے جب ان سے جا کر گلہ کیا کہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بول چال ختم کر دی ہے تو ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طریقہ کو چھوڑ گئے ہیں۔ جب ولید بن عقبہ نے یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بتائی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ کی سنت پر نہ وہ چل سکتا ہے نہ میں چل سکتا ہوں۔ اس طرح تسلیم کر لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ چھوڑ دیا ہے۔

(الفتح الربانی، ج: 23، ص: 104-105)

اس سلسلہ میں سید قطب شہید رحمہ اللہ کی کتاب اسلام میں عدل اجتماعی پڑھنے کے لائق ہے۔

عوام کی حالت

اس دور میں عوام کی کیا حالت تھی یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بن یمان بیان فرماتے ہیں۔ بخاری کتاب ”الفتن باب اذا قال عند قوم شیتا ثم خرج فقال بخلافہ“ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ابووائل روایت کرتے ہیں:

”انہوں نے کہا آج کل کے منافق ان منافقوں سے بدتر ہیں جو دور نبوی

میں تھے۔ وہ تو اپنا نفاق چھپاتے تھے، یہ تو علانیہ نفاق کرتے ہیں۔“

بخاری کتاب ”الفتن باب اذا بقی فی حثالة من الناس“ میں زید بن وہب

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

انہوں نے کہا ہم سے آپ ﷺ نے دو حدیثیں بیان فرمائیں۔ ایک کا ظہور تو دیکھ چکا ہوں اور دوسری کے ظہور کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ایمانداری آدمیوں کے دلوں کی جڑ پر اتاری (یعنی پیدا نشی ہے) پھر انہوں نے قرآن سیکھا حدیث سیکھی اور حضور ﷺ نے اس ایمان داری کے اڑ جانے کا حال بیان کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ایسا ہوگا ایک آدمی سو جائے گا۔ پھر ایمانداری اس کے دل سے اٹھائی جائے گی۔ اس کا نشان ایک کالے داغ کی طرح رہ جائیگا۔ پھر سوئے گا تو رہی سہی ایمان داری اٹھائی جائے گی۔ اب اس کا نشان ایک ہلکے آبلے کے نشان کی طرح رہ جائے گا، جیسے تو ایک انگارہ اپنے پاؤں پر پھرائے اور ایک آبلہ پھول جائے، وہ پھولا دکھائی دیتا ہے۔ مگر اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا اور ایسا ہوگا کہ لوگ خرید و فروخت کریں گے ان میں کوئی ایماندار نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ لوگ کہیں گے فلاں قوم یا خاندان میں ایک شخص ایماندار ہے اور کسی کی نسبت کہا جائے گا کہ عقل مند عمدہ بہادر آدمی ہے لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ حدیفہ ﷺ کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک ایسا زمانہ گزر چکا ہے جب مجھ کو پرواہ نہ ہوتی تھی، جس سے چاہوں خرید و فروخت کروں۔ اگر میں جس سے معاملہ کرتا وہ مسلمان ہوتا تب تو اس کا اسلام اس کو مجھ سے کرتا وہ بے ایمانی نہ کر سکتا۔ اگر عیسائی ہوتا تو اس کے حاکم لوگ اس کو ایمانداری پر مجبور کرتے۔ مگر آج کے دور میں کسی سے خرید و فروخت کا معاملہ نہیں کرتا مگر فلاں فلاں آدمیوں سے۔ اس کی شرح میں امام ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ دور نبوی اور پہلے دو خلفاء کے بعد امانت کی جگہ خیانت آ گئی۔

(فتح الباری ج: 13 ص: 38)

حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی اور اپنے خاندان کو

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے کی وصیت کی۔“

(فتح الباری ج: 13 ص: 40)

حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 40 دن بعد فوت ہوئے۔

بخاری ”كتاب الاذان باب فضل صلاة الفجر في جماعة“ میں حضرت

ابودرداء صحابی رضی اللہ عنہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں فوت ہوئے سے روایت ہے:

”خدا کی قسم سوائے باجماعت نماز کے کوئی کام دور نبوی کا باقی نہیں رہا۔ ابن

حجر اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جس دور کے بارے میں ابودرداء رضی اللہ عنہ

کے یہ ریمارکس ہیں یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے آخری دنوں کا حال ہے تو

میرے دور کا کیا حال ہوگا؟“

(فتح الباری ج: 2 ص: 138)

نماز میں تبدیلی

حضرت معمر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

”حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ صحابی نے بصرہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے

نماز پڑھی تو وہ جب سجدے میں جاتے اللہ اکبر کہتے اور جب سجدے سے سر

اٹھاتے اللہ اکبر کہتے اور جب دو رکعتیں پڑھ کر اٹھتے، تکبیر کہتے جب نماز

پڑھ چکے تو عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے آج اس شخص

نے (یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ) حضرت محمد رضی اللہ عنہ کی نماز یاد دلا دی یا یوں کہا

حضرت محمد رضی اللہ عنہ جیسی نماز پڑھائی۔

(بخاری كتاب الاذان باب اتمام التكبير في الركوع) و كتاب الصلوة باب

يكبر وهو ينهض من السجدة

مکرہ کہتے ہیں:

”میں نے مکہ میں ایک بوڑھے (ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ) کے پیچھے نماز پڑھی اس نے

22 تکبیریں کہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا یہ بوڑھا بے وقوف ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا تیری ماں تجھے روئے یہ تو ابوالقاسم رضی اللہ عنہما کی سنت ہے۔“

(بخاری کتاب الاذان باب التکبیر اذا قام من السجود)

امام ابن حجر فتح الباری ج: 6، ص: 178 حدیث نمبر 3060 کی شرح میں لکھتے ہیں:

”حضور ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی مردم شماری کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حکم نبوی کے مطابق مردم شماری کی گئی تو مدینہ میں لڑنے کے قابل آدمی 1500 تھے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں تو کفار سے کیوں ڈریں؟ اور مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنے کی بجائے میدان میں مقابلہ کریں۔ یہ جنگ احد کی بات ہے حضور ﷺ نے فرمایا: ”حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان لاکھوں ہوں گے مگر نمازیں چھپ کر پڑھیں گے۔“

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”میں نے اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیا کہ ہم مصیبت میں پھنس گئے۔ حتیٰ کہ یہ وقت آیا ایک آدمی اکیلا نماز پڑھتا ہے اور ساتھ میں ڈرتا ہے کہ اگر حکومت کو اطلاع مل گئی تو خیر نہیں۔“

مولانا شبیر احمد عثمانی ”فتح الملہم ج: 1 ص: 291“ اور امام ابن حجر رحمہ اللہ اس

حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”معلوم ہوتا ہے اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری دور کی طرف اشارہ ہے جب کوفہ میں گورنر ولید بن عقبہ جیسے نماز لیٹ کر کے پڑھتے تھے یا اچھے طریقہ سے نہ پڑھتے تھے۔ اس وقت نیک لوگ اپنے گھروں میں چھپ کر نماز پڑھ لیتے اور بعد میں حاکم کے خوف کی وجہ سے حاکم کے ساتھ بھی جا کر پڑھ لیتے۔“

(فتح الباری ج: 6، ص: 178، بخاری کتاب الجہاد والسیر باب کتابہ الامام الناس)

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اس تبدیلی کے خلاف آواز اٹھائی اور جلاوطن ہو کر ربذہ میں دفن ہو گئے۔

نماز کی اسلام میں اہمیت سے ہر مسلمان واقف ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا ایک شاگرد ابو بصیر ان کی بیوی ام حمیدہ کے پاس آیا۔ ام حمیدہ نے کہا بیٹا کاش تو اس وقت موجود ہوتا، جب امام فوت ہوئے، شاگرد نے پوچھا اس وقت امام نے کیا فرمایا تھا۔ اماں نے کہا اس وقت امام نے فرمایا تھا جس نے نماز کو معمولی کام سمجھا (جب وقت ملے گا پڑھ لیں گے) اس کو ہماری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔

ولید بن عقبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوفہ کا گورنر تھا۔ ایک دن اس نے نماز میں آنے میں بہت دیر کر دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھا دی۔ ولید بن عقبہ نے پیغام بھیجا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ نے تجھے کوئی حکم دیا ہے یا تو نے خود یہ بدعت نکالی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نہ امیر المومنین نے مجھے کوئی حکم دیا نہ میں نے بدعت نکالی مگر اللہ و رسول ﷺ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم اپنے کاموں میں مصروف رہو اور ہم تمہارا انتظار کرتے رہیں۔

(مسند احمد کی شرح الفتح الربانی ج: 5، ص: 262-263)

امام عبدالرحمن البنا رضی اللہ عنہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

”ولید جیسا بھی تھا اس کے خیال میں اس کا نماز پڑھانے کا حق زیادہ بنتا تھا تو میں کہتا ہوں جس صحابی رضی اللہ عنہ نے (عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ) خدا و رسول ﷺ کی محبت میں کلمہ پڑھا۔ دین کا جھنڈا بلند کرنے کیلئے اسلام میں آیا، لوگوں میں حدیث پھیلانی، خدا کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ صحابی جس نے فتح مکہ کے بعد قتل کے ڈر سے کلمہ پڑھا۔ وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر کہو کہ ولید گورنر تھا لہذا اس کا حق زیادہ تھا تو یہ اس وقت تک

ہے جب تک نماز کو نقصان نہ پہنچے۔“

زکوٰۃ میں تبدیلی

اسلامی حکومت کی پہلی ذمہ داری نماز قائم کرنا ہے جیسا کہ سورہ حج: 41/22 میں فرمایا:

اور دوسرا فریضہ زکوٰۃ کا انتظام کرنا ہے یعنی خدا اور مخلوق خدا دونوں کا خیال

ہر وقت ہر مسلمان کو رہے۔

اسی آیت میں مزید فرمایا:

”نیک کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے منع کرنا بھی اسلامی حکومت کا

فریضہ ہے اور یہی چار کام اسلامی حکومت کی پہچان ہیں۔“

مروان کے عمل دخل کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں زکوٰۃ کا جو حال ہوا وہ بھی سننے کے لائق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حضور ﷺ کی لکھوائی ہوئی زکوٰۃ کے اموال و مصارف کی کتاب تھی۔ انہوں نے زکوٰۃ کے عاملوں کے بارے میں لوگوں کی شکایت سن کر اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ وہ کتاب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھجوائی اور کہا کہ ان سے کہو اس کے مطابق اپنے عاملین کو زکوٰۃ لینے کا حکم دیں اور زکوٰۃ کی شرح نہ بڑھائیں مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کتاب دیکھ کر لینے سے انکار کر دیا اور کہا ہم کو اس کی حاجت نہیں۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساری بات بتائی، انہوں نے کہا کتاب جہاں سے لی تھی وہیں رکھ دے۔ یہ حدیث بخاری کتاب الجہاد و السیر باب ما ذکر من إدع النبی ﷺ وعصاه و سیفہ وقد حہ وخاتمہ میں ہے۔

اس کی شرح میں امام ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری: 3112، ج: 6، ص: 213-215 پر

لکھتے ہیں:

”حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، کے پاس کچھ

لوگ بیٹھے تھے اور ایک آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا۔ محمد بن

حنفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا چپ رہ! لوگوں نے پوچھا کیا آپ کے والد علی رضی اللہ عنہ نے

کبھی حضرت عثمان کو گالی دی؟ انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کبھی گالی نہیں دی۔ ہاں اس دن گالی دینے کا حق بنتا تھا جس دن میں رسول کریم ﷺ کی املا کروائی ہوئی کتاب زکوٰۃ لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا اس کو پرے لے جاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی نہیں کہا مجھے ان مسائل کا علم ہے بلکہ صاف کہہ دیا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔“

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے طریقہ حکومت میں کوئی بات تو تھی کہ 600 آدمی ان پر غالب آ گئے جبکہ مدینہ مہاجر انصار صحابہ سے بھرا پڑا تھا اور جب وفات ہوئی تو صرف چار آدمی جنازہ لے کر گئے۔ پھر ان کو بقیع میں دفن کرنے میں بھی صحابہ مزاحم ہوئے۔ 600 آدمیوں کو تو صحابہ کپڑے سے مار سکتے تھے۔ عبداللہ بن سبا کا بہانہ صرف افسانہ ہے۔ مہاجر و انصار صحابہ انکی پالیسیوں سے ناراض تھے۔

فتح الباری ج: 2، ص: 137-138، پر بخاری کی حدیث 650 سے ظاہر ہوتا ہے کہ

اس دور میں سوائے نماز کے باقی دین کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا تھا۔

مناسک حج میں تبدیلی

ابراہیم نخعی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں:

”میں نے عبدالرحمن بن یزید سے سنا وہ کہتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہم کو منیٰ میں چار رکعتیں پڑھائیں۔ لوگوں نے یہ حال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کیا انہوں نے انا للہ پڑھا اور کہا میں نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ منیٰ میں دو رکعتیں پڑھیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی دو رکعتیں پڑھیں، اور عمر بن خطاب کے ساتھ بھی دو رکعتیں پڑھیں۔ کاش (خلافت سنت) چار رکعتوں کی بجائے مجھے دو رکعتیں ملتیں جو قبول ہوتیں۔“

(بخاری ابواب تقصیر الصلاة باب الصلاة بمنى)

ابن نضرہ سے روایت ہے:

”عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مسافر کی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا انہوں نے کہا میں نے حج کیا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تو آپ ﷺ نے دو رکعتیں پڑھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا تو انہوں نے بھی دو رکعتیں پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا تو انہوں نے بھی دو رکعتیں پڑھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی عرصہ 8 سال تک دو رکعتیں پڑھیں۔“

(ترمذی ابواب السفر باب التقصیر فی السفر)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”رسول اللہ ﷺ نے منیٰ میں دو رکعتیں پڑھیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی دو رکعتیں پڑھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دو رکعتیں پڑھیں اور عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی شروع خلافت میں دو رکعتیں ہی پڑھیں۔“

(نسائی، کتاب تقصیر الصلاة فی السفر باب الصلاة بمنی)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں فوت ہوئے۔ مزدلفہ سے لوٹتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا لوگو (سنت) بھول گئے یا گمراہ ہو گئے ہو! میں نے اس جگہ ان کو لپیک کہتے خود سنا ہے جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی۔“

(نسائی کتاب الحج باب استحباب اذاعة الحاج التلبیه حتی یشرع فی رمی

جمرة العقبة يوم النحر)

آج تک علماء اس بات کا جواب تلاش نہیں کر سکے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منیٰ میں چار رکعت کیوں شروع کیں کیونکہ حضور ﷺ نے وہاں کبھی پوری نماز نہ پڑھی۔

عوام بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں (الناس علی دین ملوکھم) کا پورا نمونہ اس واقعہ میں ملاحظہ فرمائیں کہ ایک دفعہ دوران حج حضرت

عثمان رضی اللہ عنہ منیٰ میں بیمار ہو گئے۔ ان کی جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم چاہتے ہو تو میں تم کو رسول اللہ ﷺ کی نماز یعنی دو رکعت پڑھاؤں۔ لوگ کہنے لگے نہیں! ہم سوائے امیر المؤمنین کی نماز کے اور نماز نہیں پڑھنا چاہتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھانے سے انکار کر دیا اور واپس تشریف لے گئے۔

(المحلی ابن حزم ج 3، ص 380 مسئلہ نمبر 512)

یہاں عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک مسئلہ میں صفائی دینا بھی ضروری ہے۔ حدیث کی کتابوں میں عام طور پر یہ بات ملتی ہے کہ یہ دونوں حضرات حج تمتع سے منع کرتے تھے جبکہ اس کی اجازت قرآن مجید میں موجود ہے۔ بلکہ یہاں تک روایات موجود ہیں کہ یہ دونوں حضرات حج تمتع کرنے والے کو مارتے تھے مثلاً عمر رضی اللہ عنہ سے ابو قلابہ (عبداللہ زید بن عمرو یقال عامر بن نابل بن مالک بن عبید بن علقمہ بن سعد ابو قلابہ الجرمی) روایت کرتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں دو متعوں سے منع کرتا ہوں اور منع نہ ہونے پر مارتا ہوں، ایک متع النساء اور دوسرے اصحاب الحج (المحلی ابن حزم ج 7، ص 107، مسئلہ نمبر 833)

اہل سنت نے اس روایت کا صل کرنے کی بہت کوشش کی مگر نہ کر سکے۔ اس کا اصل حل یہ ہے کہ ابو قلابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے مگر اس کی ملاقات ان سے ثابت نہیں۔ لہذا اس کی روایات مرسل اور ناقابل قبول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حج تمتع منع کرنے کی روایت ابو قلابہ کرتا ہے جس کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا ایسی روایات مرسل اور ناقابل قبول ہیں۔

(تہذیب المعذیب ابن حجر ج 5، ص 224-226)

مندرجہ بالا روایت کے ساتھ اٹلی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کی حج تمتع یعنی حج و عمرہ کا لپیک پکارتے سنا تو اس کو مارا اور اس کا سر منڈا دیا۔ اس روایت میں ایک راوی عبدالعزیز بن عبیدہ مجہول ہے۔

(الجرح والتعديل ج 5، ص 398)

اس کا باپ مہمہ بن وہب مقبول ہے یعنی اس کے ساتھ کوئی اور راوی روایت کرے تو عہدہ کی روایت قبول کی جائے گی ورنہ نہیں۔

(الجرح والتعديل ج: 8، ص: 491، امام ابی محمد عبدالرحمن بن ابی حاتم محمد بن ادريس بن المنذر الرازی)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حج تمتع سے منع نہیں کیا تھا بلکہ کہا تھا کہ حج افراد بہتر ہے۔ یعنی ایک دفعہ حج کرے اور عمرہ کیلئے دوبارہ آئے۔ اب بھی ساری امت کا یہی خیال ہے۔ یہ وضاحت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شامی کے سوال کے جواب میں فرمائی۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ سالم کہتے ہیں:

”حج تمتع کے سلسلہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ وہی رخصت دیتے تھے جو اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے اور نبی ﷺ کی سنت سے ثابت ہے کچھ لوگ ان سے کہتے آپ کے والد تو اس سے منع کرتے تھے۔ آپ اپنے والد کی مخالفت کیوں کرتے ہیں۔ وہ انہیں جواب دیتے تمہاری بربادی ہو، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ بالقرض حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روکا تو اس میں خیر ان کے پیش نظر تھی کہ لوگ عمرہ الگ سے کریں۔ جب اللہ نے اسے حلال قرار دیا ہے اور نبی ﷺ نے اس پر عمل کیا ہے تو تم اس کو خود پر حرام کیوں کرتے ہو۔ کیا نبی ﷺ کی سنت کی پیروی بہتر ہے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا حرام ہے بلکہ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ عمرہ کا اتمام یہ ہے کہ تم حج کے مہینوں کے علاوہ کسی اور مہینے میں الگ سے عمرہ کیلئے آؤ۔“

(مسند احمد روایت 5700، قال الالبانی صحیح الاسناد)

امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ و عثمان رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ حج افراد افضل ہے، اور ان کی

نہی تحریمی نہیں بلکہ تنزیہی تھی۔“ (الفتح الربانی ج: 11، ص: 164)

حقیقت یہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے حج تمتع سے منع کیا وہ معاویہ ہیں۔

(الفتح الربانی ج: 11، ص: 158 از عبدالرحمن البناء المصری اور ترمذی کتاب الحج باب ما جاء في التمتع)

ناپسندیدہ اعمال

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

”ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ﷺ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے۔ اس میں سے گھی اور شہد نکل رہا ہے جسے لوگ اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں۔ کسی نے بہت لیا اور کسی نے کم، اتنے میں ایک رسی نمودار ہوئی جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ پہلے آپ ﷺ آئے اور اس رسی کو تھام کر اوپر چڑھ گئے۔ پھر ایک دوسرے شخص نے رسی تھامی، وہ بھی اوپر چڑھ گیا۔ پھر ایک تیسرے شخص نے رسی تھامی وہ بھی اوپر چڑھ گیا۔ پھر ایک چوتھے شخص نے رسی تھامی تو وہ ٹوٹ کر گر پڑی لیکن پھر جڑ گئی۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان یا رسول اللہ ﷺ! خدا کی قسم اس کی تعبیر مجھے کہنے دیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اچھا کہو، انہوں نے کہا بادل کا ٹکڑا تو دین اسلام ہے اور شہد اور گھی جو نکلتا ہے وہ قرآن اور اس کی شیرینی ہے، کوئی شخص قرآن زیادہ سیکھتا ہے اور کوئی کم۔ جو رسی آسمان سے زمین تک لٹکتی ہے وہ حق کا رستہ ہے جس پر آپ ہیں اور آپ اسی پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ اللہ آپ کو اٹھالے گا۔ پھر آپ کے بعد ایک شخص اس کو پکڑ لے گا اور وہ بھی مرنے تک اس پر قائم رہے گا، پھر ایک اور شخص سے ہے تو اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ پھر ایک اور شخص لے گا تو اس کا معاملہ کٹ

جائے گا اور پھر جڑ جائے گا اور وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا۔ یا رسول اللہ ﷺ! بتائیے میں نے صحیح تعبیر بتائی یا غلط کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا تو نے کچھ صحیح بتایا اور کچھ غلط۔ وہ کہنے لگے خدا کی قسم بتائیے میں نے کہاں غلطی کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا قسم مت کھا!

(بخاری کتاب التعلیہ باب من لم یرویا الاوّل عابر اذالم یصب) ترمذی ابواب الرویا باب ماجا فی رویا النبی ﷺ فی المیزان والدلو

علامہ وحید الزمان رحمہ اللہ اس حدیث کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

”اس خواب کی تفصیل بیان کرنے میں بڑے بڑے اندیشے تھے۔ اس لیے آپ ﷺ نے سکوت فرمانا مناسب سمجھا۔ دوسری روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ ﷺ کے چہرہ مبارک پر ناراضگی کے آثار پائے کیونکہ اس خواب سے آپ کو رنج ہوا۔

مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ نے ابوداؤد کی شرح عون المعبود ج: 4،

ص: 338-339، پر فتح الباری کے حوالہ سے لکھا:

”کہ رسد اس لیے ٹوٹا کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے کچھ ناپسندہ کام ہوئے جن سے امت ناراض ہوگئی اور قریب تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے نہ ملتے۔ ان کے جو کام غلط سمجھے گئے ان کی بنا پر رسد ٹوٹ گیا۔ وہ پہلے خلفاء کا راستہ چھوڑ بیٹھے۔ پھر رسد کا جڑنا اس لیے نصیب ہو گیا کہ ان پر مصائب آئے اور وہ شہید کر دیئے گئے۔“ (فتح الباری ج: 12، ص: 431-435، عون المعبود حوالہ مذکورہ)

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا تم کیوں (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ) سے بات نہیں کرتے اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم سمجھتے ہو میں ان سے بات نہیں کرتا؟ صرف یہ کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہتا جو قتل کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں۔

(بخاری کتاب الفتن التی تموج کالموج البحر۔ فتح الباری ج: 13، ص: 48، حدیث نمبر 7098)

امام ابن حجر ج: 13، ص: 52 پر لکھتے ہیں کہ امام کرمانی نے بخاری کی شرح میں لکھا ”یہ جو کہا کہ تم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بات کیوں نہیں کرتے تو یہ ان چیزوں کے بارے میں تھا جو لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ میں غلط سمجھیں یعنی رشتہ داروں کو حاکم مقرر کرنا اور دوسری مشہور باتیں اس میں شامل ہیں۔“

مصائب بھی ان دس چیزوں میں سے ہیں جو گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے وہ دس باتیں آیات و احادیث کی رو سے ایک جگہ پر جمع کر دی ہیں۔ (منہاج السنہ ج: 3، ص: 109-177 تا ص: 179، فتاویٰ ابن تیمیہ ج: 35، ص: 179 تا 186) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان مصائب کی وجہ سے اپنے ساتھیوں سے جا ملے۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی جلا وطنی

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مروی ہے: ”میں نے نبی ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے: ”زمین اور آسمان کے سائے تلے ابوذر رضی اللہ عنہ سے زیادہ سچا آدمی کوئی نہیں“ (مسند احمد روایت نمبر 6519، صحیح البانی)

یہ بن وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

”میں نے ربذہ (مدینہ کے قریب ایک جگہ) میں ابوذر رضی اللہ عنہ کو پایا میں نے ان سے پوچھا تم یہاں جنگل میں کیوں آ پڑے؟ انہوں نے کہا ہم ملک شام میں تھے (مجھ میں اور معاویہ میں جھگڑا ہو گیا) میں نے یہ آیت پڑھی جو لوگ سوتا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو (سورہ توبہ: 9/934) تو معاویہ نے کہا یہ آیت میرے حق میں نہیں بلکہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی

ہے۔ میں نے کہا یہ ہمارے اور اہل کتاب دونوں کے بارے میں ہے۔“
(بخاری کتاب التفسیر، تفسیر سورہ توبہ (براءت) باب والذین یکنزون الذهب والفضہ)

دوسری جگہ زید بن وہب رحمہ اللہ کہتے ہیں:

”میں ربذہ سے گزرا، وہاں مجھے ابوذر رضی اللہ عنہ ملے۔ میں نے کہا تم آپ اس جگہ کیوں رہنے لگے۔ انہوں نے کہا میں شام کے ملک میں تھا۔ وہاں مجھ میں اور معاویہ میں (سورہ توبہ: 34/9) ”جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں“ کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ معاویہ کہنے لگے یہ اہل کتاب کے بارے میں اتنی ہے۔ میں نے کہا یہ ہم مسلمانوں اور اہل کتاب کے بارے میں اتنی ہے۔ پھر مجھ میں اور امیر معاویہ میں اس بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر میری شکایت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھے لکھا تم مدینہ آؤ۔ میں مدینہ آیا تو اتنے بہت سے لوگ میرے پاس جمع ہونے لگے جیسے انہوں نے مجھے اس سے پہلے دیکھا ہی نہ ہو۔ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا تم چاہو تو الگ ایک گوشہ میں مدینہ سے قریب رہو۔ میں اس وجہ سے یہاں رہ رہا ہوں اور اب اگر مجھ پر جہشی سردار بھی ہو تو میں اس کی بات سنوں گا اور مانوں گا۔“

(بخاری کتاب الزکوٰۃ باب ما اُذی زکوٰۃ فلیس یکنز)

احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

”قریش کے لوگوں کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک شخص آیا جس کے بال سخت، کپڑے موٹے، شکل سادہ، وہ ان کے پاس آکھڑا ہوا اور سلام کیا پھر کہنے لگا جو لوگ مال جمع کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ ایک پتھر دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ اور ان کی چھاتی پر رکھ دیا

جائے گا اور ان کے کندھے والی ہڈی سے باہر جائے گا۔ ان کے کندھے والی ہڈی پر رکھا جائے گا تو چھاتی سے پار ہو جائے گا۔ اسی طرح پتھر ڈھلکتا رہے گا۔ یہ کہہ کر اس نے پیٹھ موڑی اور ایک ستون کے پاس جا بیٹھا میں اس کے پیچھے چلا اور اس کے پاس جا بیٹھا مجھے معلوم نہ تھا وہ شخص کون ہے؟ میں نے اس سے کہا میرا خیال ہے تمہاری اس بات سے لوگ ناراض ہوئے ہیں۔ اس نے کہا وہ تو بے وقوف لوگ ہیں مجھ سے میرے خلیل علیہ السلام نے کہا۔ میں نے پوچھا کون خلیل؟ کہانی علیہ السلام اور کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوذر رضی اللہ عنہ! کیا تو اُحد پہاڑ دیکھتا ہے؟ یہ سن کر میں نے سورج کی طرف دیکھا کہ دن کتنا باقی ہے۔ میں سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام سے بھیجنا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کی جی ہاں! فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس اُحد پہاڑ کے برابر بھی سونا اگر ہو تو میں سب اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالوں صرف تین اشرفیاں رکھ لوں۔ یہ لوگ تو بے وقوف لوگ ہیں دنیا کا مال اکٹھا کرتے ہیں اور میں تو خدا کی قسم نہ ان سے دنیا کا سوال کرں گا نہ دین کی بات پوچھوں گا یہاں تک کہ اللہ سے مل جاؤں۔

(بخاری کتاب الزکوٰۃ باب ایضا و مسلم کتاب الزکوٰۃ باب تغلیظ عقوبۃ من

لا یودی الزکوٰۃ)

جب عراق و شام فتح ہوئے، زر خیز علاقے ہاتھ آئے، وہاں لوگوں کا معیار زندگی دیکھا تو صحابہ نے بھی اعلیٰ عمارتیں بنانا شروع کر دیں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ یہ صورت حال برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب مدینہ سلطع پہاڑ تک وسیع ہو جائے تو تم شہر چھوڑ دینا۔ یہاں دین بہت تھوڑا رہ جائے گا۔ وہ شام چلے گئے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ شام میں دیکھا کہ حاکم مملات میں رہتا ہے۔ وہاں انہوں نے اعتراض کیا کہ حاکم سونا چاندی جمع کر رہا ہے اور غریب بھوکے مر رہے ہیں۔ اس پر حاکم (امیر

معاویہ) نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شکایت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ تم حکومت کے خلاف پراپیگنڈہ کرتے ہو۔ معاویہ نے مجھے لکھا ہے اگر شام چاہتے تو ابوذر رضی اللہ عنہ کو واپس بلائیں، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا میں حکومت کے خلاف نہیں ہوں بلکہ سونے چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرنے کے خلاف ہوں۔ حضور ﷺ نے مجھے فرمایا تھا اگر اُحد پہاڑ بھی سونے کا ہو تو شام سے پہلے خیرات کر دینا۔ پھر ان سے کہا گیا مدینہ چھوڑ دیں۔ ان کو ربذہ کے علاقہ میں جلا وطن کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جاگیریں دیں جن میں سے اشرافیہ پیدا ہو گئے۔ اس پر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا۔

(مسلم کی شرح اکمال اکمال المعلم ج: 1، ص 134 علامہ ابی مالکی)

خاندان نوازی

رسول کریم ﷺ نے اپنے پورے عہد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوانحی ہاشم میں سے کسی کو کوئی عہدہ نہ دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے قبیلہ اور خاندان کے کسی شخص کو سرے سے کسی منصب پر مامور نہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دس سالہ دور خلافت میں بنی عدی کے صرف ایک شخص کو ایک چھوٹے سے عہدے پر مقرر کیا اور بہت جلد سبک دوش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خوف تھا کہ اگر یہ پالیسی بدل دی گئی جو سخت فتنے کا باعث ہوگی۔ اس لیے انہوں نے اپنے تینوں متوقع چانشینوں کو بلا کر ہر ایک سے کہا اگر میرے بعد تم خلیفہ ہو تو اپنے قبیلے کے لوگوں کو عوام کی گردنوں پر مسلط نہ کر دینا۔

(طبری ج: 3 ص: 264 طبقات ابن سعد ج: 3 ص: 340-344)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شوری کو بھی یہ ہدایت کی تھی کہ منتخب خلیفہ اپنے قبیلے کے ساتھ امتیازی برتاؤ نہ کرے۔

(فتح الباری ج: 7 ص: 49-50)

مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رفتہ رفتہ اس پالیسی سے ہٹتے چلے گئے۔ انہوں نے

بنو امیہ کو کثرت سے بڑے بڑے عہدے دیے اور بیت المال سے عطیے دیئے اور دوسرے قبیلے اسے تنگی کے ساتھ محسوس کرنے لگے۔

(طبقات ابن سعد ج: 3 ص: 64 ج: 5 ص: 36)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ صلہ رحمی کا تقاضا تھا۔ (طبری ج: 3 ص: 291) مثال کے طور پر انہوں نے افریقہ کے مال غنیمت کا پورا فیس (5 لاکھ دینار) مروان بن حکم کو بخش دیا۔

(امام ابن اثیر الکامل فی التاریخ ج: 3 ص: 46) (طبقات ابن سعد ج: 3 ص: 64)

مولانا شبلی رحیم لکھتے ہیں:

”یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال کے بارہ میں کفایت شعاری برتی وہ خلافت فاروقی کی کامیابی کا بہت بڑا سبب تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں لوگوں نے اخیر میں جو شورشیں کیں اس کی بڑی وجہ یہ ہوئی کہ جناب موصوف نے بیت المال کے متعلق یا فیا ضانہ برتاؤ کیا یعنی اپنے عزیز و اقارب کو ذوالقربیٰ کی بنا پر بڑی بڑی رقمیں عطا کیں۔“

(الفاروق ص: 295)

شیخ الشیخ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ ”خدام الدین“ میں لکھتے ہیں:

”زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 12 سال خلافت کی۔ چھ سال تک کسی کو کوئی شکایت آپ سے پیدا نہ ہوئی بلکہ آپ کو قریش حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نسبت بھی اچھا سمجھتے تھے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں شدت زیادہ تھی لیکن پھر آپ نے بہت نرمی برتی اور اپنے اعزہ و اقربا کو عامل بنانا شروع کیا اور مروان کو ملک افریقہ کا فیس معاف کر دیا اور اپنے اقربا کو بہت سا سامان دے ڈالا اور اس کی تاویل میں فرمایا کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کیا مگر میں حکم خدا کے موافق صلہ رحم کرتا ہوں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں آپ کے خلاف شورش پیدا ہو گئی۔“

(بحوالہ ابن سعد رسالہ خدام الدین لاہور 19 جولائی 1957ء)

”عثمان رضی اللہ عنہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی انتظامی قابلیت نہ تھی اور انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو ایک پائی تک نہ دی نہ کوئی عہدہ دیا حالانکہ بنی عدی میں بڑے قابل لوگ تھے مگر عثمان رضی اللہ عنہ میں ان جیسا زہد نہ تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو نفاذ نے کا جو اجتہاد کیا وہ غلط اجتہاد تھا۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو جو کچھ دیا وہ دوسروں کو نہ دیا۔ (منہاج السنہ ج 4: ص 204)

امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں:

”سرکاری مال رشتہ داروں کو دینا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا رشتہ داروں سے نیک سلوک نہیں تھا۔“ (فتاویٰ ابن تیمیہ ج 35: ص 23)

امام ابن حجر ”الاصابہ“ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے افریقہ سے آنے والا پانچ لاکھ دینار کا خنس مروان کو دے دیا۔ (الاصابہ ج 4: ص 223-224)

جمہور کی دوسری اذان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شروع کرائی۔

(نسائی کتاب الجمعہ باب الاذان للجمعہ)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گورنر

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں فرمایا کعبہ کے رب کی قسم! یہ گورنر تباہ ہو جائیں۔ انہوں نے دین برباد کر دیا ہے۔ (نسائی)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی پالیسی چھوڑ کر اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے دیئے اور ان کے ساتھ دوسری ایسی رعایات کیں جو عام طور پر لوگوں میں ہدف تنقید بن کر رہیں۔ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے کوفہ کا گورنر اپنے ماں جائے بھائی ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو مقرر کیا اور اس کے بعد یہ منصب اپنے ایک اور عزیز سعید بن عاص کو دیا۔ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے اپنے

ماموں زاد بھائی عبداللہ بن عامر کو بصرے کا گورنر مقرر کیا۔ عمرو بن عاص کو ہٹا کر اپنے رضاع بھائی عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو مقرر کیا۔ امیر معاویہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں صرف دمشق کے گورنر تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو دمشق کے ساتھ ساتھ حمص، فلسطین، اردن اور لبنان کا پورا علاقہ بھی دے دیا۔ (امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ ج 8: ص 124)

پھر اپنے چچا زاد بھائی مردان بن الحکم کو چیف بیکری بنادیا۔ جس کی وجہ سے سلطنت کے تمام معاملات میں اس کا اثر قائم ہو گیا۔ اس طرح عملاً ایک ہی خاندان کے ہاتھ میں سارے اختیارات جمع ہو گئے۔

ان باتوں کا رد عمل صرف عوام پر ہی نہیں اکابر صحابہ تک پر اچھا نہ تھا اور نہ ہو سکتا تھا۔ مثال کے طور پر جب ولید بن عقبہ کوفہ کی گورنری کا پروانہ لے کر حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا: ”معلوم نہیں ہمارے بعد تو زیادہ دانا ہو گیا ہے یا ہم تیرے بعد احمق ہو گئے۔“

ولید بن عقبہ نے جواب دیا: ”ابو اسحاق ناراض نہ ہو، یہ تو بادشاہی ہے، صبح کوئی اس کے مزے لوٹتا ہے اور شام کو کوئی اور۔“

حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا: ”میں سمجھتا ہوں واقعی تم لوگ اسے بادشاہی بنا کر چھوڑ و گئے۔“ تقریباً اسی طرح کے خیالات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تھے۔

(امام ابن عبدالبر الاستیعاب ج 2: ص 604)

ستم بالائے ستم یہ کہ ایسے لوگ تقریباً سب کے سب طلقاء تھے جن کو فتح مکہ کے دن معافی ملی تھی۔ ان گورنر حضرات میں سے چند کا تعارف پیش خدمت ہے جبکہ امیر معاویہ کے بارے میں علیحدہ باب میں بات ہوگی۔

ولید بن عقبہ بن ابی معیط

یہ شخص فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا۔ اس کا باپ عقبہ بن ابی معیط چوٹی کے دشمنان اسلام میں سے تھا اور جنگ بدر کے موقع پر قتل ہوا۔ مسلمانوں ہونے کے بعد اس کو

حضور ﷺ نے بنی مطلق قبیلہ سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے بھجوایا۔ یہ راستے سے واپس آ گیا اور جھوٹ بولا کہ قبیلہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے بلکہ مجھ کو بھی قتل کرنے لگے تھے۔ حضور ﷺ اس قبیلہ پر بہت ناراض ہوئے اور لشکر کشی کا حکم دے دیا۔ اس قبیلہ کی خوش قسمتی کہ ان کا سردار حارث اپنے ساتھ چند آدمیوں کو لے کر حضور ﷺ کی ملاقات کیلئے چل پڑا کہ اتنے دن گزر گئے کوئی زکوٰۃ لینے کیلئے کیوں نہیں آیا۔ راستے میں لشکر سے ملاقات ہوئی۔ معاملے کا پتہ چلا تو حارث نے کہا خدا گواہ ہے، ہم نے تو ولید بن عقبہ کی شکل تک نہیں دیکھی۔

اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات: 49-6-7 نازل فرمائیں میں ہدایت کی گئی کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کے کہنے پر کسی قوم پر حملہ کر دو اور بعد میں پچھتانا پڑے۔ اس طرح ولید بن عقبہ نص قرآن سے فاسق ہے۔

(امام البانی سلسلہ الاحادیث الصحیحہ ج: 7، جزء نمبر 1 حدیث نمبر 3088، ص 230 تا 235، تفسیر ابن کثیر زیر آیت نمبر 6، مسند احمد، حدیث نمبر 18650، امام ابن عبد البر رحمہ اللہ، الاستیعاب ج: 2، ص: 603، امام ابن تیمیہ منہاج السنہ ج: 3، ص: 176)

اس ولید بن عقبہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی جگہ کو فہ کا گورنر مقرر کر دیا۔

(سیر اعلام النبلاء امام ذہبی ج: 3، ص: 415)

جب یہ کو فہ کا گورنر بنا تو بعد میں یہ راز فاش ہوا کہ وہ شراب پیتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے فجر کی نماز چار رکعت پڑھائی پھر پلٹ کر لوگوں سے پوچھا ”اور پڑھاؤں“ یعنی شرابی بھی اور بوقت فجر!

(البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر ج: 7، ص: 155، الاستیعاب امام ابن عبد البر ج: 2، ص: 604، آپ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ مشہور من روایۃ الثقات من نقل اہل الحديث والاخبار)

اس واقعہ کی شکایات مدینہ تک پہنچیں اور لوگوں میں اس کا عام چرچا ہونے لگا۔

بخاری کتاب المناقب باب ہجرۃ الحبشہ میں عروہ بن زہر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے عبید اللہ بن عدی بن خیار (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بھانجے) نے خبر دی کہ مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث، دونوں نے انہیں کہا تم اپنے ماموں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کے بھائی ولید بن عقبہ کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتے؟ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ولید بن عقبہ کے ساتھ نرم سلوک کیا تھا لوگوں کو اس پر بہت اعتراض تھے۔ عبید اللہ کہتے ہیں میں راستے میں کھڑا تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نماز کیلئے نکلے میں نے کہا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے اور اس بات میں آپ کی خیر خواہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اے شخص میں تجھ سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں (اس طرح بات سننے سے انکار کر دیا) یہ سن کر میں واپس ان دونوں کے پاس آ گیا۔ اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بلانے والا آ گیا۔ میں گیا تو انہوں نے پوچھا وہ خیر خواہی کی بات کیا ہے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو سچا نبی بنا کر بھیجا اور ان پر کتاب نازل کی، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اللہ و رسول ﷺ کا کہا مانا اور آپ نے دو ہجرتیں کیں۔ اور رسول اللہ ﷺ کی صحبت میں رہے اور آپ ﷺ کے طریقہ کو دیکھا۔ بات یہ ہے کہ لوگ ولید بن عقبہ کی بہت شکایت کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا (عبید اللہ) کیا تم نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں مگر آپ ﷺ کی شریعت کی باتیں مجھ کو بھی پہنچیں جو ایک کنواری عورت کو پردے میں پہنچیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو سچا نبی بنا کر بھیجا۔ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اللہ و رسول ﷺ کا کہا مانا اور اس پر ایمان لایا جو وہ لے کر آئے اور میں نے دو ہجرتیں کیں۔ جیسے کہ تو کہتا ہے میں رسول اللہ ﷺ کی صحبت میں رہا۔ آپ ﷺ سے بیعت کی پھر خدا کی قسم میں نے نہ آپ ﷺ کی نافرمانی کی نہ دعا بازی کی یہاں تک کہ اللہ نے آپ ﷺ کو اٹھالیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی میری صحبت ایسی ہی رہی، پھر عمر رضی اللہ عنہ سے بھی میری صحبت ایسی ہی رہی۔ پھر میں خلیفہ ہو گیا۔ کیا ان کا جو حق (اطاعت) مسلمانوں پر تھا، میرا بھی حق وہی بنتا ہے؟ میں نے کہا ہاں! انہوں نے کہا پھر یہ کیا باتیں ہیں جو تمہاری طرف

سے مجھ کو پہنچائی جا رہی ہیں۔ البتہ ولید کی حرکتوں کی جو تو نے شکایت کی ہے اس کی واجب سزا ہم اسے دیں گے ان شاء اللہ!

پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا ولید کو کوڑے لگائے پھر 40 کوڑے لگائے گئے۔ (امام ابن حجر فتح الباری ج: 7، ص: 53، حدیث نمبر

3696، بخاری کتاب المناقب باب مناقب عثمان رضی اللہ عنہ)

اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرنے والے افسانوی سہائی نہیں بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم تھے۔ امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ لوگ جس وجہ سے ولید کے معاملہ میں کثرت سے اعتراضات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس پر حد قائم نہیں کرتے تھے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ سعد بن ابی وقاص کو معزول کر کے ان کی جگہ ولید کو مقرر کرنا لوگوں کو ناپسند تھا کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ اور اہل شوریٰ میں سے تھے اور ان کے اندر علم و فضل اور دینداری اور سبقت الی الاسلام کی وہ صفات مجتمع تھیں جن میں سے کوئی چیز بھی ولید بن عقبہ میں نہ تھی۔ (فتح الباری کتاب المناقب، مناقب عثمان رضی اللہ عنہ)

علامہ بدرالدین عینی رضی اللہ عنہ نے بھی ”عمدة القاری“ کتاب مناقب عثمان رضی اللہ عنہ میں ایسا ہی لکھا۔

مسلم کتاب الحدود باب حد الخمر کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مسلم کی یہ حدیث امام مالک اور ان کے ہم خیال فقہاء کے اس مسلک کی دلیل ہے کہ جو شخص شراب کی قے کرے اس پر شراب نوشی کی حد جاری کی جائے گی۔ امام مالک کی دلیل اس معاملہ میں بہت مضبوط ہے کیونکہ صحابہ نے بالاتفاق ولید بن عقبہ کو کوڑے لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔

(مسلم مع شرح نووی ج: 2، ص: 72، کتاب الحدود باب حد الخمر)

امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں:

”مسلم کی روایت کے مطابق جب ایک گواہ نے یہ شہادت دی کہ اس نے ولید کو شراب کی قے کرتے دیکھا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا وہ شراب

پئے بغیر اس کی قے کیسے کر سکتا ہے۔ اس بنا پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حد جاری کرنے کا حکم دیا اور یہ فیصلہ چونکہ علماء صحابہ رضی اللہ عنہم اور اکابر صحابہ کی موجودگی میں ہوا تھا اس لیے اس پر اجماع ہے۔“

(المعنی والشرح الكبير ج: 10، ص: 332)

مسلم کی روایت کے ایک راوی عبد اللہ الداناج رضی اللہ عنہ کی بنا پر امام طحاوی رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو کمزور قرار دیا جبکہ امام ابن حجر نے امام بیہقی، امام ترمذی اور امام بخاری کے حوالہ سے اسے قوی قرار دیا ہے۔ امام ابن عبد البر نے کہا کہ اس راوی کو ابو زرعہ اور نسائی نے ثقہ قرار دیا۔ (فتح الباری کتاب الحدود باب الصنوب بالجريد والنعال)

امام ابن حجر رضی اللہ عنہ نے تہذیب التہذیب ج: 11، ص: 143-144 پر بھی ولید بن عقبہ کے شراب پینے کی تصریح کی ہے۔

ابو ساسان حصین بن منذر نے کہا کہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا۔ ولید بن عقبہ کو لایا گیا۔ اس نے صبح کی نماز کی 4 رکعتیں پڑھی تھیں اور کہا اور پڑھاؤں، تو دو آدمیوں نے ولید پر گواہی دی۔ ایک تو حمران نے کہا کہ ولید نے شراب پی ہے اور دوسرے نے گواہی دی کہ ولید میرے سامنے شراب کی قے کر رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اگر اس نے شراب نہ پی ہوتی تو شراب کی قے کیوں کرتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا اٹھیں اور اس کو کوڑے ماریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے حسن اٹھو اور اس کو کوڑے مارو۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا جس نے ٹھنڈا چکھا ہے وہی گرم بھی چکھے۔ حسن رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ سے ناراض تھے اور فرمایا اے عبد اللہ بن جعفر اٹھو اور اسے کوڑے مارو، وہ اٹھے اور کوڑے لگائے اور علی رضی اللہ عنہ گنتے جاتے تھے۔ جب چالیس کوڑے ہو گئے تو فرمایا رک جا! پھر فرمایا نبی ﷺ نے 40 کوڑے مارے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی چالیس اور عمر نے 80 کوڑے لگائے، یہ تمام سنت ہیں اور مجھے چالیس پسند ہیں۔ (مسلم کتاب الحدود باب حد خمر)

عبداللہ بن سعد بن ابی سرح

یہ شخص کاتب وحی تھا۔ یہ مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا تھا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا رضاعی بھائی تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کے بارے میں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اگر کعبہ کے پردوں سے ہنسی لپٹے ہوئے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے، یہ ان میں سے ایک تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسے لے کر اچانک حضور ﷺ کے پاس پیش ہو گئے اور آپ ﷺ نے محض ان کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا تھا۔ لوگوں کو یہ بات پسند نہ آ سکی تھی کہ اولین مسلمان پیچھے ہٹا دیئے جائیں اور اس جیسے لوگ امت کے حاکم بن جائیں۔ جب یہ شخص مرتد ہو کر مکہ واپس چلا گیا تو اس نے اپنے کاتب وحی ہونے کا حوالہ دیکر نبوت اور قرآن کے متعلق بہت غلط فہمیاں پھیلائیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے قتل کا حکم دیا گیا، اس کے مرتد ہونے اور بعد میں معافی کا واقعہ (ابوداؤد باب الحکم فی من ارتد، نسائی باب الحکم فی المرتد، مستدرک حاکم کتاب المغازی، طبقات ابن سعد ج: 2، ص: 136-141، سیرت ابن ہشام، امام ابن عبدالبر الاستیعاب ج: 1، ص: 381 اور امام ابن حجر مکی الاصابہ ج: 2، ص: 309) میں بیان ہوا ہے۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”جس دن مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے سب لوگوں کو امن دیا مگر چار مردوں اور دو عورتوں کو نہیں دیا۔ ان کے متعلق فرمایا کہ وہ جہاں ملیں ان کو قتل کر دو اگر چہ کعبہ کے پردوں کے سے لٹکے ہوئے ہو۔ وہ چار مرد یہ تھے۔ عکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن اخطل، مقیس بن صباہ اور عبداللہ بن ابی سرح۔ عبداللہ بن اخطل کعبہ کے پردوں سے لٹکا ہوا تھا۔ اس کو قتل کرنے کے لئے دو آدمی لپکے ایک سعید بن حرث رضی اللہ عنہ اور دوسرے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ،

لیکن سعید جوان تھے عمار سے، انہوں نے اس کو آگے بڑھ کر قتل کر دیا اور مقیس بن صباہ بازار میں ملا، لوگوں نے اس کو مار ڈالا۔ اور عکرمہ بن ابی جہل سمندر میں سوار ہو گیا وہاں طوفان میں پھنسا۔ کشتی والوں نے کہا اب خدا سے خالص کر کے دعا کرو یقیناً تمہارے الہ (بت وغیرہ) یہاں کچھ نہیں کر سکتے۔ عکرمہ نے کہا اللہ کی قسم اگر دریا میں اس کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا تو خشکی میں بھی کوئی اس کے سوا نہیں بچا سکتا۔ اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اگر اس مصیبت سے تو مجھے بچالے تو میں حضرت محمد ﷺ کے پاس جاؤں گا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھوں گا یعنی بیعت کر لوں گا اور میں ضرور ان کو اپنے لیے معاف کرنے والا مہربان (عفو کریم) پاؤں گا۔ پھر وہ آیا اور مسلمان ہو گیا۔ اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس چھپ گیا۔ جب رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو بیعت کیلئے بلایا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو لا کر پیش کر دیا اور کہا: ”یا رسول اللہ ﷺ عبداللہ سے بیعت قبول فرمائیں، آپ ﷺ نے اپنا سراٹھایا اور تین بار عبداللہ کی طرف دیکھا اور تین بار کے بعد اس سے بیعت لے لی۔ اس کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم میں ایک بھی سمجھدار نہ تھا جب دیکھا کہ میں اس سے بیعت نہیں لے رہا تو اٹھ کھڑا ہوتا۔

انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم کو آپ کے دل کی بات کیسے معلوم ہوتی۔ آپ آٹھ سے اشارہ فرمادیتے۔ آپ ﷺ نے فرمایا نبی کا یہ کام نہیں کہ وہ آنکھوں سے اشارے کرے۔“

(نسائی کتاب المعاریہ باب الحکم فی المرتد، حدیث: 4073)

اس باب میں نسائی کی حدیث نمبر 4075 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ نمل: 16/110 اس عبداللہ کے حق میں اتاری۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کے کاتب

وحی ہونے اور مرتد ہو کر دوبارہ مسلمان ہونے کا ذکر کیا۔

اسی عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عمرو بن العاص فاتح مصر کی جگہ مصر کا گورنر مقرر کر دیا۔ (سیر اعلام النبلاء امام ذہبی، ج: 3، ص: 415)

مشہور دیوبندی عالم حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ زہری کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا حال پوچھا۔ آپ نے فرمایا قصہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت سب صحابہ کونا گوار ہوئی کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ آپ اپنے اعزہ و اقربا کی بہت رعایت کرتے ہیں۔ آپ بارہ برس خلیفہ رہے۔ اس وقت اس قسم کے کئی عامل بنو امیہ میں سے ایسے تھے جو صحابی نہ تھے اور جن کو اصحاب رسول اچھا نہ جانتے تھے۔ مگر آپ چھ سال لگا تار ان صحابہ کی تالیف قلوب کرتے رہے جو آپ کے خلاف تھے اور ان کو معزول نہ کیا۔ لیکن بعد والے چھ سالوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے چچا کی اولاد پر مہربان ہوئے اور ان کو ان کے ہم خیال لوگوں کے ساتھ گورنر مقرر کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی سرح کو مصر کا حاکم مقرر کیا۔ اس کو وہاں دو ہی برس ہوئے تھے کہ اہل مصر ان کے ظلم کی شکایت کرنے کیلئے دار الخلافہ آئے۔ اس سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے معاملات میں بنو ہذیل، بنو جرہہ کے دلوں میں اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے معاملہ کی نسبت بنو غفار اور اس کے اخلاف کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے شکایت پیدا ہو چکی تھی۔ اہل مصر کی شکایت نے اور بھی بارود کا کام کیا، جس نے ابی ذر رضی اللہ عنہ کے دل میں بہت رنجش ڈال دی اور بنو مخزوم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے آپ سے بہت شہناک ہوئے۔ اہل مصر ابن ابی سرح کے ظلم سے ڈرتے ہوئے پھر آپ کے پاس آئے۔ پس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن ابی سرح کو تہدید کی نامہ لکھا، مگر اس نے کچھ پرواہ نہ کی اور ممنوعہ امور کی تعمیل سے انکار کیا اور جو لوگ دار الخلافہ شکایتیں کرنے آئے تھے، ان کو مارا پیٹا اور بعض کو قتل کر دیا۔ یہ حالت دیکھ کر مصر کے سات سو آدمی دار الخلافہ آئے اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے عبداللہ بن سرح کی شکایتیں کیں اور خاص کر یہ کہ

اس نے اوقات نماز میں تہدیلیاں کر دی ہیں۔

(خطبہ جمعہ از مولانا احمد علی لاہوری خدام الدین مورخہ 19 جولائی 1957)

عبداللہ بن عامر

یہ شخص بھی گورنر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھانجا تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو اس نے بیت المال (سرکاری خزانہ) لوٹا اور یہ بھی مکہ پہنچ گیا۔

یعلیٰ بن امیہ

یہ شخص یمن کا گورنر تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو اس نے یمن کا پورا بیت المال لوٹا اور یہ بھی مکہ پہنچ گیا۔

جو لوگ اسلامی حکومت پر قبضہ کرنے کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی منظم ہو چکے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ان کا علم ہو چکا تھا جیسا کہ تفصیلاً پیچھے گزر چکا، ان کیلئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور بہت زرخیز ثابت ہوا۔ ان لوگوں کے ناموں کو بہت چھپایا گیا مگر شرح مسلم از علامہ ابی مالکی سے اس گروہ کا معلوم ہوا کہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بعد میں اسلامی حکومت پر قبضہ کر لیا۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ امیر معاویہ شام میں پہلے سے تھے، ولید بن عقبہ کوفہ میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ماموں کا بیٹا عبداللہ بن عامر خراسان میں سعید بن العاص بصرہ، یعلیٰ بن امیہ یمن میں گورنر بن گئے۔ مصر میں عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو گورنر مقرر کر دیا۔

ان جیسے لوگوں کے گورنر بننے سے امت میں غم و غصہ پھیل گیا۔ جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا، وہ صحابہ تھے۔ ان میں بیعت رضوان والے بھی شامل تھے، ان کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ ایسے گورنروں کو ہٹا کر پہلے والے گورنر لگائے جائیں۔ اس کے سوا ان کا کوئی مطالبہ نہ تھا ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آدمیوں میں سے ایک نے محاصرین میں سے ایک کو تیرا مارا، انہوں نے قاتل حوالے کرنے کا مطالبہ کیا جو رد کر دیا گیا۔ محاصرین نے گھر میں گھس کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔

ان گورنر حضرات کو قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ کی فکر نہ تھی بلکہ خود اپنی فکر تھی کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکومت مستحکم ہوگئی تو یہ گورنر کبھرے میں ہوں گے کیوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ذمہ داران کے مقرر کردہ گورنر تھے جن کے کر تو توں کا خلیا زہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھگتنا پڑا۔

لہذا ان تمام گورنروں نے گٹھ جوڑ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، تاکہ اپنی جان بچا سکیں۔ انہوں نے سرکاری خزانہ لوٹ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی سازش کی تاکہ یہ دونوں فریق آپس میں لڑ کر کمزور ہو جائیں اور اصل ذمہ دار سزا سے بچ جائیں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا سبب

امام ابن حجر رحمہ اللہ اپنی ”کتاب الاصابہ فی معرفۃ الصحابہ“ کی ج 4، ص 223-224، نمبر شمار 5440 پر لکھتے ہیں:

”حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا سبب رشتہ داروں کو صوبوں کا گورنر بنانا تھا۔

شام میں امیر معاویہ بصرہ میں سعید بن العاص، مصر میں عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، خراسان میں عبداللہ بن عامر گورنر تھے۔ جب لوگ حج کیلئے آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو گورنروں کے خلاف شکایات پیش کرتے مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت نرم طبیعت، بہت احسان کرنے والے اور بہت درگزر کرنے والے تھے۔ بعض دفعہ شکایات سن کر گورنر بدل دیتے مگر بعد میں پھر انہی کو گورنر لگا دیتے۔ آخری دنوں میں مصری وفد کے مطالبہ پر عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو ہٹا کر محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا۔ وفد خوش ہو کر واپس چلا گیا۔ راستے میں انہوں نے ایک اونٹنی سوار کو بچ کر نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کو پکڑا اور پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا غلام ہوں اور اونٹنی بھی ان کی ہے۔ اس آدمی سے ایک خط پکڑا گیا جس میں لکھا تھا

اے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح اس قافلہ کے جتنے سر کردہ ہیں، ان کو قتل کر دو، ہاتھوں کو سزا دو اور حکومت مت چھوڑنا۔ وفد وہ خط لے کر مدینہ آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خط دیا تو انہوں نے قسم کھا کر انکار کیا اور کہا نہ ہی میں یہ خط لکھنا اس کی اجازت دی۔ وفد نے کہا کاتب ہمارے حوالے کریں، کاتب مروان تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے قتل کے ڈر سے اسے حوالے نہ کیا، پھر وفد نے ناراض ہو کر مکان گھیر لیا۔“

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت کی رٹ (عملداری) پہلی بار اس وقت ختم ہوئی جب کوفہ کے لوگوں نے نئے گورنر سعید بن العاص کو ماننے سے انکار کر دیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب سعد بن ابی وقاص کو ہٹا کر سعید بن العاص کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو کوفہ میں اس کا کردار ٹھیک نہ تھا۔ اس نے لوگوں سے اچھا سلوک نہ کیا اور لوگوں نے اس کو پسند نہ کیا۔ حضرت مالک بن اشتر رحمہ اللہ نے (جو حفرم تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں انہوں نے بہت فتوحات کیں) مدینہ آ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور سعید بن العاص کے کر تو ت بتا کر اس کو ہٹانے کا عوامی مطالبہ پیش کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نہ صرف ان کا مطالبہ رد کر دیا بلکہ سعید بن العاص کو بطور گورنر ان کے ساتھ ہی کوفہ بھجوا دیا۔ مالک اشتر نے سواری تیز کر دی اور سعید سے پہلے کوفہ پہنچ گئے۔ انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا اور بتایا کہ ہمارا مطالبہ نہیں مانا گیا لہذا میں تمہیں ترغیب دیتا ہوں کہ سعید بن العاص کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اس کو شہر میں داخل نہ ہونے دیکھا۔ وہ لوگوں کو ساتھ لے کر کوفہ سے باہر آ گئے اور گورنر کو شہر سے دور روک کر شہر میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ وہ واپس مدینہ آ گیا۔

پھر مالک اشتر رحمہ اللہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو نماز کا امام اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو خزانہ کا انچارج مقرر کیا۔ سارے کوفہ نے ان کے اس اقدام کی تائید کی۔ پھر مالک اشتر نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نئے انتظام

کی اطلاع دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بظاہر اس پر خوشی کا اظہار کیا مگر اندر سے سمجھ گئے کہ میری حکومت کی رٹ ختم ہو چکی۔ یہ پہلی کمزوری تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت کو لاحق ہوئی۔

(البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 60)

یہ بات بالکل افسانہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میرا دفاع نہ کرنا۔ وہ ایسی غلط بات نہیں کہہ سکتے تھے۔ ذوالحج کے مہینے میں مدینہ الرسول میں، خلیفہ کا قتل معمولی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روک دو۔ اصل بات یہ ہے کہ انصار و مہاجرین نے حضرت عثمان کے رویہ کی وجہ سے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تو گورنروں کو، امیر معاویہ سمیت مدد کے لئے خط لکھے مگر کسی گورنر نے ان کی مدد نہ کی۔

(تاریخ ابن جریر طبری، ج: 3، ص: 387-388)

ایک دن امیر معاویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا تم ہاشمی مدینہ میں موجود تھے اور تم نے محاصرہ کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مدد نہ کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اللہ سے ڈر! جس کو سب لوگوں سے زیادہ عثمان رضی اللہ عنہ کی موت پسند تھی وہ تم تھے تاکہ تم ان کو مظلوم بنا کر خود کو بچانے کا سامان کر سکو۔

(ابن عساکر، تاریخ دمشق، ج: 13، ص: 263، ج: "ب")

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے طرز حکومت میں کوئی بات تو ایسی تھی کہ چھ سو آدمی دارالخلافہ میں ان پر غالب آ گئے جبکہ مدینہ صحابہ سے بھر پڑا تھا۔ جو کچھ پیچھے گزرا اور اب زیر نظر ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محاصرہ کرنے والے اور اعتراض کرنے والے انسان سبائی نہیں بلکہ صحابہ اور تابعین تھے۔

بخاری "کتاب الفتن بات الفتنہ التي تموج كموج البحر" میں ابوداؤد

سے راویت ہے:

"لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہا تم کیوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بات نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا میں ان سے بات کر چکا ہوں لیکن لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہتا جو فتنہ کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں اور میں ایسا آدمی بھی نہیں ہوں کہ اگر کوئی دو آدمیوں پر حاکم بن جائے تو (بطور خوشامد) اس کو کہوں کہ تم اچھے آدمی ہو جبکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کی انتڑیاں باہر نکل آئیں گی اور وہ ان کے گرد پکڑ لگا تا رہے گا جیسے چکی کا گدھا گھومتا رہتا ہے۔ دوزخی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے اے فلاں! تو وہی نہیں جو ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے منع کرتا تھا پھر وہ کہے گا میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود نیکی نہیں کرتا تھا، لوگوں کو برائی سے منع کرتا تھا مگر خود برائی کرتا تھا۔"

اس حدیث کی شرح میں امام ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"امام کرمانی نے لکھا کہ یہ جو کہا تم عثمان رضی اللہ عنہ سے کیوں بات نہیں کرتے؟ یہ ان چیزوں کے بارے میں تھی جو لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں غلط سمجھیں اور وہ رشتہ داروں کو حاکم مقرر کرنا اور دوسری مشہور باتیں اس میں شامل ہیں۔"

(فتح الباری شرح بخاری ج: 13، ص: 48، حدیث: 7098)

بنو امیہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر غالب آ گئے اور لوگوں پر ظلم کیا جس سے لوگ ناراض ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قتل ہوئے۔ (شہرستانی: الملل والنحل) جب باغیوں نے اعتراض کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنو امیہ کے کاموں کا جواز پیش نہ کر سکے۔

(طبری ج: 3، ص: 425-426)

امام اہل سنت مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمہ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے عمال کے

بارہ میں لکھتے ہیں:

”آخری چھ سال میں آپ نے اپنے اعزہ واقارب کو عہدوں پر مقرر فرمایا اور انہوں نے کام خراب کر دیا۔ صلہ رحم کی صفت کا آپ پر غلبہ تھا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ صفت بڑی عمدہ صفت ہے مگر کوئی چیز کیسی ہی عمدہ سے عمدہ ہو جب حد اعتدال سے تجاوز کر جائے تو خرابی پیدا ہوتی ہے۔“

(خلفائے راشدین ص: 185-186)

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سکون قلب اور بردباری، راست روی، رحمت اور کرم کے ساتھ نظام کو چلایا جو ان سے پہلے قائم ہو چکا تھا مگر ان میں نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی قوت تھی، نہ ان کی سی مہارت، نہ اس درجہ کا کمال عدل و زہد، اس لیے بعض لوگوں نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور وہ دنیا کی طلب میں منہمک ہو گئے اور آپ کے اقارب کو جو مناصب حاصل ہوئے تھے، انہوں نے فتنے کو جنم دیا حتیٰ کہ آپ مظلومی کی حالت میں شہید ہو گئے۔“

(منہاج السنہ ج: 4، ص: 121)

ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں کمی یا نقص صرف اس معیار کے لحاظ سے تھا جو ان سے پہلے شیخین رضی اللہ عنہ کے حق میں ثابت ہو چکا تھا۔ طبری (محب الدین طبری) نے الریاض النضرہ میں اپنی یہی تحقیق بیان کی ہے۔“

(ملا علی قاری: مرقاة شوح مشکوٰۃ ابواب المناقب)

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت حضرات شیخین کی سیرت سے مختلف تھی کیونکہ وہ بعض اوقات عزیمت کی بجائے رخصت پر اتر آتے تھے اور آپ کے گورنروں اور عمال میں شیخین کے امراء و عمال جیسی صفات نہ

تھیں۔“ (شاہ ولی ازالۃ الخفاء عن خلافة الخلفاء مقصد اول ص: 150)

سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ان فتنوں کے بھڑکنے کا سبب یہ ہوا کہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ اپنے رشتہ داروں کو مناصب حکومت پر مقرر کرتے تھے اور ان میں سے بعض کا طرز عمل اچھا نہ تھا۔ ان پر لوگ معترض ہوتے اور ان کی شکایت بھی لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچائیں مگر حضرت نے ان کو سچ نہ سمجھا اور خیال کیا کہ یہ لوگ میرے رشتہ داروں سے خواہ مخواہ جلتے ہیں اور شاید انہیں میرے رشتہ داروں کا مناصب پر مقرر کیا جانا ناگوار ہے۔ اس لیے ان کی شکایتیں کرتے ہیں۔ (فیض الباری ج: 2، ص:)

مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”سب سے بڑا اعتراض آپ پر یہ تھا کہ آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کر رکھا تھا۔ یہ ضرور ہے کہ آپ کا فعل سیرت شیخین کے خلاف تھا اور نتیجہ بھی اس کا اچھا نہ نکلا۔“

(خلفائے راشدین ص: 193-194)

باغی کون تھے؟

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مبشر بالحمیہ، خلیفہ راشد اور نص نبوی کے مطابق شہید ہیں۔ ان کی حکومت کے بعض امور سے ناراض اور ان کا محاصرہ کرنے والوں میں کئی صحابہ رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ ان میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں۔

- 1- مصری وفد کو لانے والے عبدالرحمن بن عدیس رضی اللہ عنہ بیعت رضوان میں شریک تھے۔
- 2- جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو منبر سے اتارا اور ان کا عصا توڑ ڈالا وہ حضرت جہجاء غفاری رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ بھی بیعت رضوان میں شریک تھے۔
- 3- محمد بن ابی حذیفہ امیر معاویہ کے ماموں کے بیٹے تھے۔

4- محمد بن ابی بکرؓ صغیر صحابی تھے۔

5- مالک اشتر مخضرم تھے۔ ان کی حضور ﷺ سے ملاقات نہ ہو سکی مگر در نبوی میں موجود تھے۔

6- ذوالخوہرہ جو بعض کے نزدیک عثمانؓ کا اصل قاتل تھا، وہ بھی صحابی تھا۔

حضرت علیؓ کی طرف سے باغیوں کو حضرت عثمانؓ کی صفائی دینے کی ساری روایات بے اصل ہیں۔ باغیوں کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ موجودہ گورنر ہٹا کر حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ والے گورنر لگائے جائیں۔ وہ لوگ افسانوی سہائی نہیں بلکہ صحابہ و تابعین تھے۔

باغیوں کے پیچھے نماز کی اجازت

عبید اللہ بن عدی بن خیارؓ، عثمانؓ کے پاس گئے جبکہ وہ محصور تھے اور کہا آپ تو امام عام ہیں اور آپ پر جو مصیبت نازل ہوئی جانتے ہیں، اور ہم کو باغیوں کا امام نماز پڑھاتا ہے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ کر گناہ گار نہ ہوں۔ عثمانؓ نے کہا لوگ جو کام کرتے ہیں ان میں سب سے اچھا عمل نماز ہے۔ پھر جب وہ اچھا کام کریں۔ تو بھی ان کے ساتھ مل کر اچھا کر اور جب وہ برا کام کریں تو ان کے برے کام سے الگ رہ۔

(بخاری کتاب الاذان باب امامۃ المفسون و المبتدع)

حضرت عثمانؓ خلیفہ راشد کیوں مانے گئے؟

حضرت عثمانؓ کو خلیفہ راشد اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ شروع کے مسلمان تھے، دین کے لئے اپنے چچا حکم بن عاص سے مار کھائی، حبشہ کو ہجرت کی، داماد رسول ﷺ، عشرہ مبشرہ میں شامل جنتی، نص نبوی کے مطابق شہید، سب کچھ ہیں، مگر حکومت کا الگ معاملہ ہے۔ نیک ہونا اور بات ہے اور ملکی انتظام اور بات ہے۔

مولانا شمس الحق عظیم آبادیؒ نے ”عون المعبود“ ج: 4، ص: 339 پر ملا علی

قاریؒ کی کتاب ”مرفاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح“ سے ایک اقتباس درج کیا ہے:

”رسول کریم ﷺ کی احادیث سے پتہ چل گیا کہ نبوت کی طرز پر خلافت

کی روح اور مغز حضرت عمرؓ کی خلافت کے بعد ختم ہو گئے۔“

حضرت عمرؓ کا دور ختم ہونے پر حقیقت خلافت نبویہ ختم ہو گئی اگرچہ بعد والے دونوں خلیفہ ذاتی طور پر نیک تھے۔

قصاص عثمانؓ

سیدنا عثمانؓ کے قاتلوں میں سے سودان بن حمران اور کلثوم بن نجیب دونوں موقع پر ہی سیدنا عثمانؓ کے غلاموں کے ہاتھوں قتل ہو گئے، منافق اور کناہ بن بشر موقع سے فرار ہو گئے اور بعد میں یہ بھی قتل ہوئے۔ ابن جریر طبریؒ نے بعض سلف سے نقل کیا ہے:

”قاتلان عثمانؓ میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔“

(ابن کثیر۔ البدایہ والنہایہ ج: 7، ص: 188-189)

امام ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں: ”حضرت علیؓ قاتلان عثمانؓ کو قتل نہ کرنے میں معذور تھے کیونکہ قصاص لینے کے لئے جو شرائط ضروری ہیں وہ موجود ہی نہ تھیں۔“

(منہاج السنۃ ج: 3، ص: 129)

قاضی ابو بکر بن العربیؒ نے اپنی تفسیر قرآن بنام احکام القرآن میں اس مسئلہ کی صحیح شرعی پوزیشن بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

(حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد) لوگوں کو بلا امام چھوڑ دینا ممکن نہ تھا چنانچہ امامت باقی ماندہ صحابہؓ کے سامنے پیش کی گئی، جن کا ذکر حضرت عمرؓ نے شوریٰ میں کیا تھا مگر انہوں نے اسے رد کر دیا اور حضرت علیؓ نے جو اس کے سب سے زیادہ حق دار تھے اور مل تھے، اسے قبول کر لیا تھا تا کہ امت کو خونریزی اور آپس کی پھوٹ سے بچایا جاسکے جس سے دین و

ملت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جانے کا خطرہ تھا۔ پھر جب ان سے بیعت کر لی گئی تو شام کے لوگوں نے ان کی بیعت قبول کرنے کیلئے یہ شرط لگائی کہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو گرفتار کر کے ان سے قصاص لیا جائے۔ علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا پہلے بیعت میں داخل ہو جاؤ پھر حق کا مطالبہ کرو اور وہ تمہیں مل جائے گا۔ مگر انہوں نے کہا آپ بیعت کے مستحق ہی نہیں جبکہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کو صبح و شام آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔

اس معاملہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے زیادہ صحیح تھی اور ان کا قول زیادہ درست تھا۔ کیونکہ اگر وہ اس وقت قاتلان عثمان سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے تو قبائل ان کی حمایت پر اٹھ کھڑے ہوتے اور لڑائی کا ایک تیسرا محاذ کھل جاتا۔ اس لیے وہ انتظار کر رہے تھے کہ حکومت مضبوط ہو جائے اور تمام مملکت میں ان کی بیعت منعقد ہو۔ اس کے بعد باقاعدہ عدالت میں اولیاء مقتول کی طرف سے دعویٰ پیش ہو اور حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے۔

علمائے امت کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام کیلئے قصاص کو موخر کرنا ایسی حالت میں جائز ہے جبکہ اس سے فتنہ بھڑک اٹھے اور تفرقہ برپا ہونے کا خطرہ ہو۔

ایسا ہی معاملہ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کا بھی تھا۔ ان دونوں حضرات نے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت سے بے دخل کیا تھا نہ وہ ان کے دین پر معترض تھے البتہ ان کا خیال یہ تھا کہ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے انتداء کی جائے۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی رائے پر قائم رہے اور انہی کی رائے صحیح تھی۔

قاضی صاحب سورہ حجرات: 49/9 کے تحت لکھتے ہیں:

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان حالات میں اس آیت کے تحت عمل کیا تھا۔

انہوں نے ان باغیوں سے جنگ کی جو امام پر اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے تھے اور ایسا مطالبہ کر رہے تھے جس کا انہیں حق نہ تھا۔ ان کے لیے صحیح طریقہ یہ تھا کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کی بات مان لیتے اور اپنا مطالبہ قصاص عدالت میں پیش کر کے قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ پر مقدمہ ثابت کرتے۔ اگر ان لوگوں نے یہ طریق کار اختیار کیا ہوتا اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ مجرموں سے بدلہ نہ لیتے تو انہیں کش مکش کرنے کی بھی ضرورت نہ ہوتی۔ عام مسلمان خود ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیتے۔“ (احکام القرآن ج: 4، ص: 1708-1706)

اسلامی شریعت کا یہ مسئلہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ”فقہ اکبر“ اور ”مرقاۃ شرح مشکوٰۃ“ میں واضح کیا کہ باغی اگر ہتھیار ڈال دیں اور حکومت کو تسلیم کر لیں تو ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اگر باغیوں کو معلوم ہو کہ ہتھیار ڈالنے کے بعد بھی ان سے قصاص لیا جائے گا تو وہ کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق قصاص نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ قصاص کے اگرچہ قائل تھے مگر فرماتے ہیں اگر فتنہ کا اندیشہ ہو تو خلیفہ قصاص کو مناسب وقت تک ٹال سکتا ہے۔ اسی طرح البحر الرائق میں لکھا ہے کہ باغی کے تو بہ کر لینے اور حربی کافر کے اسلام لے آنے کے بعد ان کی جان و مال سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ (البحر الرائق شرح کنز الاقائق باب البغاة)

دور عثمان رضی اللہ عنہ کے دواہم کردار

آپ کے دور کے دواہم کردار حکم بن عاص اور مروان بن حکم بن عاص تھے۔ ان دونوں کا تعارف اور کارنامے پیش خدمت ہیں۔

حکم بن عاص

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور (میرے والد) عمرو بن عاص کپڑے پہن رہے تھے تاکہ وہ بھی مجھ سے مل جائیں یعنی مجلس نبوی میں حاضر ہوں) پھر ہم پاس ہی بیٹھے تھے کہ نبی ﷺ نے فرمایا عنقریب تمہارے پاس ایک ملعون آدمی آئے گا۔ خدا کی قسم! مجھے مستقل دھڑکا لگا رہا اور میں اندر باہر جھانک کر دیکھتا رہا (کہ کہیں میرے والد نہ ہوں) حتیٰ کہ حکم بن عاص مسجد میں داخل ہوا۔

(مسند احمد حدیث نمبر 6520) (ج: 3، ص: 512)

امام ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”سلسلة الاحادیث الصحیحة“ میں ج: 7، حدیث: 3240، ص: 719 تا 725، جز نمبر 2، تک اس حدیث پر بحث کی ہے اور اس کے بارے میں طرق جمع کر کے کہا یہ مسلم کی شرط یعنی معیار پر صحیح ہے۔ علامہ رشید رضا مصری اپنی کتاب ”الخلافة الامامة العظمیٰ“ ص: 67 (اردو) پر لکھتے ہیں:

”مروان کے والد حکم بن عاص اور اس کی اولاد پر لعنت کے متعلق بہت سی احادیث مروی ہیں جن کو طبرانی وغیرہ نے روایت کیا ہے جن میں سے اکثر قابل اعتراض ہیں لیکن بعض درست بھی ہیں۔“

حکم بن عاص رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا چچا تھا اور ان کو مسلمان ہونے کے جرم میں بوری میں بند کر کے مارا کرتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا اور مدینہ آ کر رہنے لگا۔ مگر اس کی بعض حرکات کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینہ سے نکال دیا تھا اور طائف میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ”الاستیعاب“ میں اس کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکابر صحابہ کے ساتھ راز میں جو مشورے فرماتے تھے ان کی کسی تکسی طرح سن گن لے کر وہ انہیں افشا کر دیتا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ

بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارا کرتا تھا حتیٰ کہ ایک مرتبہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ حرکت کرتے دیکھ لیا۔

(الاستیعاب ج: 1، ص: 118-119، 263)

یہ بھی روایت کہا گیا کہ حکم بن عاص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس وقت جھانکا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس موجود تھے۔ اس کے علاوہ بھی اس کا کوئی ایسا قصور تھا جس کو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔

”جب حکم بن عاص کو طائف جلاوطن کیا گیا تو مروان اس وقت 7/8 برس کا تھا اور وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ طائف میں رہا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو ان سے عرض کیا گیا حکم بن عاص کو واپسی کی اجازت دے دیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بھی اسے مدینہ آنے کی اجازت نہ دی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کو واپس بلا لیا اس طرح یہ دونوں باپ بیٹا طائف سے مدینہ آ گئے۔

(امام ابن حجر، الامصاب ج: 1، ص: 344-345)، محب الدین طبری، الریاض النضرہ

ج: 2، ص: 143)

مروان کے اس پس منظر کو نگاہ میں رکھا جائے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس کا سیکرٹری بلکہ چیف سیکرٹری کے منصب پر مقرر کیا جانا لوگوں کو کسی طرح گوارا نہ ہو سکتا تھا۔ خصوصاً اس وقت جبکہ اس کا ملعون و معتبوب باپ زندہ تھا اور اپنے بیٹے کے ذریعے حکومت کے کاموں پر اثر انداز ہو سکتا تھا۔

حکم بن عاص اور اس کی اولاد (اولاد کی اولاد شامل نہیں) پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ (متدرک حاکم ج: 4، ص: 481، ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔)

امام شعیب رحمۃ اللہ علیہ عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

”میں نے حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو کعبہ سے نیک لگا کر یہ کہتے ہوئے

سنا کہ اس کعبہ کے رب کی قسم! نبی ﷺ نے فلاں شخص اور اس کی پشت سے پیدا ہونے والی اولاد پر لعنت فرمائی ہے۔“

(مسند احمد روایات عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حدیث نمبر 16267)

یوسف بن ماکب سے روایت ہے:

”مروان بن حکم معاویہ کی طرف سے حجاز کا حاکم تھا۔ اس نے تقریری کی تو اس میں یزید بن معاویہ کا ذکر کیا تاکہ لوگ معاویہ کے بعد اس کی بیعت کر لیں۔ عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں کچھ کہا۔ مروان نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا۔ وہ (اپنی بہن) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہو گئے وہاں ان کو کوئی نہ پکڑ سکا۔ (آخر جب اس کا بس نہ چلا تو) مروان نے کہا یہ عبدالرحمن وہی شخص ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف: 17/46 نازل فرمائی۔ (فتح الباری ج: 8، ص: 577)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پردے کے پیچھے سے یہ کہا ہمارے خاندان کی برائی میں کوئی آیت نہیں اتری سوائے میرا عذر بیان کرنے والی آیات کے

(بخاری کتاب التفسیر سورہ احقاف باب والذی قال لوالدیدی اف لکما)

بخاری میں تو اتنا ہی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی تشریح میں امام ابن حجر نے فتح الباری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مروان کے باپ پر لعنت کی اور مروان اس کی پشت میں تھا۔

(فتح الباری ج: 8، ص: 577، حدیث نمبر 4827، بحوالہ نسائی، اسماعیلی، ابن المنذر، ابوعلی،

ابن ابی حاتم)

مزید تشریح کے لئے ملاحظہ ہوا الاستیعاب ج: 2، ص: 393، البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 189، اکمل ابن اثیر ج: 3، ص: 25۔

تفسیر قرطبی اور تفسیر ابن کثیر سورہ احقاف: 17/46 کی تفسیر میں امام نے ابن ابی

حاتم کا قول نقل کیا ہے:

”مروان سے عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تو لعین کا بیٹا نہیں ہے؟ جس پر رسول کریم ﷺ نے لعنت کی ابن کثیر نے نسائی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مروان کی الزام تراشی کے جواب میں فرمایا مروان جھوٹ کہتا ہے، بلکہ مروان کے باپ پر اس حالت میں رسول کریم ﷺ نے لعنت فرمائی کہ مروان اس کی پشت میں تھا اور یہ اس لعنت کا ٹکڑا ہے۔“ (تفسیر قرطبی، ج: 16، ص: 197)

امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ لکھا ہے کہ عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال 53ھ میں نہیں بلکہ 58ھ میں ہوا اور اس سے پہلے انتقال کر جانے کی روایت درست نہیں ہے۔

امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”مروان کا باپ حکم بن عاص نبی ﷺ کے بدترین دشمنوں میں سے تھا۔ فتح مکہ کے روز ایمان لایا اور مدینے پہنچا۔ پھر نبی ﷺ نے اسے طائف کی طرف جلا وطن کر دیا۔“ (البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 259)

امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”31ھ میں مروان کا والد حکم بن عاص فوت ہوا۔ وہ فتح مکہ کے روز مسلمان ہوا تھا۔ مگر نبی ﷺ کے راز فاش کر دیا کرتا تھا۔ (یعنی جاسوسی کرتا تھا) اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آنحضور ﷺ کی رفتار مبارک کی نقلیں اتارتا تھا۔ لہذا آپ ﷺ نے اسے طائف جلا وطن کر دیا اور اس پر لعنت بھیجی۔ وہ جلا وطن ہی رہا حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اسے مدینہ میں داخل کیا اور ایک لاکھ کا عطیہ دیا۔ (العبر فی خبر من غیر جزو اول ص: 32)

امام حافظ نور الدین دمشقی رحمہ اللہ نے ”مجمع الزوائد ومنبع الفوائد“ میں امام

احمد کی سند کے حوالہ سے اوپر والی حدیث درج کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے دوسری روایت درج کی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک آدمی تمہارے پاس آنے والا ہے جو قیامت کے دن میری سنت یا میری ملت پر نہیں اٹھایا جائے گا۔ میں اپنے والد کو گھر چھوڑ آیا تھا لہذا میں ڈر رہا تھا کہ وہی نہ ہوں پھر ایک اور آدمی (یعنی حکم بن عاص) سامنے آ گیا۔

اس کے بعد وہیں عبداللہ بن عمرو سے تیسری روایت ہے:

”رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اس گھاٹی سے ایک شخص تمہارے سامنے نمودار ہوگا اور وہ اہل دوزخ میں سے ہوگا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں پیچھے اپنے والد کو وضو کرتے چھوڑ آیا تھا اور میں ڈر رہا تھا کہ اندر آنے والے وہی نہ ہوں۔ لیکن ایک دوسرا شخص آ گیا اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے۔ (مجمع الزوائد ج: 1، ص: 112)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مروان کو کہا تھا کہ تیرے باپ حکم اور اس کی اولاد پر حضور ﷺ نے لعنت کی ہے

(امام ابن حجر فتح الباری ج: 8، ص: 577 حدیث نمبر 4827، بخاری کتاب التفسیر سورہ احقاف، صحیحہ ج: 7، جز نمبر 2، ص: 725-719، حدیث نمبر 3240)

سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل کو بھی حضور ﷺ نے معاف فرمادیا تھا مگر حکم بن عاص کو کیوں معاف نہ کیا؟ اس نے کوئی ایسا جرم کیا تھا جس کی بنا پر اس پر لعنت کی اور طائف کو نکال دیا۔ اس کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے واپس مدینہ بلا لیا اور یہی غلطی تھی۔ پھر اس کے بیٹے مروان کو اپنا داماد بنا کر سارا کاروبار حکومت سونپ دیا۔ حدیث میں ہے کہ جب حکم بن عاص کی نسل کی تعداد 30 ہو جائے گی تو پھر یہ لوگ اللہ کے دین کو فریب دینے کا ذریعہ بنالیں گے اور اللہ کے بندوں کو غلام بنالیں گے اور اللہ کے

مال (بیت المال) کو آپس میں گردش دیں گے۔

(البانی، صحیحہ ج: 2، ص: 379-381 حدیث 744)

مروان بن حکم بن عاص

حضور ﷺ نے خواب میں دیکھا کہ مروان کی اولاد میرے منبر پر بندروں کی طرح ناچ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد وفات تک آپ ﷺ کو مسکراتے نہیں دیکھا گیا۔

(علامہ البانی رضی اللہ عنہ، سلسلة الاحادیث الصحیحة ج: 7، جزو نمبر 3، ص: 1645-1649، حدیث نمبر 3940 بحوالہ مستدرک حاکم، ج: 4، ص: 480،)

حاکم نے شرط نہیں (بخاری و مسلم) پر صحیح کہا اور امام ذہبی رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی کہا۔ علامہ البانی نے پانچ صفحات میں اس حدیث پر بحث کی اور اس کو صحیح کہا۔

اس حدیث میں بیان ہونے والے خواب میں رسول اللہ ﷺ کو دکھایا گیا کہ حکومت پر مروانیوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ اس بات نے حضور ﷺ کو بہت غمگین کیا۔

عید گاہ میں منبر بنوانا

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

”میں مروان، جو مدینہ کا حاکم تھا، کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کیلئے نکلا تو عید گاہ میں دیکھا کہ ایک منبر موجود ہے جس کو کثیر بن صلت نے بنوایا تھا۔ مروان نے منبر پر نماز سے پہلے چڑھنا چاہا۔ میں نے اس کا کپڑا پکڑ کر کھینچا لیکن وہ زبردستی منبر پر چڑھ گیا اور نماز عید سے پہلے خطبہ پڑھا۔ میں نے کہا خدا کی قسم تم لوگوں نے سنت کو بدل ڈالا۔ مروان کہا ابوسعید رضی اللہ عنہ! وہ زمانہ گزر گیا جس کو تم جانتے ہو۔ ابوسعید رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم! جس زمانہ کو میں جانتا ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ مروان نے کہا بات یہ ہے کہ نماز کے بعد لوگ اٹھ کر چل دیتے ہیں۔ لہذا میں نے خطبہ عید سے پہلے کر دیا۔“

(مسلم کتاب الایمان باب کون النہی عن المنکر من الایمان وان الایمان
یزید و ینقص)، بخاری کتاب العیدین باب الخروج الی المصلی بغیر منبر
التمہید ج: 10، ص: 243، مسند احمد 11089-11167-11480-11512،
11534، 11898)

مروان حضرت علی علیہ السلام پر لعنت کرتا تھا

یہ حدیث دوسری کتابوں مثلاً ابوداؤد وغیرہ میں بھی آئی ہے۔ لوگ اس لیے مروان کا
خطبہ نہیں سنتے تھے کہ وہ اس میں سیدنا علی علیہ السلام پر لعنت کرتا تھا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں:
”یہ مروان جب امیر معاویہ کی طرف سے مدینہ کا گورنر مقرر ہوا تو ہر جمعہ منبر
پر حضرت علی علیہ السلام اور ان سے محبت کرنے والوں پر لعنت کیا کرتا تھا۔“

(البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 91)

ابو عبد اللہ جدلی کہتے ہیں:

”ایک مرتبہ میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے
فرمایا کیا تمہاری موجودگی میں نبی ﷺ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ میں نے
کہا معاذ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی ﷺ کو
یہ فرماتے سنا ہے جو علی علیہ السلام کو گالی دیتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے۔“

(مسند احمد، مسند النساء حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوج النبی ﷺ حدیث نمبر 27284)

سب علی علیہ السلام سب رسول ﷺ ہے

ابو عبد اللہ الحجدلی سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا تمہارے منبروں پر رسول
کریم ﷺ کو گالیاں دی جاتی ہیں جب یہ کہا جاتا کہ علی علیہ السلام اور اس سے
محبت کرنے والوں پر لعنت کیونکہ میں جانتی ہوں کہ حضور ﷺ سب سے
زیادہ علی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔

(علامہ البانی، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ج: 7، حصہ 2، حدیث نمبر
3332، بحوالہ مسند ابو یعلیٰ ج: 12، ص: 444-445، طبرانی فی المعجم

الاولیٰ ج: 6، ص: 389، حدیث نمبر 5828، المعجم الصغیر ص: 199،
ہندیہ، المعجم الکبیر ج: 23، ص: 323، حدیث نمبر 738)

دونوں عیدوں میں خطبہ نماز عید کے بعد پڑھنا سنت ہے مگر مروان نماز عید سے پہلے
خطبہ پڑھتا تھا کیونکہ لوگ اس کی بکواس سے بغیر عید پڑھ کر چلے جاتے تھے۔ یہ شخص سنت کی
تحقیر کرتا تھا، جیسا کہ اس نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہا وہ زمانہ گزر گیا جس کو تم جانتے ہو۔

عید کا خطبہ نماز سے پہلے کر دیا

طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ (مدینہ میں) جس نے عید کی نماز سے پہلے
خطبہ شروع کیا وہ مردان تھا۔ اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا خطبہ سے پہلے نماز عید
پڑھنا چاہئے۔ مروان نے کہا یہ بات چھوڑ دی گئی ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا اس شخص نے تو
اپنا حق ادا کر دیا، میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ نے فرمایا جو شخص تم میں سے کسی
منکر (خلاف شرع) کام کو دیکھے تو اس کو منادے ہاتھ سے، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے
اور اگر اتنی طاقت بھی نہ ہو تو دل میں برا جانے اور یہ سب سے ضعیف ایمان کا درجہ ہے۔

عیاض بن عبد اللہ بن ابی سرح سے روایت ہے:

”ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن آئے اور مروان خطبہ (تقریر کر رہا تھا)
دے رہا تھا۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔
پہرے دار آ کر ان کو (زبردستی) بٹھانے لگے مگر ابوسعید نہ مانے اور نماز مکمل
کی۔ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر ہم نے ابوسعید رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ آپ پر رحم
کرے، یہ لوگ تو آپ پر گرے پڑتے تھے۔ انہوں نے کہا میں کبھی نہ
چھوڑوں گا اس چیز کو جس کو دیکھا میں نے رسول اللہ ﷺ سے، پھر ذکر کیا
کہ ایک شخص جمعہ کے دن آیا، وہ میلا کچھلا تھا اور نبی ﷺ جمعہ کا خطبہ پڑھ
رہے تھے پھر حکم کیا آپ ﷺ نے اور اس شخص نے دو رکعتیں پڑھیں اور
اس وقت بھی رسول کریم ﷺ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔“

(ترمذی ابواب الجمعة باب فی الركعتین اذا جاء الرجل والامام یخطب)

حکم رسول ﷺ کی خلاف ورزی پر جری

مروان کو حدیث سنانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں ”سورہ النصر“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حدیث میں فرمایا گیا:

”فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں البتہ جہاد اور نیت ہے۔ مروان کو جب یہ حدیث ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے سنائی تو یہ کہنے لگا تو جھوٹ کہتا ہے۔ اس وقت مروان کے ساتھ اس کے تحت پر رافع بن خدیج اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ان دونوں کو بھی اس حدیث کی خبر ہے لیکن ایک کو اپنی سرداری چھن جانے کا خوف ہے اور دوسرے کو زکوٰۃ کی وصولی کے عہدے سے معزول ہو جانے کا ڈر ہے۔ مروان نے یہ سن کر کوڑا اٹھا کر حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کو مارنا چاہا۔ ان دونوں بزرگوں نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے مروان ابوسعید رضی اللہ عنہ نے سچ فرمایا۔“ (مسند احمد ج: 5، حدیث: 11184)

مروان کا رہن سہن

حضرت ابو زرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: ”کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مروان کے گھر میں گیا۔ وہاں تصویریں تھیں۔ (دوسری روایت میں ہے کہ وہاں مصور تصویر بنارہا تھا) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو میری مخلوق کی طرح بنانے کا ارادہ کرے۔ لہذا بنادیں ایک ذرہ یا ایک دانہ جو کا“

(مسلم کتاب اللباس والزینت باب تحريم تصوير صورة الحيوان)

اس روایت سے مروان کے رہن سہن کا اندازہ کر لیں۔

زکوٰۃ سے عطیات کا اعلان

مروان نے زکوٰۃ سے لوگوں کو عطیات دینے کا اعلان کیا جس پر مسلمانوں نے احتجاج کیا۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”ایک روز مروان نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا امیر المؤمنین معاویہ نے تمہیں بھرپور عطیات دینے کا حکم فرمایا ہے اور پوری کوشش کی ہے مگر مال میں سے ایک لاکھ درہم کم ہے۔ اور انہوں نے مجھے لکھا ہے کہ یمن کی زکوٰۃ جب یہاں سے گزرے تو میں وہ مال تمہارے لیے لے لوں۔ حضرت عروہ کہتے ہیں کہ لوگ گھنٹوں کے بل کھڑے ہو گئے اور میں نے انہیں یہ پکارتے ہوئے سنا ہرگز نہیں! ہم ان میں سے ایک درہم بھی نہیں لیں گے۔ کیا ہم دوسروں کا حق وصول کر لیں؟ یمن والا مال تو یتیموں اور مسکینوں کے لیے صدقہ ہے۔ ہمارے عطیات جزیہ سے ملنے چاہئیں تم معاویہ کو لکھو وہ ہمیں باقی رقم بھیج دیں۔ مروان نے یہ بات لکھی تب معاویہ نے باقی بھجوا دی۔“

(کتاب الاموال امام ابو عبیدہ ابواب غنیمت وفنہ ص 259 روایت نمبر 635)

تاریخی نسخہ قرآن جلا دینا

مروان کا یہ کارنامہ بھی ہے کہ اس نے قرآن کا وہ نسخہ جلا دیا جس کی کتابت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کرائی تھی اور جس کی مزید نقول عثمان رضی اللہ عنہ نے بلاوا سلامیہ میں بھجوائی تھیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب ”مشکل الآثار“ میں لکھتے ہیں:

”قرآن مجید کے یہ لکھے ہوئے اجزاء ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی وفات تک رہے۔ پھر یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی وفات تک رہے۔ پھر ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہ کی تحویل میں یہ نسخہ رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے طلب کیا مگر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے واپسی کی شرط کے بغیر دینے سے انکار کر دیا اور اسی شرط پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

نے اس کی نقول تیار کرا کے اسے واپسی کر دیا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہی رہا حتیٰ کہ مروان نے بعد میں اسے منگولایا اور جلا دیا۔

(امام طحاوی: مشکل الآثار جز ثالث ص 4)

ایسی تاریخی اور مقدس یادگار کو مروان کے سوا کون آگ میں جھونکنے کی جرات کر سکتا تھا؟

مروان اور ادب صحابہ رضی اللہ عنہ

مروان نے اپنے زمانہ گورنری میں حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کو اس قصور پر لات ماردی کہ انہوں نے مروان کی ایک بات پر کہہ دیا کہ آپ نے یہ بری بات کہی ہے۔ (امام ابن عبد البر رحمہ اللہ: الاستیعاب ج 1 ص 353)

مروان نواصب کا سرغنہ تھا۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”بخاری میں مروان سے البتہ روایت آئی ہے، باوجودیکہ وہ نواصب (دشمنان اہل بیت) میں سے تھا بلکہ اس بد بخت گروہ کا سرغنہ تھا لیکن اس روایت کا مدار زین العابدین پر رکھا ہے اور ان ہی پر روایت کو ختم کیا ہے۔“ (تقدیم اثنا عشریہ اردو، ص: 119)

معروف اور جدید اہل حدیث عالم نواب صدیق حسن خاں رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”بدعت کی ایک قسم نصب (اہل بیت سے دشمنی) ہے جو تشیع سے بدتر ہے کیونکہ اس کا مطلب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دشمنی کو اپنا دین بنالینا ہے۔“

(ہدایۃ المسائل الی ادلة المسائل سوال و جواب نمبر 105، ص 496)

مروان اور فدک

فدک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام خلفاء کے زمانہ میں بیت المال کی ملکیت رہا تھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے فاطمہ رضی اللہ عنہا تک کو دینے سے انکار کیا تھا مگر مروان نے

اپنے دور حکومت میں اسے اپنی ملکیت اور اپنی اولاد کی میراث بنالیا۔

(امام ابن اثیر رحمہ اللہ: الکامل ج 4، ص 164، امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ ج 9، ص 200-208)

مروان پر لعنت

امام سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ”تاریخ الخلفاء“ امام ذہبی رحمہ اللہ کی تاریخ کا ایک جامع خلاصہ ہے۔ اس میں معاویہ کے حالات کے آخر میں امام نسائی رحمہ اللہ اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کے حوالہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث نقل کی گئی ہے جس میں فرمایا گیا:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ پر اس حالت میں لعنت فرمائی جب کہ مروان اپنے باپ کی پشت میں تھا لہذا مروان اللہ کی لعنت میں حصہ دار ہے۔ جبکہ مستدرک کی روایت میں جو پہلے گزر چکی ہے حکم بن عاص اور اس کی اولاد پر لعنت فرمائی گئی اور یہ مروان اسی لعنت کا ٹکڑا ہے۔“

البدایہ والنہایہ ج 8، ص 182-183 پر امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”مروان مہاجر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لعنت کیا کرتا تھا۔ پھر ایک دن حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا تیرے باپ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی تھی اور تو اس کی پشت میں تھا۔“

مروان کے بارے میں علمائے اسلام کی رائے

امام ابن حزم رحمہ اللہ

امام ابن حزم رحمہ اللہ ظاہری فرماتے ہیں:

”مالکیہ کا عمل اہل مدینہ کو بطور دلیل پیش کرنا بے کار ہے کیونکہ وہاں مروان کے زمانہ سے تغیر سنن کا آغاز ہو گیا تھا۔“ (الاحکام ابن حزم، ص: 854)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ

ان سے سوال ہوا کہ مروان کو برا کہنے کے بارے میں اہل سنت کے نزدیک کیا

ثابت ہے؟ وہ جواب میں لکھتے ہیں:

”اہل بیت علیہم السلام کی محبت فرائض ایمان سے ہے نہ لوازم سنت، اور محبت اہل بیت میں یہ شامل ہے کہ مروان علیہ اللعنة کو برا کہنا چاہئے اور اس سے دل سے بیزار رہنا چاہیے۔ علی الخصوص اس نے نہایت بدسلوکی کی حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے ساتھ اور کامل عداوت ان حضرات سے رکھتا تھا۔ اس خیال سے اس شیطان سے نہایت ہی بیزار رہنا چاہیے۔“
(فتاویٰ عربیہ کاظمیہ ص: 380-381)

مولانا احمد علی سہارنپوری دیوبندی رحمہ اللہ

علمائے دیوبند کے یہ استاد ”بخاری کتاب الفتن“ کی شرح میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں جس میں فرمایا گیا: میری امت کی ہلاکت قریش کے چھو کروں کے ہاتھوں ہوگی، احادیث میں حکم اور اس کے بیٹے پر لعنت وارد ہے۔ طبرانی اور دوسرے محدثین نے ان کی تخریج کی ہے۔

شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ

آپ رحمہ اللہ ”سنن ترمذی ابواب العیدین“ کی شرح میں فرماتے ہیں:

”کہا جاتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے نماز عیدین میں نماز سے پہلے خطبہ دیا وہ مروان بن حکم تھا۔ مروان پر لے درجہ کا ظالم اور سنت نبوی کو پیٹھ دکھانے والا، اس سے منہ موڑنے والا تھا اور لوگوں پر جمعہ وعیدین کے مجمع ہائے عام میں سب و شتم کرتا تھا۔ لوگ اس وجہ سے نماز عید کے بعد خطبہ سننے بغیر چلے جاتے، اسی لیے اس نے نماز پر خطبہ کو مقدم کیا تاکہ لوگ منتشر نہ ہو سکیں کیونکہ ان کے لیے نماز کا انتظار تو ناگزیر تھا۔“ (تقریر ترمذی، ص: 19، مولانا محمود الحسن)

مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ

حضرت سید التالین حضرت سعید بن المسیب کہا کرتے تھے بنی مروان

انسانوں کو بھوکا مارتے اور کتوں کو کھلاتے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھوں پر ہر طرح کے ظلم اور شہداء سہتے ہیں۔ (مسئلہ خلافت ص: 72)

مروان مدینہ کا گورنر تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں موزن تھے۔ مروان کی بدذوقی کا یہ حال تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا اور مقتدیوں کو شرکت کا موقع دینا بھی اس کی جلد بازی پر گراں گزرتا تھا۔ سورہ فاتحہ ختم کرتے ہی بلا سکتہ قرأت شروع کر دیتا حالانکہ احادیث میں آمین کہنے کی نہایت درجہ فضیلت وارد ہے۔

لوگ ان کی یادہ گوئی پسند نہ کرتے تھے۔ اس لیے اکثر ایسا ہوتا کہ عید کے دن نماز کے بعد ہی جمع منتشر ہو جاتا۔ لوگ خطبہ کا انتظار نہ کرتے۔ یہ دیکھ کر مروان نے چاہا کہ عید کے دن نماز سے پہلے خطبہ دے تاکہ نماز کے انتظار کی وجہ سے لوگوں کو مجبوراً خطبہ سننا پڑے حالانکہ یہ صریح سنت کے خلاف تھا۔ سنت ثابتہ خطبہ عید کے بارے میں یہی ہے کہ نماز عید پہلے ادا کی جائے پھر خطبہ دیا جائے۔ (مسئلہ خلافت ص: 71)

دیوبندی علماء میں سے سید احمد رضا بجنوری رحمہ اللہ نے سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے ان کی آخری عمر میں حدیث پڑھی اور اپنے استاد کے لکچرار دوزبان میں شائع کئے۔ اس کتاب کا نام ”انوار الباری فی شرح البخاری“ ہے۔ وہ اس کتاب کی ج: 17 ص: 192، پر لکھتے ہیں کہ ہمارے استاد فرماتے تھے:

”امام بخاری رحمہ اللہ پر حیرت ہے کہ اس مروان ملعون کی روایت اپنی کتاب میں درج کی۔ اس خبیث نے جنگ جمل میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو زہر آلود تیہ مار کر شہید کیا۔ یہ حضرت علی علیہ السلام پر لعنت کرتا تھا۔“

مولانا رحمہ اللہ نے اس کے جرم ایک ایک کر کے گنوائے۔ اس ملعون نے حضرت حسن علیہ السلام کو روضہ رسول ﷺ میں دفن ہونے سے زبردستی روکا، حالانکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا

اس کی اجازت دے چکی تھیں۔

مولانا نے کئی صفحوں میں اس ملعون کی کرتوتیں لکھی ہیں۔

مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے خطبہ جمعہ مورخہ 19 جولائی 1957ء میں اس بات سے متفق ہیں جو جو خدام الدین میں شائع ہوا۔

مولانا محمد میاں دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ

دیوبند کے فاضل استاد محمد میاں جو کہ جمعیت علمائے ہند کے بڑے عہدیدار تھے، ماہنامہ ”دارالعلوم دیوبند“ میں مروان کے بارے میں لکھتے ہیں:

”یہ سانحہ بھی ہمیں تاریخ صحیح کے صفحات پر مونے حروف میں چھپا ہوا ملتا کہ حضرات شیخین کی مضبوط قیادت کے بعد عالم اسلام کے مشہور مفسد مروان اموی نے ذوالنورین رحمۃ اللہ علیہ کے ضعف پیری اور حیاء سے استفادہ کر کے مہمات دولتی (ملکی کاروبار) پر دست تصرف پا کر اپنی قوم بنی امیہ کے احساس قومی کو نہ صرف جگایا بلکہ اس کو بنی ہاشم سے دست و گریبان کرنے کے لیے میدان میں بھی لے آیا۔“

(ماہنامہ دارالعلوم دیوبند دسمبر 1965ء)

مگر سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو شیعہ ثابت کرنے کے لیے انہی حضرات نے ایک کتاب شواہد تقدس کے نام سے لکھی اور اس میں سید صاحب کی دشمنی میں مروان کی ڈھٹائی کو استقامت کا رنگ دے کر حضرت علی علیہ السلام پر ترجیح دینے کی کوشش کی۔

(شواہد تقدس، ص: 214-215)

حضرت نانکھ زوجہ رحمۃ اللہ علیہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رائے

مروان کی کرتوتوں کی چشم دید گواہ حضرت نانکھ رحمۃ اللہ علیہا نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک

مرتبہ صاف صاف کہہ دیا:

”اگر آپ مروان کے کہے پر چلیں گے تو یہ آپ کو قتل کرا کے چھوڑے گا۔

اس شخص کے اندر نہ اللہ کی قدر ہے نہ ہیبت نہ محبت۔“

(امام ابن کثیر: البدایہ والنہایہ، ج: 7، ص: 172-173، امام ابن جریر طبری، ج: 3،

ص: 396-397)

مروان کی کامیاب منصوبہ بندی

اس نے اپنی چالوں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تنہا کر دیا (محمد میاں دیوبندی کے الفاظ میں اس مشہور مفسد نے) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور اکابر صحابہ کے باہمی خوشگوار تعلقات کو خراب کرنے کی مسلسل کوشش کی تاکہ وہ اپنے پرانے ساتھیوں کے بجائے مروان کو اپنا زیادہ خیر خواہ اور حامی سمجھنے لگے۔

(طبقات ابن سعد، ج: 5، ص: 36، البدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 259)

جنگ جمل کو جاتے ہوئے اس کی منصوبہ بندی ملاحظہ فرمائیں کہ یہ امت مسلمہ اور صحابہ کا کتنا بڑا دشمن تھا۔ بصرہ کو جاتے ہوئے راستے میں جب قافلہ مر الظهران (موجود وادی فاطمہ) پہنچا تو سعید بن العاص، سابق گورنر بصرہ نے اپنے گردپ کے لوگوں سے کہا اگر تم قاتلین عثمان سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو قتل کر دو جو تمہارے ساتھ اس لشکر میں موجود ہیں۔ اس کا اشارہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف تھا کیونکہ بنی امیہ کا عام خیال تھا قاتلین عثمان صرف وہی نہیں ہیں جنہوں نے انہیں قتل کیا یا خروج کیا بلکہ وہ سب لوگ قاتلین میں شامل ہیں جنہوں نے وقافو قتا عثمان رضی اللہ عنہ کی پالیسی پر اعتراض کئے یا جو شورش کے وقت مدینہ میں موجود تھے مگر قتل عثمان روکنے کے لیے نہ لڑے۔

مروان نے کہا نہیں ہم طلحہ رضی اللہ عنہ وزبیر رضی اللہ عنہ کو علی علیہ السلام سے لڑائیں گے۔ دونوں میں سے جس کو بھی شکست ہوگی وہ تو یوں ختم ہو جائے گا اور جو فتح یاب ہوگا، وہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ ہم اس سے بآسانی نمٹ لیں گے۔

(طبقات ابن سعد، ج: 5، ص: 36، ابن خلدون مکملہ، ج: 2، ص: 155)

مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی

مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ”افسادات ترمذی“ جو مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی

نے ”الکواکب اللدیری“ کے نام سے جمع کر کے چھپوائے ہیں، ان میں مولانا فرماتے ہیں:

”مروان نے سب سے پہلے بری میت کے ساتھ عید کا خطبہ نماز سے پہلے دیا۔ وہ اپنے خطبہ میں اہل بیت النبی ﷺ پر طعن و تعریض کرتا تھا اور ان کے حق میں بے ادبی کرتا تھا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا اور وہ اہل بیت کی ایذا رسانی پر صبر نہ کر سکے تو وہ نماز کے بعد چلے جاتے تھے۔ تب مروان نے خطبہ مقدم کیا تاکہ لوگوں کو مجبور کر کے ایسا خطبہ سنائے۔ پس اس کا یہ فعل خبیث کا مظاہرہ تھا جس پر لوگوں نے اظہارِ نفرت کیا۔“

کیا مروان صحابی تھا؟

امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ قول ”تہذیب التہذیب“ اور دوسری کتابوں میں منقول ہے کہ مروان صحابی نہیں تھا۔ امام نووی رحمہ اللہ ”تہذیب الاسماء“ میں فرماتے ہیں: ”مروان نے حضور ﷺ سے نہ آپ ﷺ کو دیکھا۔ علامہ عینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جہاں تک مروان کا تعلق ہے، اس کی سماعِ حدیث نبوی ﷺ سے ثابت نہیں اور نہ وہ صحابی ہے کیونکہ وہ ایک طفلِ نادان تھا جب کہ اس کے باپ کے ساتھ مدینہ سے طائف کی طرف جلا وطن کر دیا گیا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ طائف رہا حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اور انہوں نے ان دونوں کو واپس بلا لیا۔“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ”تقریب التہذیب“ میں لکھا ہے:

”مروان کی صحابیت ثابت نہیں۔ امام عبدالرحمن بن محمد اپنی کتاب المراسیل میں فرماتے ہیں کہ مروان بن حکم نے نبی ﷺ سے کچھ بھی نہیں سنا۔“

حضرت حسن علیہ السلام کی تدفین اور مروان

جب حضرت حسن علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت حسین علیہ السلام نے (حضرت حسن علیہ السلام کی خواہش و وصیت کے مطابق) جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت (تدفین) طلب کی۔ انہوں نے کہا بخوشی! مروان کو معلوم ہوا تو اس نے کہا حسین علیہ السلام و عائشہ رضی اللہ عنہا دونوں

جھوٹ کہتے ہیں، حسن علیہ السلام یہاں کبھی دفن نہیں کئے جاسکتے۔

(سیرت عائشہ رضی اللہ عنہا، سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، ص: 116، 118 بحوالہ الاستیعاب امام ابن عبد البر، اسد الغابہ، امام ابن اثیر، تاریخ الخلفاء امام سیوطی، امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 108)

واقعہ حرہ میں مروان کا کردار

امام ذہبی رحمہ اللہ ”میسر اعلام النبلا“ میں مروان کے حالات میں لکھتے ہیں:

”مروان حرہ کے روزِ مسرف بن عقبہ (خالم کا اصل نام مسلم بن عقبہ تھا) کے ساتھ تھا اور اسے اہل مدینہ کے قتال پر ابھارتا رہا۔“

محاصرہ عثمان رضی اللہ عنہ اور مروان

امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”مروان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے محاصرہ کا سب سے بڑا سبب تھا۔“

(البدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 259)

اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے جعلی خط لکھا کہ مصری وفد کو قتل کر دو۔

(ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 278)

مروان قاتلِ طلحہ رضی اللہ عنہ

جنگِ جمل کے آغاز میں حضرت علی علیہ السلام نے حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں حضرات تشریف لائے تو علی علیہ السلام نے ان کو ارشاداتِ نبوی ﷺ یاد دلا کر جنگ سے باز رہنے کی تلقین کی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ میدانِ جنگ چھوڑ کر چلے گئے اور طلحہ رضی اللہ عنہ آگے کی صفوں سے پھیلی صفوں میں جا کھڑے ہوئے۔ ان کا ارادہ بھی چلے جانے کا تھا۔ ایک خالم عمرو بن جرموز نے زبیر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے شہید کر دیا، جبکہ وہ میدانِ جنگ سے واپس جا چکے تھے۔

مروان نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے واپس چلے جانے کے ارادہ کے پیش نظر زہر آلود تیر مار کر شہید کر دیا۔

(طبقات ابن سعد، ج: 3، ص: 232، ج: 5، ص: 83، امام ابن الاثیر، الکامل، ج: 3، ص: 124، امام ابن عبد البر الاستیعاب، ج: 1، ص: 207-208، امام ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ج: 7، ص: 247)

امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں:

”ثقات میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں کہ مروان ہی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے حالانکہ مروان ان کی فوج میں شامل تھا۔“

امام ابن حجر رحمہ اللہ تہذیب التہذیب ج: 5، ص: 21-22، پر لکھتے ہیں:

”مروان نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا اور کسی عالم کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔“

امام ذہبی رحمہ اللہ میزان الاعتدال ج: 4، ص: 89، نمبر 8422 پر لکھتے ہیں:

”مروان ہی قاتل طلحہ رضی اللہ عنہ ہے۔“

امام ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”ولید بن عبد الملک نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے موسیٰ سے کہا میرے دادا

مروان نے تیرے باپ طلحہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لے لیا تھا۔

قیس بن ابی حازم جو جنگ جمل میں موقع پر موجود تھے کہتے ہیں کہ مروان

جنگ جمل میں طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ جب جنگ عروج پر پہنچی تو

میں مروان کے پاس تھا۔ اس وقت مروان نے کہا اگر آج میں نے

عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ نہ لیا تو پھر یہ وقت کبھی نہ آئے گا۔ پھر مروان نے زہر آلود

تیر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو مارا جو ان کے گھٹنے میں لگا۔ اس سے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ

شہید ہو گئے۔ یہ روایت قیس ابن ابی حازم سے سند متصل ہے اور مستدرک

حاکم میں بھی ہے۔“ (ابن حجر رحمہ اللہ تہذیب التہذیب ج: 5، ص: 220-221)

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: ”جس نے زمین پر چلتا پھرتا شہید دیکھنا ہو وہ طلحہ رضی اللہ عنہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔“

(البانی: سلسلہ الاحادیث الصحیحہ، ج: 1، حدیث: 125)

مشہور اہل حدیث عالم نواب سید صدیق حسن خاں رحمہ اللہ اپنی کتاب ”ہدایۃ السائل الی ادلة المسائل“ کے ص: 105 پر لکھتے ہیں:

”مروان حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے۔ انہوں نے امام ذہبی، امام ابن حزم

اور ابن حبان رحمہم کی نہایت سخت رائے مروان کے خلاف نقل کی ہے وہ

لکھتے ہیں کہ مروان کی طرف سے یہ عذر پیش کرنا کہ اس نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ

کو تاویل کی بنا پر قتل کیا ہے تو یہ ایسی معذرت ہے جس کو پیش کر کے ہر گناہ

گار کو بے گناہ قرار دیا جاسکتا ہے۔“

سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں: مروان ہی قاتل طلحہ رضی اللہ عنہ ہے۔ (سیرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ص: 130)

امام ذہبی رحمہ اللہ کا قول فیصل

امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”مروان خبیث نے وہ کام کئے جو اسے جہنم لے جانے کیلئے کافی ہیں۔“

(میزان الاعتدال، ج: 4، ص: 89، نمبر 8422)

مروان کی حکومت اور اس کا انجام

جب یزید مر گیا تو تمام سلطنت نے عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی۔ صرف شام

کا علاقہ باقی رہ گیا۔ مروان اس وقت شام میں تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ جا کر عبد اللہ بن

زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لے تاکہ امت کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ مگر عبد اللہ بن زیاد

خبیب، حصین بن نمیر قاتل حسین اور عمرو بن سعید بن العاص نے اسے کہا ساری زندگی

جنگیں لڑتے گزری اب ان لوگوں کی بیعت کرنے چلے ہو؟ پھر مروان نے اپنی بیعت لے

لی اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھی صحاک بن قیس رحمہ اللہ سے جنگ لڑی وہ مارے گئے اور مروان

غالب آیا۔ پھر مروان نے مصر بھی چھین لیا۔ مروان کے بعد اس کے ظالم بیٹے عبدالملک نے مکہ کا محاصرہ کر لیا ابن زبیر رضی اللہ عنہ شہید کر دیئے گئے اور ان کی لاش درخت پر لٹکا دی گئی۔ کوئی ایک کر بلا ہو تو بتائیں! یہ سارا قصہ کتاب البدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 260 میں مذکور ہے۔

ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حجاج نے حضرت اسماء سے کہا تیرا بیٹا منافق تھا۔ آج کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم کو برائہ کہو۔ دیکھو تمہارا ممدوح حجاج کس سے کیا کہہ رہا ہے؟

اس طرح مروان نے اپنا آلو سیدھا کیا۔ جب حکومت قبضہ میں آگئی تو یزید کے ماموں حسان بن مالک بکلی نے کہا حکومت خالد بن یزید کو دے دو۔ مروان نے یہ چالاکی کی کہ یزید کی بیوی اور خالد کی ماں کو اپنے نکاح میں لے آیا تا کہ خالد بن یزید بول ہی نہ سکے۔ ایک دن خالد کو مزید ذلیل کرنے کے لئے محفل میں کہا اے خالد اے نرم و نازک پیٹھ والی کے بیٹے! خالد نے اپنی ماں سے کہا اگر تو یہ کام نہ کرتی تو مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس کی ماں نے کہا تو کسی سے یہ بات ذکر نہ کرنا۔ میں اس مروان کو درست کر دوں گی۔ اس نے اپنی لونڈیوں کے ساتھ ساز باز کر کے مروان کے قتل کی ٹھان لی۔

جب مروان گھر آیا تو اس نے خالد کی ماں سے پوچھا کہ خالد نے میرے بارے میں تیرے ساتھ کوئی بات تو نہیں کی؟ اس نے کہا نہیں اور اسے مطمئن کر دیا۔ جب رات کو مروان سویا تو وہ مروان کے سینہ پر سر ہانہ رکھ کر خود اوپر بیٹھ گئی اور لونڈیاں بھی اوپر بیٹھ گئیں۔ اس طرح مروان خبیث مرا۔

مروان کی حکومت کے متعلق پیش گوئی تھی کہ بکری کی چھینک کے برابر یعنی بالکل تھوڑے دنوں کی ہوگی۔ اس نے صرف چھ ماہ حکومت کی۔ مروان نے یزید کے بیٹے کو حکومت دینے کی بجائے اپنے بیٹوں عبدالملک اور عبدالعزیز کے حق میں وصیت کر دی۔

اندکے پیش تو گفتم د بدل تر سیدم
کہ تو آزرده شوی در نہ خن بسیار است

حضرت علی علیہ السلام کا دور

جناب ابوطالب کا اسلام پر احسان

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”انہوں نے کہا جنہوں نے سب سے پہلے اسلام ظاہر کیا وہ سات اشخاص تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر، عمار رضی اللہ عنہ، سمیہ رضی اللہ عنہا، صہیب، بلال اور مقداد رضی اللہ عنہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کافروں سے محفوظ رکھا ان کے چچا ابوطالب کے سبب، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ان کی قوم کے سبب سے، اور باقی لوگوں کو مشرکوں نے پکڑا اور لوہے کے کرتے پہنائے اور ان کو دھوپ میں پگھلا دیا۔ سو کوئی ان میں سے ایسا نہ تھا جس نے مشرکوں کے ارادہ کی موافقت نہ کی ہو۔ (یعنی جو وہ کہلاتے کہہ دیا) مگر بلال کہ انہوں نے اپنی جان کو اللہ کی عظمت کے سامنے حقیر جانا۔ وہ اپنی قوم کے ہاتھوں ذلیل ہوئے۔ مشرکوں نے ان کو اپنے لڑکوں کے حوالے کر دیا تھا جو ان کو مکے کی گھاٹیوں میں لیے پھرتے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس حالت میں بھی احدا حد کہتے تھے۔“

(ابن ماجہ کتاب الایمان، باب فضائل اصحاب رضی اللہ عنہم رسول انفسا حضرت سلمان و ابوذر رضی اللہ عنہ،

مقداد رضی اللہ عنہ حدیث: 149)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابوطالب نے پالا تھا۔ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زبیر ابن عبدالمطلب کا ذکر کرتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ امام ابن اثیر نے اسد الغابہ جلد نمبر 15 پر

لکھا ہے کہ جب حضور ﷺ کی والدہ محترمہ اور دادا جناب عبدالمطلب وفات پا گئے تو کفالت جناب ابوطالب نے کی۔ جب جناب عبدالمطلب کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے تمام بیٹے بلا لیے اور ان کو وصیت کی۔ زبیر اور خواجہ ابوطالب جن کا اصل نام عبدمناف ہے، حضور ﷺ کے حقیقی چچا تھے اور جناب عبداللہ، تینوں کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ تھا۔ قرعہ خواجہ ابوطالب کے نام نکلا۔ انہوں نے آپ ﷺ کو لے لیا۔ بعض کہتے ہیں قرعہ اندازی نہیں ہوئی بلکہ خود حضور ﷺ کی مرضی پر انتخاب چھوڑ دیا گیا تھا اور انہوں نے ابوطالب کو چنا۔ کچھ کہتے ہیں کہ قرعہ اندازی ہوئی نہ انتخاب ہوا بلکہ خود جناب عبدالمطلب نے ہی جناب ابوطالب کو کہہ دیا کہ تم اس کی پرورش کرنا۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زبیر نے حضور ﷺ کو پالا۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ابوطالب کی زیر کفالت آ گئے اور یہ غلط ہے۔ کیونکہ زبیر معاہدہ حلف الفضول میں موجود تھے اور اس وقت رسول کریم ﷺ کی عمر مبارک 20 سال سے زیادہ تھی اور آپ ﷺ اس معاہدہ میں شامل تھے۔ اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ عبدالمطلب کی موت کے بعد 5 سال کے اندر اندر آپ ﷺ نے جناب ابوطالب کے ساتھ شام کا سفر کیا جب کہ عمر پاک 12 سال تھی اور یہ بات اس کی دلیل ہے کہ پہلے دن سے ہی جناب ابوطالب نے آپ ﷺ کی کفالت کی۔ اس کفالت کی طرف سورہ النضحیٰ کی آیت نمبر 6 میں اشارہ ہے جس میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا پھر ٹھکانہ دیا۔

امام ابن کثیر رحمہ اللہ ”البدایہ والنہایہ“ ج: 2 ص: 226 پر لکھتے ہیں:

”رسول کریم ﷺ اپنے دادا جناب عبدالمطلب کے بعد اپنے چچا جناب ابوطالب کے پاس رہے کیونکہ جناب عبدالمطلب نے جناب ابوطالب کو اس کی وصیت کی تھی۔ اور یہ کہ وہ آپ ﷺ کے حقیقی چچا تھے۔ ابن اطلق کہتے ہیں کہ جناب عبدالمطلب کے بعد جناب ابوطالب ہی آپ ﷺ کے تمام امور کے ذمہ دار رہے۔

امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری، ج: 8 ص: 194، حدیث: 3887 کی شرح باب ہی قصہ ابوطالب کے نام سے باندھا ہے جس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور رسول کریم ﷺ کا مکالمہ درج ہے جس میں حضور ﷺ نے جناب ابوطالب کی خدمات کا ذکر فرمایا۔

پھر امام نے لکھا کہ عبدالمطلب نے موت کے وقت جناب ابوطالب کو ہی وصیت کی تھی کہ وہ پرورش کریں۔ انہوں نے جوان ہونے تک حضور ﷺ کی پرورش کی۔ جب اعلان نبوت فرمایا تب بھی آپ ﷺ کی مدد کیلئے ابوطالب ڈٹے رہے حتیٰ کہ ان کو موت آ گئی۔ حضور ﷺ کی پرورش اور حفاظت کے بارے میں واقعات مشہور ہیں۔ پھر امام نے جناب ابوطالب کے مشہور اشعار میں سے دو شعر بھی لکھے جن کا ترجمہ یہ ہے:

اللہ کی قسم! وہ سب مل کر بھی تم تک نہیں پہنچ سکتے حتیٰ کہ ہم مٹی میں دفن نہ ہو جائیں۔ کعبہ کی قسم! تم لوگ جھوٹ بولتے ہو کہ ہاشمی تم کو محمد (ﷺ) دے دیں گے حتیٰ کہ جنگ لگ جائے اور پھر جو مارا جائے وہ مارا جائے۔“

ابوطالب حضور ﷺ کے بازو بنے رہے اور اپنی قوم کے مقابلہ میں مددگار رہے۔ جب ابوطالب فوت ہو گئے تو پھر قریش نے من مرضی کے ظلم کئے جو ابوطالب کی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ محمد بن اطلق ہشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں:

”میرے باپ عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب حضور ﷺ کو یہ دکھ دیئے گئے تو آپ ﷺ گھر میں بیٹھ گئے اور فرمایا قریش میرے ساتھ کوئی ناپسندیدہ کام نہ کر سکے حتیٰ کہ ابوطالب فوت ہو گئے۔“

ایک غلط فہمی کا ازالہ

شیعہ حضرات میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد محترم کا نام عمران تھا اور ان کی اولاد آل عمران ہے۔ یہ بات بالکل بے ثبوت ہے۔ الکافی کی شرح مرآۃ العقول میں باقر مجلسی نے بھی لکھا ہے:

”یہ بات بالکل غلط ہے بلکہ ان کا نام عبد مناف تھا اور بڑے بیٹے طالب کی وجہ سے ابو طالب کنیت تھی۔ ان کے نام عمران کے متعلق جتنی روایات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔“ (مرآة العقول ج: 5، ص: 234)

شانِ علیؑ

کسی عرب شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ آدمی کو اس کی لمبی عمر زندہ نہیں رکھتی بلکہ طولِ ثناء زندہ رکھتی ہے یعنی اس کی تعریف اسے ہمیشہ زندہ رکھتی ہے جو کہ لوگ اس کے مرنے کے بعد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر:

(1) ”حسن علیؑ و حسین علیؑ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان سے بڑھ کر ہے۔“

(سلسلة الاحادیث الصحیحة، ج: 2، ص: 428، حدیث: 796)

(2) حضرت علیؑ سے دوستی رکھے گا صرف مومن اور بغض صرف منافق رکھے گا۔

(مسلم کتاب الایمان باب الدلیل علی ان حب الانصار و علی من الایمان و علامتہ)

(3) من کنت مولاه فعلی مولاه یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا علیؑ مولا ہے، کی اسناد بہت زیادہ اور صحیح ہیں۔

(امام ابن حجرؒ، فتح الباری، ج: 7، ص: 74)

علامہ ناصر الدین البانیؒ نے حدیث ”من کنت مولاه“ کے طرق کو

”سلسلة الاحادیث الصحیحة“ ج: 4، ص: 330 تا 344 میں جمع کیا ہے۔ ان پندرہ

صفحوں میں انہوں نے بتایا: کس کس صحابی سے کس کس کتاب میں یہ حدیث آئی ہے، دس

صحابہ یعنی حضرت زید بن ارقم، سعد بن ابی وقاص، بریدہ اسلمی، حضرت علی، ابو ایوب

انصاری، براء بن عازب، عبداللہ بن عباس، انس بن مالک، ابو سعید خدری، ابو

ہریرہؒ سے یہ روایت مروی ہے۔ ساتھ ہی یہ دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ جو علی سے محبت

کرے تو اُس سے محبت رکھ اور جو اس سے عداوت کرے تو اس سے عداوت رکھ۔

البانیؒ لکھتے ہیں:

”یہ سب مجھے اس لیے لکھنا پڑا کہ ابن تیمیہؒ نے ”منہاج السنہ“ میں اس

حدیث کو ضعیف قرار دے دیا، اور محبت والے ٹکڑے کو من گھڑت قرار دے دیا۔

یہ ان کے مبالغات میں سے ہے اور انہوں نے طرق جمع کئے بغیر حکم لگا دیا۔“

ملا علی قاریؒ اور امام شوکانیؒ فرماتے ہیں:

”اگر یہ حدیث صحیح نہیں تو پھر کوئی حدیث صحیح نہیں۔“

علامہ البانی نے ج: 4، ص: 361، سے آگے حدیث ثقلین کے طرق جمع کر کے بحث

کی اور اس کو صحیح قرار دیا۔ فرمان رسالت ہے:

”علیؑ سے محبت خدا اور رسول ﷺ سے محبت ہے اور ان سے بغض خدا

اور رسول ﷺ سے بغض ہے۔“

(سلسلة الاحادیث الصحیحة، ج: 3، ص: 1299)

”جس نے علیؑ سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا اور جس نے

علیؑ سے بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔“

(صحیح الجامع الصغیر ج: 2، ص: 596 اور سلسلة الاحادیث الصحیحة

البانی ج: 3، ص: 1299)

”جو جس سے محبت رکھتا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔“

(بخاری کتاب المناقب باب مناقب عمر ابن الخطاب، کتاب الادب باب

ما جاء فی قول الرجل و بلك، کتاب الادب باب علامتہ حب اللہ عزوجل)

جنگ خیبر کے موقع پر حضور ﷺ نے فرمایا:

”کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا۔ پھر دوسرے

دن حضرت علیؑ کو جھنڈا دیا۔“

(بخاری کتاب المناقب باب مناقب علی ابن ابی طالب)

دوسری حدیث میں فرمایا:

”کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس سے اللہ و رسول محبت کرتے ہیں یا یوں فرمایا جو اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہے۔“ (حوالہ ایضاً)

کتاب المغازی باب غزوہ تبوک

حضرت براء بن عازب سے روایت ہے:

”حضور ﷺ نے فرمایا علیؑ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں

(بخاری کتاب المغازی باب عمرہ القضاة)

حضرت بریدہ سلمیؓ کو حضور ﷺ نے حضرت علیؑ سے دشمنی سے منع فرمایا۔“ (کتاب المغازی باب علی ابن ابی طالب)

عمران ابن حصینؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ”علیؑ مجھ سے ہیں میں علیؑ سے ہوں اور وہ دوست ہے ہر مومن کا میرے بعد

(ترمذی، ابواب المناقب باب مناقب علی ابن ابی طالب)

حضور ﷺ نے فرمایا:

”جس کا میں مولا ہوں اس کا علیؑ بھی مولا ہے۔“ (ترمذی ایضاً)

حضور ﷺ نے فرمایا:

”علیؑ تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم میرے ساتھ ایسے ہی ہو جیسے موسیٰؑ کے ساتھ ہارونؑ تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔“

(حوالہ ایضاً، کتاب المغازی باب غزوہ تبوک)

سب سے پہلے اسلام لانے والے اور نماز پڑھنے والے علیؑ ہیں۔ (ایضاً)

حضرت علیؑ نے فرمایا:

”اس اللہ کی قسم جس نے دانہ چیرا اور گھاس اُگائی رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے

عہد کیا تھا کہ مجھ سے محبت صرف مومن رکھے گا اور بغض صرف منافق رکھے گا۔“

(مسلم کتاب الایمان باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء)

ناصحی حضرت علیؑ کی شان کم کرنے کے لئے یہ بھی کہتے ہیں:

”مرحب کو علیؑ نے نہیں بلکہ محمد بن مسلمہؓ نے قتل کیا تھا، اس بارے میں

ایک ناصحی نے حافظ مغرب امام یوسف بن ابن عبدالبرؓ کی ”کتاب

الاستیعاب کا جھوٹا حوالہ بھی دیا ہے جبکہ اصل صورت حال یہ ہے کہ امام ابن

عبدالبرؓ الاستیعاب کی ج: 3، ص: 434 نمبر 2372، محمد بن مسلمہ الحارثیؓ

کے بارے میں لکھتے ہیں کہ نامعلوم لوگ کہتے ہیں کہ محمد بن مسلمہؓ نے خیبر

میں مرحب یہودی کو قتل کیا اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت زبیرؓ نے قتل کیا، مگر

صحیح بات جس پر سیرت لکھنے والے اور حدیث کے زیادہ عالم متفق ہیں وہ یہ ہے

کہ وہ علیؑ تھے جنہوں نے خیبر میں مرحب یہودی کو قتل کیا۔“

امام ابن الاثیرؓ نے بھی یہی بات لکھ کر رد کیا ہے کہ مرحب کو حضرت مسلمہؓ یا

حضرت زبیرؓ نے قتل کیا بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت علیؑ نے قتل کیا،

صحیح مسلم میں طویل حدیث میں مسلمہ بن اکوعؓ غزوہ خیبر کا بیان کرتے ہیں جس

کے آخر میں فرمایا کہ علیؑ نے مرحب کے سر پر ایک ضرب لگائی اور وہ قتل ہو گیا پھر اللہ

تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح دی۔ (کتاب الجہاد و السیر باب غزوہ ذی قرد وغیرہا)

نسائی میں زبیرؓ سے روایت ہے کہ علیؑ سے فرمایا تھا کہ تجھ سے محبت صرف

مومن کرے گا اور بغض صرف منافق کرے گا۔ (کتاب الایمان و شرائعہ باب علامۃ الایمان)

اہل بیتؑ کی محبت فرائض ایمان سے ہے نہ کہ لوازم سنت سے (شاہ عبدالعزیز

محدث دہلوی۔ فتاویٰ عزیزی کامل ص: 380-381)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ لکھتے ہیں کہ تمام اہل سنت اس بارے میں پر متفق

ہیں کہ کل اہل بیت کی محبت مسلمانوں مرد و عورت پر فرض و لازم ہے۔ بلکہ ارکان ایمان میں

داخل (تحفۃ اثنا عشریہ ص: 77)

محبت حضرت امیرؓ اور اہل بیتؑ اور تعریف ان کی ثناء اور منقبت پڑھنا ان

بزرگواروں کی، بالاتفاق عبادت ہے، لیکن تمامی عبادت قبول ہونے کے واسطے ایمان شرط ہے۔ (تحفۃ المشرب ص: 732)

شیخ محمد بن احمد سفارینی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے اپنے والد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت علی علیہ السلام اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کیا تو فرمانے لگے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ علی علیہ السلام کے دشمن بہت تھے۔ انہوں نے علی علیہ السلام میں کوئی نقص نہ پایا تو یہ لوگ اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے (امیر معاویہ کی طرف) جس نے علی علیہ السلام سے جنگ لڑی تھی اور ان دشمنان علی علیہ السلام نے امیر معاویہ کی تعریف بڑھا چڑھا کر پیش کی جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے خلاف ایک چال تھی۔ (الوامع انوار البہیہ ج: 2، ص: 339، فتح الباری، ج: 7، ص: 104)

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لائیں، پھر حضرت علی علیہ السلام پھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ہوئی تو ایمان لائے۔

(سلسلة الاحادیث الصحیحة البانی، ج: 7، ص: 1732 تا 1734، حدیث: 4003 ترمذی ابواب المناقب باب مناقب علی علیہ السلام ابن ابی طالب)

مسلم
اول
شہ
مرداں
علی
عشق
راسر
مایہ
ایمان
علی

مسند احمد میں حدیث: 11292 حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حدیث نمبر 11839 میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کی شکایت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا: ”لوگو! علی علیہ السلام کا شکوہ نہ کیا کرو۔ اللہ کی قسم! وہ اللہ کی راہ میں بڑا سخت آدمی ہے۔“

حضرت علی علیہ السلام کا انتخاب

بیعت علی علیہ السلام

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت علی علیہ السلام کے پاس جمع ہوئے اور ان سے بیعت کرنا چاہی، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد حالات بہت بگڑ گئے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے انکار اس لیے کیا کہ ان کے خیال میں لوگ عیش و عشرت کے عادی ہو چکے تھے اور ان کا واپس آنا بہت مشکل تھا۔ ان کا اندیشہ بعد میں سچ ثابت ہوا۔ لوگوں کی عادات بہت بدل چکی تھیں جن کا حال حضرت عمر رضی اللہ عنہ و عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے تحت ہم درج کر آئے ہیں۔

مگر لوگ تین دن تک لگا تار اصرار کرتے رہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جب تک اہل شوریٰ اور اہل بدر مجھ پر اتفاق کا اظہار نہ کریں اس وقت تک میری خلافت منعقد نہیں ہو سکتی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری بیعت خفیہ نہیں ہو سکتی، اس کیلئے مسلمانوں کی رضائے عام لازم ہے۔ (طبری، ج: 3، ص: 450)

پھر سب لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع ہونے کا مشورہ دیا اور مہاجرین و انصار صحابہ کی اکثریت نے آپ سے بیعت خلافت کی۔

حضرت علی علیہ السلام کی باری پہلے کیوں نہ آئی؟

حضرت علی علیہ السلام کی باری اس لیے نہ آئی اور جب آئی تو ان کو چلنے نہ دیا گیا کیونکہ معاشرہ ان کے قابل نہ رہا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام ان کے کسی کام کے نہ تھے۔ لوگ جس راہ پر چل پڑے تھے اس پر حضرت علی علیہ السلام جیسا خلیفہ ان کو درکار نہ تھا۔ حضرت علی علیہ السلام

کے بارے میں سب کو معلوم تھا کہ وہ اصولے ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ جو کچھ قرآن و سنت میں حکم ہیں، وہ ان پر کاربند رہے، چاہے حکومت رہے نہ رہے یا گورنر بگڑ جائیں۔ لوگوں کو دنیاوی زندگی پیاری ہو چکی تھی۔ حضور ﷺ کے بعد جلد ہی وہ وقت آ گیا جس کا آپ ﷺ کو خطرہ تھا۔

ایک گروہ ان لوگوں کا تھا جو نہیں چاہتے تھے کہ خلافت و نبوت بنو ہاشم میں اکٹھی ہو جائے۔ صحیح بخاری میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ہے کہ ایک سال حضرت عثمان کی نکیر پھوٹی اور لوگ ان کی زندگی سے مایوس ہو گئے۔ اس وقت مروان اور بنو امیہ کے دیگر افراد نے حضرت عثمان سے کہا اپنے بعد زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام کو خلیفہ نامزد کر دیں تاکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا امکان نہ رہے۔

(ابن حجر مفتح الباری، ج: 7، ص: 79، حدیث: 3717-3718 اور مسند احمد حدیث نمبر 455-456، بخاری کتاب المناقب باب مناقب بن زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سخت اصول پرستی کی وجہ سے لوگ ان کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اگر علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا تو لوگ اختلاف کریں گے۔

(ابن حجر مفتح الباری، ج: 7، ص: 67)

لوگوں کی حالت میں تبدیلی کا واضح ثبوت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 40 دن بعد فوت ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت خود بھی کی اور اپنے بیٹوں کو ان کا ساتھ دینے کی وصیت کی۔ (فتح الباری، ج: 13، ص: 40) صحیح بخاری میں ایک اور روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ مجھ پر ایسا گزر چکا ہے جب میں کسی بھی شخص سے لین دین کا معاملہ کر لیا کرتا تھا۔ اب آج کے دور میں (دور عثمان رضی اللہ عنہ) تو یہ حال ہے کہ میں کسی سے معاملہ ہی نہیں کرتا سوائے فلاں اور فلاں کے۔

(بخاری کتاب الرقاق باب رفع الامانة)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے راستے میں رکاوٹیں کیوں کھڑی ہوئیں؟

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب مسلمانوں کو برابر وظیفہ دیتے رہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بار بار اصرار کے باوجود انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں مہاجر و ساقون الاولون وغیرہ صحابہ کو انکی خدمات اسلام کے پیش نظر کم و بیش وظائف دینا شروع کر دیئے، جس کی وجہ سے بعض لوگ بہت امیر ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں وظائف کے فرق کے ساتھ ساتھ جاگیریں دینا بھی شروع کر دیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں میں جاگیردار اور سرمایہ دار طبقے بہت پروان چڑھے اور غریب غریب تر ہو گئے۔ امیر لوگ عیش کے عادی ہو گئے اور طبقاتی تقسیم بڑھ گئی۔ اس تفصیل کا نتیجہ طبقاتی تفاوت کی شکل میں سامنے آیا۔

لوگوں کو معلوم تھا کہ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو یہ ہمیں واپس اسی راہ کی طرف لوٹا دیں گے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ والی تھی لہذا مشکل ہوگی اور ہوا بھی یہی!

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد پہلی تقریر کرنے سے پہلے حضور ﷺ کی دستار مبارک سر پر رکھی، ان کی کمان پہنی اور فرمایا کہ اللہ نے ہم پر انعام کیا، ہم میں سے رسول بھیجا، اسلام جیسی دولت عطا فرمائی، اور ایمان نصیب کیا، بیت المال اگر میرا ذاتی مال بھی ہوتا تو سب میں برابر تقسیم کرتا مگر یہ تو ہے ہی مسلمانوں کا مشترکہ!

پھر خدام سے کہہ اتم رقم گنو۔ پھر فرمایا طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ اور اس غلام سب کو تین تین دینار دے دو۔ طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ لینے سے انکار کر دیا اور بعد میں جنگ جمل کیلئے چل پڑے۔

ولید بن عقبہ بن ابی معیط نے کہا علی رضی اللہ عنہ تم نے جنگ بدر میں میرا باپ قتل کیا۔ پھر میرے چچا حکم بن عاص کا مذاق اڑایا تھا جب اسے جلاوطن کیا گیا اور اب غلاموں کے برابر 3 دینار مجھے دے رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا جو طریقہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تھا وہ برقرار رہے گا اور سب کو برابر ملے گا۔

یہ لوگ اسی وقت مسجد میں الگ ہو کر بیٹھ گئے۔ کوئی شام چلا گیا اور کوئی عراق چلا گیا۔ اس طرح حضرت علی علیہ السلام کی حکومت پہلے دن ہی سازشوں کا شکار ہو گئی اور ان کے راستے میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں، اسی وجہ سے تین دن تک حضرت علی علیہ السلام خلیفہ بننے سے انکار کرتے رہے کہ لوگوں کو دولت کی عادت پڑ چکی ہے اور اسے ختم کرنا مشکل ہے۔ پانچویں فوجی کمانڈر بھی عثمان رضی اللہ عنہ کو اسی لیے حضرت علی علیہ السلام کے مقابلہ میں پسند کرتے تھے۔ انہی لوگوں نے بعد میں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ابن ماجہ نے روایت لکھی ہے کہ حضور ﷺ کے کفن دفن سے فارغ ہوتے ہی ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے دل دور نبوی والے نہیں رہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ سب سے بہتر دور میرا ہے پھر اس کے بعد والا پھر اس کے بعد والا اس کی تشریح عام طور پر علماء صدیوں کے لحاظ سے کرتے ہیں مگر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ان کی تشریح مختلف کی ہے اور وہ بات دل کو لگتی بھی ہے کہ سب سے بہترین دور دور نبوی پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کا دور، پھر حدیث کے مطابق جھوٹ پھیل گیا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ دور نبوی اور پہلے دو خلفاء کے بعد امانت کی جگہ خیانت آ گئی۔ (فتح الباری ج: 13، ص: 38)

متنازعہ گورنروں کی تبدیلی

حضرت علی علیہ السلام نے متنازعہ گورنر پہلے دن بدل دیے، جب لوگوں نے کہا کہ ابھی ان لوگوں کو برقرار رہنے دیں، جب حکومت مضبوط ہو جائے پھر بدل دیں تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا اگر یہ گورنر ایک دن بھی برقرار رہے تو غلط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بھی اعتراض تھا کہ یہ لوگ گورنر بننے کے لائق نہیں۔ فرمایا میں گمراہ کرنے والوں کو گورنر نہیں رکھ سکتا۔ ان کی جگہ انصار میں سے گورنر بنائے جن کا حق بڑی مدت سے مارا جا رہا تھا، حضرت سہل بن حنیف بدری انصاری کو شام کا گورنر بنا کر بھیجا، شام کی سرحد پر فوج نے روک لیا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے چارج دینے سے انکار کر کے بغاوت کر دی۔

روز اول سے فتنوں کا آغاز

حضرت علی علیہ السلام نے خلیفہ منتخب ہوتے ہی متنازعہ گورنر بدل دیے لیکن ان لوگوں کا رد عمل بہت سخت تھا۔ گورنر خراسان عبداللہ بن عامر، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھانجا تھا۔ بیت المال لوٹ کر مکہ بھاگ گیا، وہاں جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو قائل کیا اور حضرت علی علیہ السلام کے خلاف قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کے بہانے بغاوت کر دی۔ اسی طرح یمن کے گورنر نے بھی سرکاری خزانہ لوٹا اور مکہ پہنچ گیا۔ ادھر مدینہ سے حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما و طیفہ کی مساوی رقوم سے ناراض ہو کر مکہ چلے گئے اور وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مل کر قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پر بغاوت کر دی۔ کوئی شام چلا گیا۔

یہاں پر زرار رکھنے اور غور کیجئے! جب امام حسین علیہ السلام پر تنقید کرنا مقصود ہو تو حدیث کا حوالہ دے دے کر کہتے ہیں کہ یزید چاہے زانی تھا، شرابی تھا مگر کلمہ گو تھا لہذا اس کے خلاف بغاوت اور خردوج ناجائز تھا اور یہ کہ مسلمان حاکم کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے۔ ان لوگوں سے پوچھیں کیا علی علیہ السلام خلیفہ نہیں تھے؟ وہ تو زانی اور شرابی بھی نہیں تھے۔ پھر امیر معاویہ نے ان کے خلاف بغاوت کیوں کی؟ سیدنا علی علیہ السلام کے حق میں تو کسی کو حدیث یاد نہیں آتی کہ کلمہ گو حاکم ظالم بھی ہو تو بغاوت نہیں کر سکتے۔

امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”خلیفہ برحق سیدنا علی علیہ السلام کو ایک دن بھی سکون سے حکومت کرنے کا موقعہ نہیں دیا گیا۔“ (سیر اعلام النبلاء، ج: 4، ص: 71)

امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”حضرت علی علیہ السلام کو اتنا بے بس کر دیا گیا کہ انہوں نے دعا کی ”یا اللہ! مجھے ان لوگوں کے درمیان سے اٹھالے۔“ (البدایہ والنہایہ، ج: 7، ص: 355)

بعض اکابر صحابہ مثلاً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نیک نیتی سے غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا لیکن جس فتنے سے وہ بچنا چاہتے تھے اس سے بہت بڑے

قتنے میں وہ بالواسطہ مددگار بن گئے۔ انہوں نے سیدنا علیؑ کی بیعت نہ کی اور ان کی علیحدگی نے عوام کے دلوں میں شک ڈالی۔ خلاف راشدہ کے نظام کو از سر نو بحال کرنے کے لیے جس دل جمعی کے ساتھ امت کو حضرت علیؑ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تھا وہ نہ حاصل نہ ہو سکا جبکہ اس تعاون کے بغیر آپ اس کام کو انجام نہ دے سکتے تھے۔

یہ الگ بات کہ وہ بزرگ بعد میں بہت پچھتائے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔

ان بزرگوں نے خود سیدنا علیؑ کا طرز عمل بھی سامنے نہ رکھا جو انہوں نے مشورہ و انتخاب خلیفہ میں ان کی شرکت نہ ہونے کا گلہ ہونے کے باوجود، حضرت ابو بکرؓ کی خلافت میں اختیار کیا۔

مشہور شیعہ عالم علامہ باقر مجلسیؒ نے بھی یہی لکھا ہے:

”حضرت علیؑ نے حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کر لی تھی۔ اور اپنے ساتھیوں سے بھی ان کی بیعت کرنے کو کہا تھا۔

(مرآة العقول ج: 26 ص: 188-191-213-331)

الکافی کی کتاب ”الروضة“ کے آخری حصہ علامہ طبرسیؒ کی کتاب

”الاحتجاج“ اور ”نہج البلاغہ“ کے مولف سید رضی کے بھائی سید مرتضیٰ کی کتاب

”الشافی“ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔

غیر جانبدار رہنے والے اکابرؓ کا اظہارِ ندامت

سورہ حجرات کی آیت نمبر 49 کے تحت ابن العربیؒ اپنی تفسیر احکام القرآن میں لکھتے ہیں:

”حضرت علیؑ اور ان کے خائفین کی جنگوں میں غیر جانبدار رہنے والے

اکابر مثلاً حضرت سعد بن ابی وقاصؓ بہت پچھتائے اور روئے۔“

(ج: 1 ص: 1707)

وہ لکھتے ہیں:

”جب امیر معاویہ کو تسلط حاصل ہو گیا تو لوگوں نے سعد بن ابی وقاصؓ سے کہا نہ آپ صلح کرنے والوں میں شامل ہوئے نہ باغیوں سے لڑے تو حضرت سعدؓ نے کہا میں باغیوں سے نہ لڑنے اور علیؑ کا ساتھ نہ دینے پر شرمندہ ہوں۔ بعد میں عبداللہ بن عمرؓ نے کہا میں قرآن کی اس آیت سے بہت شرمندہ ہوں، باغیوں سے لڑنا چاہیے تھا، غیر جانبداری غلطی تھی۔“

(فتح الباری ج: 13 ص: 72)

مشہور اہل حدیث عالم مولانا عبدالرحمن مبارک پوری ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی میں لکھتے ہیں کہ سچے فریق کی مدد کرنا اور جھوٹے سے لڑنا ہی صحیح مذہب ہے۔

یہ جو احادیث میں آیا ہے کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے سے جنگ لڑنے لگو، اور یہ کہ قاتل و مقتول دونوں دوزخی ہیں اور یہ کہ قتل کے زمانہ میں کھڑے سے بیٹھا اور بیٹھے سے لیٹا بہتر ہے، تو اس بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ سب احکام دنیا کی خاطر لڑنے والوں کے بارے میں ہیں، خاص طور پر ان جنگوں کے بارے میں ہیں جو قرب قیامت میں ہوں گی۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اپنے آخری زمانہ میں کہا:

”مجھے کسی بات پر اتنا افسوس نہیں ہے جتنا اس پر ہے کہ میں نے علیؑ کا ساتھ کیوں نہ دیا۔“

(ابن سعد: طبقات، ج: 4 ص: 187، ابن عبدالبر: الاستیعاب ج: 1 ص: 30-37)

ابراہیم الحنفیؒ کہتے ہیں:

”مسروق بن اجدع حضرت علیؑ کا ساتھ نہ دینے پر توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔“

(ابن عبدالبر: الاستیعاب، ج: 1 ص: 30)

”حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو عمر بھر اس بات پر سخت ندامت رہی کہ

وہ حضرت علیؑ کے خلاف جنگ میں امیر معاویہ کے ساتھ کیوں شریک ہوئے تھے۔“
(الاستیعاب، ج: 1، ص: 371)

حضرت علیؑ کی اتنی مخالفت کیوں تھی؟

حضرت علیؑ سے لڑنے والوں اور امام حسینؑ کو شہید کرنے والوں کے شجرے دیکھو کہ وہ کن کی اولاد ہیں، ان کے بڑے کس کس جنگ میں قتل ہوئے اور کس نے قتل کیے؟ تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ بعد کی پیداوار نہیں بلکہ دیرینہ دشمنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انصارِ نبویؐ کا واقعہ حرا میں برباد ہونا بھی سامنے رکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ پرانے بدلے لیے جارہے ہیں۔

یزید پاگل نہیں تھا بلکہ اس نے بدر میں قتل ہونے والے اپنے بڑوں کا بدلہ امام حسینؑ سے لیا۔ انصار اور علیؑ کے حق میں اتنی تاکید اور انصار کو بار بار فرمانا کہ تمہاری حق تلفی ہوگی، تفصیل ابھی آگے آتی ہے، یہ سب اس لیے تھا کہ حضور ﷺ کو معلوم تھا کفار کی اولاد کلمہ پڑھ چکی ہے مگر انہوں نے دشمنی نہیں بھلائی ہے۔ ان کے بڑے انصار و علیؑ کی تلوار سے قتل ہوئے، وہ یہ کیسے بھول سکتے؟ جنگ بدر کے مقتولین دیکھ لیں، ستر (70) میں سے چوبیس (24) حضرت علیؑ کی تلوار سے قتل ہوئے۔ علیؑ کی تلوار ان لوگوں کے لئے مصیبت بن گئی۔ جن کے نانے دادے باپ اور بھائی علیؑ نے قتل کئے تھے، انہوں نے بدلہ تو لینا ہی تھا۔

امیر معاویہؓ کا بھائی حنظلہ اور ناعقبہ جنگ بدر میں علیؑ نے قتل کئے، عقبہ بن ابی معیط جس نے حضور ﷺ پر اوجھڑی ڈالی تھی وہ جنگ بدر میں حضرت علیؑ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ حضرت عثمانؓ کے دور میں اسی کا نص قرآن سے فاسق بیٹا ولید بن عقبہ گورنر بن گیا۔ اب علیؑ کی شامت تو آتی تھی اور علیؑ کہ ہم نام بچوں کے قتل کا حکم دیتا تھا اور جمعہ وعیدین کے خطبہ میں علیؑ پر لعنت تو کرتا تھی، مقتول بھائی اور نانا کس کو بھولتے ہیں؟

بنو امیہ کی حضرت علیؑ سے نفرت ابی رافع کہتے ہیں:

”مروان نے ابو ہریرہؓ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام گورنر مقرر کیا اور خود مکہ کو گیا۔ ابو ہریرہؓ نے جمعہ کی نماز پڑھائی جس میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون پڑھی۔ نماز کے بعد میں نے ان سے کہا آپ نے وہ سورتیں پڑھیں جو علیؑ کو فہ میں پڑھتے تھے۔ ابو ہریرہؓ نے کہا میں نے رسول کریم ﷺ کو سنا کہ وہ جمعہ کی نماز میں یہی سورتیں پڑھتے تھے۔“
(مسلم کتاب الجمعہ)

دیکھئے حضرت علیؑ کی دشمنی میں لوگ سنت بھی چھوڑ گئے تھے اور جب سنت کے مطابق جمعہ کی نماز پڑھائی گئی تو راوی کو کتنا عجیب لگا۔ اگر یہی سورتیں مروان نے بھی کبھی پڑھی ہوتیں تو یہ معمول کی بات تھی اور پوچھنے کی نوبت نہ آتی۔
تہذیب التجذیب میں امام ابن حجرؒ نے لکھا ہے:

”بنو امیہ نے حکم دیا تھا کہ پورے ملک میں جس بچے کا نام علی ہو اس کو قتل کر دو۔ یہ نام رکھنے پر پابندی لگا دی گئی۔ (تہذیب التجذیب، ج: 7، ص: 319)
ابن جریر طبریؒ لکھتے ہیں:

”بنو امیہ کے ڈر سے حدیث مہملہ سناتے ہوئے عامر شعی نے حضرت علیؑ کا نام تک نہ لیا۔“
(ج: 3، ص: 383، حدیث: 7177)

سب علیؑ

شان علیؑ کے تحت جو احادیث ذکر ہوئیں ان میں کئی ایک میں فرمایا گیا کہ اے علیؑ تجھ سے محبت کرے گا صرف مومن اور بغض رکھے گا صرف منافق! اب ارشاد نبویؐ کی صداقت ملاحظہ فرمائیں اور فیصلہ کریں کہ حضرت علیؑ کو گالیاں دینے والے اور

لعنت کرنے والے کس صف میں کھڑے ہیں۔ سیدنا علی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کو گالی دینا نہ صرف گالی بلکہ غیبت کو بھی شامل ہے۔

سیدنا علی علیہ السلام کا نام لے کر حضور ﷺ کو گالی دینے کا خیال ہمارا تراشا ہوا نہیں بلکہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا فیصلہ ہے۔ ابو عبد اللہ اللہ اللہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا کیا تمہاری موجودگی میں رسول اللہ ﷺ کو گالیاں دی جا رہی ہیں؟ میں نے کہا معاذ اللہ یا سبحان اللہ یا اسی طرح کے الفاظ کہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ ”جو علی کو گالی دیتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے۔“

(مسند احمد حدیث: 27284 مسند النساء مرویات ام سلمہ، ج: 12، ص: 112)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا تمہارے منبروں پر رسول اللہ ﷺ کو گالیاں دی جاتی ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ علی علیہ السلام اور ان سے محبت کرنے والوں پر لعنت۔ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ حضور ﷺ سب سے زیادہ محبت علی علیہ السلام سے کرتے تھے۔

(البانی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، ج: 7، صجز 2 حدیث 3332، مسند ابو یعلیٰ ج: 12، ص: 444، 445، طبرانی فی المعجم الاوسط ج: 6، ص: 389 حدیث 5828، المعجم الصغیر، ج: 2، ص: 21، المعجم الکبیر، ج: 23، ص: 323، حدیث 738)

امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”مروان گورنر مدینہ ہوتے ہوئے برسر منبر حضرت علی علیہ السلام پر لعنت کرتا تھا۔“ (الہدایہ والتہایہ، ج: 8، ص: 91)

ایک مرتبہ مغیرہ بن شعبہ کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے دائیں بائیں اہل کوفہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ

(حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی اور عشرہ مبشرہ میں شامل) آگئے۔ مغیرہ نے انہیں خوش آمدید کہا اور چار پائی کی پانکٹی کے پاس بٹھالیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک کوئی مغیرہ کے سامنے کھڑا ہوا اور کسی کو گالیاں دینے لگا۔ حضرت سعید نے پوچھا یہ کس کو گالیاں دے رہا ہے۔ مغیرہ نے کہا حضرت علی علیہ السلام کو، سعید بن زید نے تین مرتبہ مغیرہ کا نام لے کر پکارا اور کہا تیری موجودگی میں حضور ﷺ کے صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور تو ان کو منع نہیں کر رہا۔ میں گواہی دیتا ہوں اور میرے کانوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا اور دل نے محفوظ رکھا اور کوئی جھوٹی بات ان سے روایت نہیں کرتا کہ نبی ﷺ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ جنت میں ہوں گے، عمر، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اور سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ جنت میں ہوں گے اور ایک دسواں مومن بھی جنت میں ہوگا جس کا نام میں چاہوں تو بتا سکتا ہوں۔ اہل مسجد نے باوازی بلند نہیں قسم دے کر پوچھا کہ اے صحابی رسول! وہ دسواں آدمی کون ہے؟ فرمایا تم مجھے اللہ کی قسم دے رہو، اللہ کا نام بہت بڑا ہے، وہ دسواں آدمی میں خود ہوں۔ اس کے بعد سعید بن زید رضی اللہ عنہ دائیں طرف چلے گئے اور فرمایا خدا کی قسم! وہ ایک جنگ جس میں کوئی نبی ﷺ کے ساتھ شریک ہوا اور اس میں اس کا چہرہ عیار آلود ہوا، وہ تمہارے ہر عمل سے افضل ہے اگرچہ تمہیں عمر نوح علیہ السلام ہی مل جائے۔

(مسند احمد، المختارہ ضیاء المقدسی، صحیح الجامع الصغیر،

ص: 71، ج: 1)

اس مضمون کی روایت مسند احمد میں نمبر: 1631-1637-1638-1644-1645

پر موجود ہیں۔ ابن خلدون اپنی تاریخ ج: 3، ص: 11 پر لکھتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ کوفہ کی گورنری کے دور میں اکثر اپنی مجالس اور خطبوں میں علی علیہ السلام پر طعن و تعریض کیا کرتے تھے۔

مغیرہ بن شعبہ نے حضرت علی علیہ السلام پر لعنت کی تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا تو علی علیہ السلام پر لعنت کر رہا ہے حالانکہ نبی ﷺ نے مردوں کو برا کہنے سے منع کیا ہے؟

(البانی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ج: 5، ص: 520 حدیث نمبر 2397)

ابن کثیر لکھتے ہیں:

”مغیرہ بن شعبہ کوفہ کے گورنر تھے تو وہ خطبہ جمعہ میں عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی تعریف کرتے اور جب بھی علی علیہ السلام کا ذکر کرتے تو تنقیص کرتے۔ اس پر جبر بن عدی رضی اللہ عنہ غضبناک ہو کر احتجاج کرتے۔“

(البدایہ والنہایہ ج: 5، ص: 50)

علامہ احمد محمد شاہ رحمہ اللہ نے مسند کے اپنے بخشی نسخے کی ج: 5، ص: 108، پر ایسی تمام روایات کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو مذی ابواب البر و الصلہ باب ماجاء فی الشتم میں مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ”مردوں کا گالی مت دو کیونکہ اس سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔“ جمعہ کے خطبہ میں سیدنا علی علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی تھیں۔ پھر عمر بن عبدالعزیز نے اس کی جگہ آیت پڑھنا شروع کی ان اللہ یا ممر بالعدل (مطالعہ قاری حنفی برقاۃ شرح مشکوٰۃ ج: 3، ص: 254)

امام حزم رحمہ اللہ باوجود اموی ہونے کے لکھتے ہیں:

”علی علیہ السلام وابن زبیر رضی اللہ عنہما پر لعنت کرنے والوں پر اللہ لعنت کرے۔“

(المحلی ج: 5، ص: 6)

بنو امیہ کے دور کا گورنر مکہ خالد بن عبداللہ القسری مکہ کے منبر سے خطبہ جمعہ میں علی علیہ السلام کو گالیاں دیتا تھا۔ (ابن حجر تہذیب المعجم ج: 13، ص: 102)

امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”وہ ظالم اور ناصبی (دشمن اہل بیت) تھا۔“

(میزان الاعتدال ج: 1، ص: 633، نمبر: 2436)

بنو امیہ نے حضرت علی علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لئے یہ شگوفہ بھی چھوڑا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت حضرت علی علیہ السلام نے لگائی۔ بخاری میں ہے کہ ولید بن عبدالملک بن مروان نے امام ابن شہاب زہری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تجھے یہ خبر ملی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت حضرت علی علیہ السلام نے لگائی؟ زہری نے کہا نہیں! بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں کہ علی علیہ السلام ان کے بارے میں خاموش تھے۔ (بخاری کتاب المغازی باب حدیث الافک)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے: ”مردوں کو برا نہ کہو انہوں نے اپنے کئے کا بدلہ پالیا۔“ (بخاری کتاب الرقاق باب مکررات الموت)

حضرت علی علیہ السلام کو گالی نہ دینے والے سے امیر معاویہ جواب طلبی کرتے تھے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

”معاویہ نے مجھے کہا کہ تم ابوتراب علیہ السلام کو گالیاں کیوں نہیں دیتے؟ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا تین باتوں کی وجہ سے جو رسول اللہ ﷺ نے فرمائیں میں علی علیہ السلام کو گالی نہیں دوں گا۔ اگر ان میں سے مجھے ایک بھی حاصل ہوتی تو مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہے۔ میں نے سنا رسول کریم ﷺ سے اور آپ علیہ السلام نے کسی لڑائی پر جاتے وقت ان کو مدینہ میں بطور نائب چھوڑا۔ انہوں نے (علی علیہ السلام) کہا یا رسول اللہ ﷺ! آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں، فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہارا درجہ میرے ساتھ ایسا ہے جیسا مویٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا تھا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں نے سنا رسول ﷺ جنگ خیبر کے دن فرماتے تھے کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ و

رسول اللہ ﷺ سے محبت رکھتا ہوا اور وہ دونوں اس سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ سن کر ہم انتظار کرتے رہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا علیؑ کو بلاؤ، وہ آئے تو ان کی آنکھیں دکھتی تھیں۔ آپ ﷺ نے ان کی آنکھوں پر تھوک لگایا اور جھنڈا ان کو دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دی ان کے ہاتھ پر اور جب یہ آیت (مباہلہ) اترتی کہ بلاؤ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو تو آپ علیؑ نے بلایا حضرت علیؑ و فاطمہؑ و حسنؑ و حسینؑ کو پھر فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔

(مسلم کتاب الفضائل باب من فضائل علی ابن ابی طالب، ترمذی ابواب المناقب باب مناقب علیؑ ابن ابی طالب)

امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ، ج: 7، ص: 341، پر لکھتے ہیں:

”ان باتوں کے بعد سعد بن ابی وقاصؓ نے کہا آج کے بعد اے معاویہ میں تیرے گھر نہیں آؤں گا اور چادر جھٹک کر باہر نکل گئے۔

بنو امیہ میں حضرت علیؑ کو گالی دینا شاید ثواب کا کام سمجھا جاتا تھا۔ ہل ابن سعد روایت کرتے ہیں:

”مدینہ میں ایک شخص مروان کی اولاد میں سے حاکم ہوا۔ اس نے ہل بن سعد کو بلایا اور حکم دیا حضرت علیؑ کو گالی دینے کا، ہل نے انکار کیا۔ وہ مروانی کہنے لگا اگر علیؑ کا نام لے کر گالی دینے سے انکار کرتا ہے تو تو کہہ اللہ کی لعنت ہو ابوتراب پر (اللہ ابوتراب پر رحمت کرے اور ان پر لعنت کرنے والوں پر بے شمار لعنت کرے)۔ ہل نے کہا حضرت علیؑ کو کوئی نام ابوتراب سے زیادہ پسند نہ تھا اور وہ خوش ہوتے تھے اس نام سے۔ مروانی کہنے لگا ابوتراب نام کا قصہ بیان کرو کہ ان کا نام ابوتراب کیوں ہوا۔ ہل نے کہا رسول اللہ ﷺ حضرت فاطمہؑ کے گھر تشریف لائے تو

حضرت علیؑ کو گھر میں نہ پایا، آپ ﷺ نے پوچھا تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے۔ انہوں نے عرض کی مجھ میں علیؑ میں کچھ باتیں ہوئیں اور وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے اور ہمارے پاس نہیں سوئے۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی سے کہا دیکھ علیؑ کہاں ہے۔ وہ آیا اور عرض کی یا رسول اللہ! وہ مسجد میں ہیں۔ پھر رسول اللہ ﷺ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ لیٹے ہوئے تھے اور ان کی چادر ان کے پہلو سے الگ ہو گئی تھی اور ان کے بدن پر مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ نے وہ مٹی جھاڑنا شروع کی اور فرمایا اٹھ اے ابوتراب! اٹھ اے ابوتراب!

(صحیح مسلم کتاب الفضائل باب مناقب علی ابن ابی طالب)

امام ابن حجرؒ لکھتے ہیں:

”جتنی حدیثیں حضرت علیؑ کی شان میں بیان ہوئی ہیں اتنی کسی اور کی شان میں بیان نہیں ہوئیں کیونکہ بنو امیہ نے جب برسرِ منبر حضرت علیؑ پر لعنت کرنا شروع کر دی تو صحابہ نے ان کی شان بیان کرنا شروع کر دی۔“

(فتح الباری، ج: 7، ص: 71)

امیر معاویہ کے حکم سے ان کے تمام گورنر، خطبوں میں برسرِ منبر حضرت علیؑ کو گالیاں دیتے تھے حتیٰ کہ مسجد نبوی میں منبر رسولؐ پر عینِ روضہ نبوی کے سامنے حضور ﷺ کے محبوب ترین عزیز علیؑ کو گالیاں دی جاتی تھیں اور حضرت علیؑ کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے۔

(امام ابن جریر طبریؒ تاریخ، ج: 4، ص: 188، امام ابن اثیرؒ اسد الغابہ،

ج: 3، ص: 234، ج: 4، ص: 154، امام ابن کثیرؒ البدایہ والنہایہ،

ج: 8، ص: 84، ج: 9، ص: 80)

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے یہ الفاظ مسند ابویعلیٰ کے حوالہ سے امام ابن حجرؒ

نے فتح الباری میں نقل کئے ہیں:

”اگر میرے سر پر آری رکھ کر مجھے علیؑ کو گالی دینے کا کہا جائے تب بھی میں ان کو گالی نہیں دوں گا۔“

احادیث میں اس سلسلہ میں لفظ سب آتا ہے۔ اس لفظ کے متعلق حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں وہ لکھتے ہیں ”بہتر یہی ہے کہ اس لفظ سے اس کا ظاہری معنی (گالی) سمجھا جائے۔ غایت الامر اس کا یہ ہوگا کہ اگر کتاب اس فعل قبیح کا یعنی سب یا حکم سب حضرت معاویہ سے صادر ہونا لازم آئے گا تو یہ کوئی اول امر قبیح نہیں ہے جو اسلام میں ہوا ہے۔ اس واسطے کہ درجہ سب کا قتل و قتل سے بہت کم ہے۔ چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ سب ابی موسیٰ فسق و قتالہ کفر یعنی برا کہنا مومن کو فسق ہے اور اس کے ساتھ قتال کرنا کفر ہے اور جب قتال اور حکم قتال کا صادر ہونا یقینی ہے، اس سے چارہ نہیں، تو بہتر یہی ہے کہ ان کو مرتکب کبیرہ کا جانا چاہیے لیکن زبان طعن و لعن بند رکھنا چاہیے۔ اسی طور سے کہنا چاہیے جیسا صحابہ سے ان کی شان میں کہا جاتا ہے جس سے زنا اور شرب خمر سرزد ہوا رضی اللہ عنہم اجمعین اور ہر جگہ خطا اجتہادی کو دخل دینا بے باکی سے خالی نہیں۔“ (فتاویٰ عزیزی مترجم، ص: 413)

بسر بن ابی ارطاط نے بھرے کے منبر پر خطبے کے دوران حضرت علیؑ پر سب و شتم کیا۔ (طبری ج: 4، ص: 128، ابن اثیر: اکامل، ج: 3، ص: 307)

حضرت علیؑ کو گالی دینے اور ان پر لعنت کرنے کا سلسلہ آپؑ کی شہادت کے بعد بھی امیر معاویہ اور ان کے بعد تک جاری رہا۔ صلح حسن میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ حضرت علیؑ پر لعنت اور گالی دینے کا سلسلہ بند کر دیا جائے گا مگر ایسا نہیں ہوا۔ امام ابن جریر طبریؒ لکھتے ہیں:

”یہ کام بعد میں حضرت حسنؑ کے سامنے بھی ہوتا رہا جبکہ شرط یہ تھی کہ ان کے سامنے ایسا نہیں ہوگا۔“ (ج: 4، ص: 122)

امام ذہبیؒ نے العمر (ج: 1، ص: 48) پر ابن کثیرؒ نے البدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 14 پر یہی لکھا ہے۔ ابن اثیر نے اکامل میں لکھا ہے کہ امیر معاویہ نے صلح میں یہ شرط مان تولی مگر پوری نہ کی۔ (ج: 3، ص: 203)

امام ابن حجرؒ فتح الباری کتاب المناقب، باب مناقب علی ابن ابی طالب میں لکھتے ہیں کہ حضرت علیؑ سے جنگ لڑنے والوں (بنو امیہ) نے منبروں پر حضرت علیؑ پر لعنت کرنے اور عیب جوئی کو اپنا طریقہ بنالیا جبکہ خوارج نے حضرت علیؑ سے بغض کی وجہ سے ان کی ہمنوائی کی۔

مولانا اشرف علی تھانویؒ نے لکھا:

”شاہ اسماعیل شہید نے لکھنو میں شیعہ سجان خاں سے پوچھا کیا حضرت علیؑ کے دربار میں امیر معاویہ پر تہرا ہوتا تھا؟ اس نے کہا نہیں، حضرت علیؑ کا دربار بوجو گوئی سے پاک تھا۔ پھر پوچھا کیا امیر معاویہ کے یہاں حضرت علیؑ پر تہرا ہوتا تھا؟ کہا بے شک ہوتا تھا۔ اس پر مولانا شہید نے فرمایا اہل سنت الحمد للہ حضرت علیؑ کے مقلد ہیں اور روافض حضرت معاویہ کے۔“ (حکایات اولیاء، ص: 124)

مولانا شاہ معین الدین ندویؒ لکھتے ہیں:

”امیر معاویہؒ نے اپنے زمانہ میں برسر منبر حضرت علیؑ پر سب و شتم کی مذموم رسم جاری کی تھی اور ان کے تمام عمال اس رسم کو ادا کرتے تھے۔“

(تاریخ اسلام ج: 1، طبع پنجم، ص: 13)

مشہور مصری عالم اور جامعہ الازہر کے استاد محمد ابو زہرہ اپنی کتاب ”تاریخ المذاہب

اسلامیہ“ ج: 1، ص: 38، پر لکھتے ہیں:

”بنو امیہ کا عہد حضرت علیؓ کی قدر و منزلت اور تعظیم و تکریم میں مزید اضافہ کا باعث ہوا کیونکہ امیر معاویہ نے اپنے زمانہ میں ایک بری سنت قائم کی جو ان کے بعد ان کے جانشینوں نے حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کے عہد تک جاری رکھی۔ وہ سنت یہ تھی کہ امام ہدیٰ علیؓ ابن ابی طالب پر خطبہ جمعہ کے آخر میں لعنت کی جاتی تھی۔ باقی صحابہ نے اس پر تنکیر کی (برا مانا) اور امیر معاویہ اور ان کے گورنروں کو اس سے منع کیا۔ حتیٰ کہ ام سلمہؓ نے امیر معاویہ کی طرف خط لکھا جس میں اس فعل سے باز رہنے کو کہا اور اس میں لکھا کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر برسر منبر طعن کرتے ہو اور یہ اس طرح کہ علیؓ ابن ابی طالب پر اور ان سے محبت کرنے والوں پر لعنت کرتے ہو اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ ﷺ کو حضرت علیؓ محبوب تھے۔“

مشہور مؤرخ ابوالفداء عماد الدین اسماعیل شافعیؒ (م 732) جو حماۃ (شام) کے گورنر تھے اور الملک المؤید کے لقب سے معروف تھے، وہ اپنی تاریخ الخلفاء میں امیر معاویہ کے حالات میں لکھتے ہیں: ”معاویہ اور ان کے گورنر جمعہ کے خطبہ میں حضرت علیؓ کے حق میں بدعا کرتے تھے اور حضرت علیؓ کو گالیاں دیتے اور ان کی بدگوئی کرتے تھے۔“ (ج: 2 ص: 98-99)

وہ صفحہ 120 پر لکھتے ہیں کہ بنو امیہ نے 41ھ سے حضرت علیؓ کو گالی دینے کا آغاز کیا اور یہ وہ سال ہے جب حضرت حسنؓ خلافت سے دستبردار ہوئے یہ سلسلہ 99ھ کے شروع تک جاری رہا جب حضرت عمرؓ بن عبد العزیز خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس کا خاتمہ کیا۔

امام ابن حزمؒ اندلسی جوامع السیرۃ کے ساتھ ملحقہ رسالہ اسماء الخلفاء والولاء میں بنو عباس کا ذکر کرتے ہوئے پہلے ان کی مذمت کرتے ہیں، پھر

فرماتے ہیں:

”بنو عباس نے صحابہ میں سے کسی پر علانیہ سب و شتم نہیں کیا۔ اس کے برعکس بنو امیہ نے ایسے گورنر مقرر کئے جو علیؓ ابن ابی طالب اور آپ کی پاک اولاد (اولاد قاطمۃ الزہرہؓ) پر لعنت کرتے (اللہ ان لعنت کرنے والوں پر لعنت کرے اور قاطمہؓ علیؓ پر رحمت کرے) ان سب کا یہی حال تھا۔ سوائے عمر بن عبد العزیزؓ اور یزید بن ولید کے، ان دونوں نے اس لعن طعن کی اجازت نہیں دی۔“

(جوامع السیرۃ۔ ابن حزمؒ مع تحقیق و مراجعت احمد محمد شاکر ص: 366)

مشہور مصری عالم ڈاکٹر عمر فروغ اپنی کتاب سیرت حضرت عمر بن عبد العزیزؓ بنام الخلیفہ الزاہد میں ایک مستقل باب بدعت معاویہ کے زیر عنوان لکھتے ہیں:

”عہد بنی امیہ میں ایک بدعت دیار و امصار میں رائج ہوئی۔ یہ ایک شرمناک بدعت تھی جس نے سراٹھایا اور چار سو پچھل گئی حتیٰ کہ اس نے ہر منبر کو پامال کیا اور ہر شخص کی سمع خراشی کی۔ یہ بدعت مسجد نبویؐ منبر رسولؐ پر بھی اہل بیتؑ پر حملہ آور ہونے سے بھی باز نہ رہ سکی۔ اس کا آغاز امیر معاویہ نے کیا تھا اور اپنے گورنروں کے نام حکم جاری کیا تھا کہ وہ اسے جمعہ کے خطبوں میں مستقل طور پر اختیار کریں۔“

مصنف نے تین صفحات میں اس بدعت کا بیان کیا اور لکھا کہ معاویہ کا گمان یہ تھا کہ اس طرح ان کی سلطنت مضبوط ہوگی اور اہل بیتؑ کی عظمت و عقیدت ختم ہوگی مگر امیر معاویہ کا یہ خیال غلط ثابت ہوا اور انہوں نے اس بردباری سے تجاوز کیا جس کی وہ شہرت رکھتے تھے۔ اس بدعت کا نتیجہ ان کے گمان اور رائے کے خلاف نکلا۔

شیخ محمد بن احمد سفار بنی الحنبلی لکھتے ہیں:

”جب بنو امیہ نے منبروں پر حضرت علیؓ کو گالیاں دینے اور ان کی

تنقیص کرنے کی مہم چلائی اور خارجیوں نے ان کی ہم نوائی کی۔ اس وقت محدثین نے مناقب علی علیہ السلام کی احادیث کو کھول کھول کر بیان کیا اور حمایت حق کا سامان فراہم کیا۔“

(لوامع الانوار البہیة و سواطع الاسرار الاثریہ، ص: 339)

امام سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں اور ابن حجر رحمہ اللہ کی تظہیر الجمان، ص: 153 پر لکھا ہے:

”مروان خطبہ جمعہ میں حضرت علی علیہ السلام و اہل بیت کو گالیاں دیتا تھا اور اس کی اس حرکت سے تنگ آ کر سیدنا حسن علیہ السلام مسجد میں اس وقت تشریف لاتے جب اقامت ہو رہی ہوتی تھی اور پہلے تشریف نہ لاتے۔ آخر مروان نے ایک قاصد کو بھیج کر سیدنا حسن علیہ السلام کو گالیاں دیں جس میں دیگر گالیوں کے علاوہ یہ بھی کہا کہ (نعوذ باللہ) تیری مثال خنجر کی سی ہے جس سے پوچھا جائے کہ تیرا باپ کون ہے تو وہ کہے میری ماں گھوڑی ہے۔“

اس طرح مردود ابن مردود (بقول شاہ عبدالعزیز دہلوی) اور ملعون ابن ملعون اور وَزْغُ ابْنِ وَزْغ (گرگٹ ابن گرگٹ، یہ آخری دونوں القاب مروان اور اس کے باپ کو بارگاہ نبوی سے عطا ہوئے) نے اس بات میں (نقل کفر کفر نہ باشد) حضرت حسن علیہ السلام کو خنجر سے، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ علیہا السلام کو گھوڑی سے اور حضرت علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ گدھے سے تشبیہ دی۔ اس روایت کے رجال کو ابن حجر رحمہ اللہ نے ثقہ قرار دیا ہے۔ ابن حجر کی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:

”بزار کی روایت میں ہے کہ اللہ کی حکم اور اس کے بیٹے پر لعنت لسان نبوی کے ذریعہ اور ثقہ روایوں سے ثابت ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ جب مروان کو مدینہ کا گورنر بنایا گیا تو وہ منبر پر ہر جمعہ کے خطبہ میں حضرت علی علیہ السلام کو گالیاں دیتا اور لعنت کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد سعید بن عاص کو گورنر بنایا گیا

تو گالیاں نہیں دیتا تھا۔ پھر مروان کو دوبارہ گورنر بنایا گیا تو اس نے پھر وہی لعنت کمانا شروع کر دی۔ پھر قاصد بھیج کر حضرت حسن علیہ السلام کو علاوہ دوسری گالیوں کے مندرجہ بالا بات کہلوائی تو حضرت حسن نے جواب دیا تو اس کے پاس جا اور کہہ دے خدا کی قسم میں تجھے گالی دے کر تیرا گناہ ہکا نہیں کرنا چاہتا۔ میری اور تیری ملاقات اللہ کے ہاں ہوگی۔ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے اللہ نے میرے نانا علیہ السلام کو جو شرف بخشا ہے وہ اس سے بلند و برتر ہے کہ میری مثال خنجر کی سی ہو۔ قاصد باہر نکلا تو اس کی ملاقات حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہو گئی قاصد نے ان کو بھی گالیوں کے متعلق بتایا۔ سیدنا حسین علیہ السلام نے اس کو سخت الفاظ میں پابند کیا کہ وہ ان کا جواب ضرور مروان کو جا کر دے اور پھر فرمایا اے مروان تو ذرا اپنے باپ اور اس کی قوم کی حیثیت پر غور کر تیرا جھٹ سے کیا سروکار، تو اپنے کندھے پر اپنے اس لڑکے کو اٹھاتا ہے جس پر رسول اللہ ﷺ نے لعنت کی ہے۔ اور عمدہ سند کے ساتھ یہ بھی مروی ہے کہ مروان نے عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے کہا تو وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کی یہ آیت اتری ”جس نے اپنے والدین سے کہا کہ تم پر اف ہے تو عبدالرحمن کہنے لگے تو نے جھوٹ کہا بلکہ رسول اللہ نے تیرے باپ پر لعنت کی تھی۔“

لعنت کرنے اور گالیاں دینے کا کام امیر معاویہ کی نہ صرف رضامندی بلکہ حکم سے ہوتا تھا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سعید بن عاص کو معاویہ نے دو مرتبہ مدینے کا گورنر بنایا اور دونوں مرتبہ مروان کے کہنے پر معزول کر دیا یہ سعید بن العاص، علی علیہ السلام کو گالیاں نہیں دیتا اور ان پر لعنت نہیں کرتا تھا اور مروان یہ کام کرتا تھا۔“ (البدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 84)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو گورنر حضرت علی علیہ السلام پر لعنت نہیں کرتا تھا۔ وہ بدل دیا جاتا اور اس کو گورنر بنادیا جاتا جو یہ لعنت کرتا۔

سعید بن العاص کے بارے میں ابن کثیر کا واضح طور پر لکھتا:

”وہ حضرت علیؑ کو گالیاں نہیں دیتے تھے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کام گورنروں کے فرائض میں امیر معاویہ نے داخل کر دیا تھا۔ یہ سعید بن العاص بنو امیہ کے گھرانے کے فرد اور عثمانؓ کے ربیب (بچھلک) ہونے کے باوجود جنگ جمل و حنین میں غیر جانبدار رہے۔ ان کے بارے میں ابن کثیر نے یہ وضاحت دینا ضروری سمجھی کہ وہ حضرت علیؑ کو گالی نہیں دیتے تھے اور اسی وجہ سے دوسرے گورنری سے فارغ کئے گئے۔“

دوسری طرف سیدنا علیؑ کے علم میں جب یہ بات آئی کہ ان کے ساتھی حضرت حجر بن عدیؓ اہل شام کی بدگوئی کر رہے ہیں تو انہوں نے پیغام بھیج کر ان کو باز رہنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے پوچھا کیا ہم حق پر نہیں۔ فرمایا ہاں مگر میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ تم لعن و طعن کرو۔“

(ابو حنیفہ دینوری، اخبار الطوال، ص: 165)

مشہور مؤرخ احمد بن یحییٰ البلاذری اپنی کتاب ”انساب الاشراف“ میں لکھتے ہیں:

”معاویہ نے بسر بن ارطاة کو بصرہ بھیجا تا کہ وہ ان کے مخالفین کو قتل کرے اور معاویہ کی بیعت کرنے والوں کو زندہ رہنے دے۔ جب بسر بصرہ پہنچا تو خطبہ دیا اور منبر پر چڑھ کر حضرت علیؑ کا برے الفاظ میں ذکر کیا اور بدگوئی اور تنقیص کی (عیب جوئی) پھر کہنے لگا لوگو! تمہیں خدا کی قسم کیا میں نے سچ کہا؟ حضرت ابوبکرؓ نے جواب دیا تم بہت بڑی ذات کی قسم دے رہے ہو، خدا کی قسم تم نے نہ سچ کہا، نہ نیکی کا کام کیا۔ بسر بن ابی ارطاة نے حضرت ابوبکرؓ کو مارنے کا حکم دیا حتیٰ کہ وہ مار سے بے ہوش ہو گئے۔“

(انساب الاشراف، ج: 1، ص: 492)

احترام صحابہ کے علم بردار حضرت سے ایک سوال کیا، حضرت ابوبکرؓ صحابی نہ تھے

اور کیا دشمن خدا و مخلوق خدا بسر بن ابی ارطاة کا بھی احترام لازم ہے؟

امام ابن کثیر لکھتے ہیں:

”بنو امیہ کے بعض افراد علیؑ کی کنیت ابو تراب کی وجہ سے آپ کی عیب چینی کرتے تھے حالانکہ یہ کنیت انہیں رسول اللہ ﷺ نے عطا فرمائی تھی جیسا کہ صحیحین سے ثابت ہے۔“

(البدایہ والنہایہ، ج: 7، ص: 366)

ابن حجر مکیؒ لکھتے ہیں:

”جب اختلاف رونما ہوا اور حضرت علیؑ کے خلاف خروج کیا گیا تو حضرت علیؑ کے فضائل جن صحابہ نے نبی ﷺ سے سنے تھے، انہوں نے امت کی خیر خواہی کیلئے ان فضائل کی نشر و اشاعت شروع کی۔ پھر جب حضرت علیؑ کی مخالفت کی مہم زور پکڑ گئی اور بنو امیہ کے ایک گروہ نے منبروں پر ان کی تنقیص اور گالیاں دینے کو اپنا مشغلہ بنالیا اور خوارج نے بھی (اللہ ان پر لعنت کرے) ان مخالفین کا ساتھ دیا بلکہ حضرت علیؑ کی تکفیر تک کر ڈالی، تو اہل سنت کے بڑے بڑے ناقدین حدیث، جنہیں احادیث نبوی حفظ تھیں، انہوں نے حضرت علیؑ کے فضائل و مناقب میں مروی حدیثوں کو پھیلایا یہاں تک کہ امت میں ان کی کثیر تعداد کا چرچا ہو گیا۔ اور نصرت حق کا تقاضا پورا ہو گیا۔“

(تفسیر البیان، ص: 74)

مولانا شبلی نعمانیؒ سیرت النبی ﷺ کے دیباچے (فن روایت) میں فرماتے ہیں:

”فن تاریخ و روایت پر جو خارجی اسباب اثر کرتے ہیں، ان میں سب سے بڑا قوی اثر حکومت کا ہوتا ہے لیکن مسلمانوں کو ہمیشہ اس فخر کا موقع حاصل رہے گا کہ ان کا قلم کوار سے نہیں دبا۔ حدیثوں کی تدوین بنو امیہ کے زمانہ میں ہوئی ہے جنہوں نے پورے نوے (90) برس تک سندھ سے ایشیائے

کوچک اور اندلس تک مساجد میں آل فاطمہ علیہم السلام کی توہین کی، جمعہ میں برسر منبر حضرت علی علیہ السلام پر لعن کہلوا یا، سینکڑوں حدیثیں امیر معاویہ وغیرہ کے فضائل میں بنوائیں۔ عباسیوں کے زمانے میں ایک ایک خلیفہ کے نام بنام پیشین گوئیاں حدیثوں میں داخل ہوئیں۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا، عین اسی زمانے میں محدثین نے علانیہ منادی کر دی کہ یہ سب روایتیں جھوٹی ہیں۔ آج حدیث کا فن اس خس و خاشاک سے پاک ہے اور بنو امیہ اور عباسیہ جو ظل اللہ اور جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنے بیٹھے تھے، آج اسی مقام پر نظر آتے ہیں جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا۔“ (سیرت النبی ج 1 ص: 66-67)

قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی تاریخ ملت میں لکھتے ہیں:

”عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحات کے سلسلہ میں سب سے بڑی اصلاح جوان کے نامہ اعمال میں سنہری حروف سے ثبت ہے، حضرت علی علیہ السلام کی شان میں بدگوئی کا انسداد ہے، عرصہ سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ خلفاء بنو امیہ اور ان کے عمال خطبوں میں حضرت علی علیہ السلام پر طعن کیا کرتے تھے..... مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ نے عمال کے نام حکم جاری فرمایا کہ خطبوں سے حضرت علی علیہ السلام پر لعن طعن کو خارج کر دیا جائے اور اس کی بجائے یہ آیت کریمہ پڑھی جائے ”ان الله يامر بالعدل و الاحسان..... لعلکم تذکرون“ (تاریخ ملت حصہ سوم ص: 264)

مولانا معین الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”امیر معاویہ نے اپنے زمانہ میں برسر منبر حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کی مذموم رسم جاری کی تھی اور ان کے تمام عمال اس رسم کو ادا کرتے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ بڑی خوبیوں کے بزرگ تھے لیکن امیر معاویہ کی تقلید میں یہ بھی اس مذموم بدعت سے نہ بچ سکے۔“ (تاریخ اسلام حصہ اول و دوم ص: 13-14)

سب علی علیہ السلام کیوں؟

امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”امام علی بن حسین علیہ السلام، زین العابدین نے مروان سے بات کی کہ حسن علیہ السلام حکومت چھوڑ چکے، اب تم حضرات جمعہ اور عید کے خطبہ میں علی علیہ السلام پر لعنت کیوں کرتے ہو؟ تو مروان نے کہا! عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل سے بچانے کی جتنی کوشش آپ کے دادا علی نے کی، کسی اور نے نہیں کی۔ امام نے پوچھا پھر منبروں پر گالیاں کیوں دیتے ہو؟ مروان نے کہا، ہماری حکومت کی مضبوطی و استحکام اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ (تاریخ خلفاء راشدین) امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ص: 175)

تاویل قرآن پر جنگ

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ پیش آنے والے دو خطرات کا وحی کے ذریعے پیشگی علم دے دیا گیا تھا جن کی بنا پر بعد میں حضرت علی علیہ السلام کو بڑھاپے میں تلوار اٹھانا پڑی اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں آنا پڑا۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”لوگو! تم میں سے ایک ایسا آدمی ہے جو قرآن کی تاویل پر اس طرح جنگ کرے گا جس طرح میں نے قرآن کی تزیل پر جنگ کی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی وہ میں ہوں؟ فرمایا نہیں! عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی وہ میں ہوں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا وہ جو جوتا گاٹھ رہا ہے وہ! علی رضی اللہ عنہ کو بتانے کیلئے گئے تو وہ ہنس رہے تھے جس سے صحابی کو معلوم ہوا کہ انہوں نے سن لیا ہے۔“

(البانی سلسلة الاحادیث الصحیحة، ج 5 ص: 539-543 حدیث: 2487، مجمع

الزوائد، ج 9 ص: 136) (مسند احمد روایت نمبر 11795 اور 11278)

قرآن کی تزیل پر جنگ یہ تھی کہ لوگ اس کے نازل ہونے کو نہیں مانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے جنگ لڑنا پڑی کھان کو کلمہ پڑھایا جاسکے۔ تاویل پر جنگ یہ تھی کہ

بظاہر کلمہ گو ہوں گے مگر قرآن کی غلط تشریح کر کے دین کا بیڑہ غرق کر رہے ہوں گے۔

حضرت علی علیہ السلام باغیوں سے جنگ میں امت کے قد وہ ہیں

احادیث مبارکہ میں دو شخصیات کے بارے میں فرمان رسالت ہے کہ میں ان سے ہوں وہ مجھ سے ہیں۔ سیدنا علی علیہ السلام اور سیدنا حسین علیہ السلام کے بارے میں ابن ماجہ و ترمذی میں یہ حدیث آتی ہے۔ بعض دوسرے صحابہ کے بارے میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں۔

عربی زبان میں یہ الفاظ بالکل یک جان ہونے کیلئے استعمال ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت کسی کیلئے کوئی نہیں ہو سکتی کہ رسول اللہ ﷺ اس کیلئے یہ الفاظ استعمال فرمائیں۔

یہ دونوں باپ بیٹا دو اہم مسائل میں اس امت کے امام ہیں۔ ایک یہ کہ صحیح اسلامی حکومت قائم ہو اور اس کے خلاف بغاوت ہو جائے تو اس کا کیا حل ہے؟ اس بارے میں سیدنا علی علیہ السلام اس امت کے قد وہ (رہنما) ہیں۔

سورہ حجرات: 9/49-10 کی تفسیر میں فقہ میں کصاب البغاة اور احادیث

پر دھو تو معلوم ہوگا کہ علی علیہ السلام اس بارے میں قد وہ ہیں۔ دوسرے یہ کہ حکومت اگر صحیح راستے سے ہٹ جائے اور بگڑ جائے تو اس وقت لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تو اس بارے میں حضرت امام حسین علیہ السلام امت کے رہنما ہیں۔

ان کے سوا کوئی اور مثال امت میں نہیں ہے۔ یہ دونوں پہلو دین کا حصہ ہیں اور اس بارے میں یقینی بحثیں کتابوں میں ہوئیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں باپ بیٹوں کی مثال ہی رہنما ہے۔ یہ دونوں اس بارے میں امت کے پیشوا ہیں۔

(ہدایہ باب البغاة، ص: 337) معالم السنن، ج: 2، ص: 164، المغنی ابن قدامہ، ج: 8، ص: 49، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج: 9، ص: 504، فتاویٰ ہندیہ، ج: 4، ص: 438، کتاب قتال اہل البغی ابی الحسن ماوردی، ص: 66

امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

”مشرکین سے قتال حضور ﷺ نے فرمایا، مرتدین سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اور

باغیوں سے علی علیہ السلام نے قتال فرمایا۔“

حق علی علیہ السلام کے ساتھ تھا

سورہ حجرات: 9/49 کی تفسیر میں قاضی ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ اپنی تفسیر احکام

القرآن ج: 4، ص: 1705-1708 پر لکھتے ہیں:

”دین سے بھی ثابت ہو گیا اور سب علماء اسلام بھی متفق ہو گئے کہ خلیفہ برحق اور امام حضرت علی علیہ السلام تھے اور جو ان کے مقابلے پر آیا باغی تھا۔ ان سب سے لڑنا حضرت علی علیہ السلام کا موقف صحیح تھا۔ اگر وہ قصاص کے درپے ہوتے تو ان لوگوں کے قبیلے اٹھ کھڑے ہوتے اور ایک نئی جنگ شروع ہو جاتی حضرت علی علیہ السلام اس انتظار میں رہے کہ حکومت مضبوط ہو جائے، تمام لوگ بیعت کر لیں، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وارث عدالت میں آئیں، قاتلوں کی نشاندہی کریں تو حق کے مطابق فیصلہ ہو جائے، اگر امام یہ محسوس کرے تو قصاص کو مؤخر کر دیا جائے اور اس بارے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ قصاص سے فتنہ بہت بڑھ جائے گا۔ اور مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلے گا تو امام کو حق ہے کہ وہ ایسا قصاص معاف کر دے۔“

امام ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”لوگوں نے صلح حسن علیہ السلام سے یہ نتیجہ نکالا کہ درست قول ان کا تھا جو غیر جانبدار رہے اور کہتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام اور پھر معاویہ میں صلح ہوئی چاہئے، جنگ نہیں ہوئی چاہیے، اگرچہ وہ سمجھتے تھے کہ علی علیہ السلام حق کے زیادہ قریب ہیں۔ یہ قول سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن عمر اور محمد بن مسلمہ رحمہ اللہ اور ان کے ساتھیوں کا ہے، مگر جمہور اہل سنت نے کہا علی علیہ السلام حق پر تھے اور وہ لوگ حق پر تھے جنہوں نے جنگوں میں علی علیہ السلام کا ساتھ دیا کیونکہ وہ خدا

تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کر رہے تھے کہ باغیوں سے لڑو اور یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ علی علیہ السلام سے قتال کرنے والے باغی تھے۔“

نواب صدیق حسن خاں رضی اللہ عنہ کے بیٹے سید نور الحسن خاں رضی اللہ عنہ اپنی کتاب ”عرف الہادی“ ص: 197-198 در بیان قتال اہل اہلبیتؑ میں لکھتے ہیں:

”بلاشبہ ہر موقع پر حق حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ وزیر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی تھی اور بعد میں بیعت توڑ دی، پھر ناچار ان لوگوں سے لڑنا واجب ہو گیا۔ خارجیوں سے جنگ میں حضرت علی علیہ السلام حق پر تھے کیونکہ متواتر حدیث ہے کہ وہ لوگ دین سے اسی طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح جنگ صفین والے ہیں کہ ان کا باغی ہونا بالکل واضح ہے کیونکہ قتل عمار رضی اللہ عنہ والی حدیث اس کی دلیل ہے۔ معاویہ حضرت علی علیہ السلام سے جنگ لڑنے کا ذرہ برابر حق نہ رکھتے تھے مگر وہ (امیر معاویہ) دنیا کے لالچی، حکومت کے بھوکے اور دنیا کی سرداری کیلئے لڑے اور ان کو وہ پیر و کار ملے جو معروف و منکر کی شناخت سے عاری تھے یعنی شامی اور معاویہ نے ان لوگوں سے چالاکی کی کہ بظاہر قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کا ڈھونگ رچا لیا۔ اس طرح معاویہ کا کام چل پڑا اور ان (شامی) لوگوں نے معاویہ کے کہنے پر جان و مال کی قربانی دی اور ان کی خیر خواہی کی۔ ان لوگوں کو معاویہ نے ایسا رام کر لیا کہ حضرت علی علیہ السلام نے اہل عراق سے کہا میں تم جیسے دس دے کر معاویہ کے حامیوں جیسا ایک لے لوں تو بہتر ہے۔ مجھے اہل شام پر ذرہ حیرانی نہیں۔ بلکہ حیرانی تو ان صحابہ و تابعین پر ہے جو معاویہ سے مل گئے۔ کاش مجھے کوئی سمجھائے کہ ان کو کیا مغالطہ ہوا ہے کہ انہوں نے برے اور جھوٹے لوگوں کا ساتھ دیا اور حق والے کی مدد نہ کی حالانکہ ان کے کانوں میں قرآن کی آیت پڑ چکی تھی

کہ باغی سے لڑو اور متواتر حدیثیں ہیں کہ حاکم وقت اسلام پر چلے تو اس سے بغاوت نہ کرو اور آنحضرت ﷺ کا قول ان کے کانوں میں پڑ چکا تھا کہ عمار رضی اللہ عنہ کو باغی ٹوک کر قتل کرے گا۔“ خدا کی قسم! اگر ان کے صحابی ہونے کا لحاظ نہ ہو اور وہ دور خیر القردن میں سے تھا تو صاف نظر آتا ہے کہ اس امت کا پہلا گروہ بھی دنیا کے مال اور لالچ میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جنگ میں قرآن کھڑا کرنا سنتِ مطہرہ میں نہیں آیا نہ سنتِ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم میں بلکہ اس بدعت کا پہلا کرنے والا معاویہ تھا۔ پھر عمرو بن عاص کی چالاکی کو حدیث و تاریخ کی کتابیں پڑھنے والا جانتا ہی ہے۔“

حکمران بننے کے بعد جب امیر معاویہ مدینہ آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیٹی فاطمہ نے ان سے قصاص عثمان کا مطالبہ کیا۔ امیر معاویہ نے کہا بڑی مشکل سے ہماری حکومت مستحکم ہوئی ہے تو اب قصاص عثمان کی بات چھیڑ کر میں اس کو غیر مستحکم کر دوں؟

(ابن کثیر، الہدایۃ والنہایۃ، ج: 8، ص: 144)

سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ علی رضی اللہ عنہ میں کوئی کمی نہ تھی کہ خلافت کے لیے نا اہل ہوتے اور معاویہ میں کوئی خوبی نہ تھی کہ خلافت کے اہل ہوتے۔

(ابن کثیر، الہدایۃ والنہایۃ، ج: 8، ص: 141)

تمام اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام حق پر تھے۔

(سبل السلام محمد بن اسماعیل یمنی ج: 3، ص: 259، السراج الوہاج نواب سید صدیق حسن خاں رضی اللہ عنہ ج: 2، ص: 716-717، شہرستانی الملل والنحل ج: 1، ص: 103، عبد القاهر الفرق بین الفرق، ص: 342، نواب صدیق حسن خاں الروضة الندیہ، ج: 2، ص: 360-361، سعودی عالم احمد حکمی، معارج القبول، ج: 2، ص: 582-583)

”باغیوں سے جنگ لڑو اور خلیفہ برحق کی مدد کرو یہی مذہب اکابر آئمہ اور محدثین کا ہے۔“ (نیل الاوطار، ج: 5، ص: 347-348، امام شکانی، فتح

الباری، ج: 13، ص: 31، امام ابن حجر رحمہ اللہ)

”جس نے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف کیا اس کی اجتہادی خطا تھی۔“

(علامہ وحید الزمان ترمذی ابواب الروایا باب ماجاء فی رویا النبی علیہ السلام فی المیزان والدلو)

”جو کوئی خلافت کے معاملہ میں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف ہوا خطا کار باغی ہے۔“ (شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تھذیب ثنائی عشریہ ص: 19)

سو یہی مذہب سنیوں کا ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام اپنی لڑائیوں میں حق پر تھے اور مخالف ان کے غیر حق پر اور خطا کار..... حق صرف امیر علیہ السلام کی جانب تھا اور جو ان کے مقابلہ پر تھے کہ معنی قرآن کے نہ سمجھے اور اجتہاد میں غلطی کی۔ (شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ تھذیب ثنائی عشریہ ص: 447)

سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے شاگرد سید احمد رضا بجنوری رحمہ اللہ نے ان کے لیکچر انوار الباری کے نام سے جمع کئے جو انہوں نے بخاری شریف کی شرح میں دیئے تھے۔ اس میں سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا قول ہے:

”حضرت علی علیہ السلام اپنے تمام دور خلافت میں منہاج نبوت پر قائم رہے۔ امیر معاویہ نے دوسرے طریقے استعمال کئے۔ زمانہ اور زمانے کے لوگوں کے حالات تیزی کے ساتھ خرابی کی طرف بڑھ رہے تھے اس لیے خلافت علی منہاج النبوت سے زیادہ کامیابی دنیوی سیاست کیلئے مقدر ہو چکی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام آخر عمر تک دین اور دینی سیاست کو کامیاب بنانے کی جان توڑ مساعی میں مشغول رہے۔ ان پر ہر اگلا دور پچھلے دور سے زیادہ سخت اور صبر آزما آیا۔ مگر وہ کوہ استقامت بنے ہوئے مصائب و آلام کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہے۔“ (انوار الباری ج: 2، ص: 39)

نواب سید صدیق حسن خاں رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”اکلیل الکرام“ میں امام شوکانی رحمہ اللہ

کی کتاب وبل الغمام علی شفاء الاوام سے ایک اقتباس نقل کیا ہے جس میں امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”بلا شک وشبہ تمام لڑائیوں میں حق علی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔“

(اکلیل الکرام فی بیان مقاصد الامامة ص: 12)

علامہ عبدالحی بن عماد حنبلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”علماء کا اجماع ہے کہ علی علیہ السلام اپنی تمام جنگوں میں حق پر تھے۔ بعض علماء کا

مذہب ہے کہ ہر جابر حکمران کے خلاف خروج (بغاوت) کیا جاسکتا ہے۔“

(شذرات الذهب، ص: 68)

جنگ جمل

رسول کریم ﷺ کی نبوت کے دلائل میں سے اہم شعبہ سچی پیش گوئیاں ہیں۔ آئندہ ہونے والے واقعات کی خبر لسان نبوی سے مدتوں پہلے بیان ہو چکی تھی۔ ان سچی پیش گوئیوں سے یقین حاصل ہوتا ہے کہ بتانے والا بھی سچا ہے اور جو ان کو بتا رہا ہے یعنی خدا تعالیٰ وہ بھی سچا ہے۔ زمین آسمان ٹل سکتے ہیں مگر سچے نبی کی پیش گوئی نہیں ٹل سکتی۔

حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں تین جنگیں لڑیں۔ ان تینوں کے متعلق حضور ﷺ کی پیش گوئیاں موجود ہیں اور وہ دلیل ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام ہر جنگ میں حق پر تھے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ج: 1، ص: 767 تا 770 پر حدیث: 474 لکھی ہے جس کا نام حدیث الحوآب ہے۔ حوآب مکہ کے باہر چشمہ ہے۔

اہمات المؤمنین حضور ﷺ کے پاس بیٹھی تھیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کون ہے جس پر حوآب کے کتے بھونکیں گے۔“

جب جنگ جمل کیلئے بصرہ کو جاتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے لشکر کے ہمراہ رات کے وقت چشمہ حوآب پر پہنچیں تو وہاں کے کتے بھونکے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟

لوگوں نے کہا یہ جواب کا چشمہ ہے۔ آپ نے کہا میں آگے نہیں جاؤں گی میں واپس جاری ہوں۔ مگر ان کے بہنوئی زبیرؓ نے کہا آپ کے بصرہ جانے سے شاید صلح ہو جائے۔

علامہ البانیؒ لکھتے ہیں کہ اس کی اسناد مضبوط ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں، ہم کیسے مانیں کہ عائشہؓ سے غلطی ہوگئی، اس کا جواب دیتے ہوئے البانیؒ کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ لوگ شیعوں کی صف میں داخل ہو گئے ہیں۔ وہ تو صرف بارہ اماموں کو معصوم مانتے تھے اور تم سنی لوگ ہر اس شخص کو معصوم مانتے ہو، جس نے حضور ﷺ کو دیکھا۔

کوئی شک نہیں ام المومنینؓ کا گھر سے نکلنا غلط تھا۔ اسی طرح جب واپس

ہونے لگیں تو روکنے کا زبیرؓ کا مشورہ غلط تھا۔ یہ مانے بغیر تو چارہ ہی

نہیں کہ دونوں فریقوں میں سے ایک غلط ہے۔ دونوں طرف سے بے شمار

لوگ قتل ہوئے۔ کوئی شک نہیں صرف عائشہؓ غلطی پر تھیں اور اس کے

بہت واضح دلائل ہیں۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنی اس غلطی پر عمر

بھر بچھرتا رہیں ان کے درجہ اور شان کے لائق یہی ہے کہ وہ غلطی مان

گئیں۔ ان کی اس ندامت سے پتہ چلا کہ ان کی غلطی معاف ہو چکی بلکہ

معاف ہی نہیں اس پر ان کو اجر ملے گا کیونکہ انہوں نے اپنی غلطی مان لی۔“

امام ابن عبد البرؒ ”الاستیعاب“ میں لکھتے ہیں:

”ایک دن حضرت عائشہؓ نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے کہا جب

میں نے بصرہ جانے کا ارادہ کیا تھا تو تم نے مجھے روکا کیوں نہیں تھا۔ انہوں

نے کہا آپ پر آپ کے بھانجے عبداللہ بن زبیرؓ غالب آچکے تھے۔

حضرت عائشہؓ نے کہا عبداللہ! اگر آپ مجھے روک دیتے تو میں رک

جاتی۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا مجھے حضور ﷺ کے

پاس دفن ہونے کی آرزو تھی مگر ان کے بعد مجھ سے یہ کام ہو گیا۔ مجھے باقی

ازواج مطہراتؓ کے پاس دفن کروینا۔ لہذا انہیں البقیع میں دفن کر دیا گیا۔“

(سلسلة احادیث صحیحہ ج ۱ ص ۷۷۶، مقدمہ ابن خلدون، ص ۲۱۴)

علامہ بیہقیؒ لکھتے ہیں:

”وہ کام یہی جنگ جمل کا اتمام تھا، وہ اس پر نادم ہوئیں اور اس پر توبہ کی۔

ایک بات ذہن میں رہے کہ حضرت عائشہؓ دنیا و آخرت میں

حضور ﷺ کی بیوی میں یہ شیعہ سنی کا متفق علیہ مسئلہ ہے اور یہ کہ مومنہ

ہیں۔ کافرہ نہیں ہیں جیسا کہ بعض برخود غلط لوگ کہتے ہیں۔“

ایک حدیث ہے کہ دنیا میں میری بیویاں آخرت میں بھی میری بیویاں ہیں۔ اس

حدیث کی شرح میں مجدد مذہب شیعہ ملا باقر مجلسیؒ نے لکھا ہے:

”جنت کافروں پر حرام ہے اور حضور ﷺ اس سے بلند ہیں کہ وہ کسی کافرہ

کے رحم میں اپنا نطفہ ڈالیں، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مائیں کہہ کر

آپ ﷺ کی بیویوں کو عزت دی اور کافرہ تو اس لقب کی اہل نہیں کیوں

کہ یہ مقام بہت بلند ہے اور یہ کہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک مشرک

نا پاک ہیں اور اس قول کی وجہ سے کہ قیامت کے دن حسب و نسب سب ختم

ہو جائیں گے سوائے میرے نسب و سبب کے اور یہ کافروں کے حق میں

تو صحیح نہیں۔“ (بخاری الانوار ج ۱۶ ص ۳۸۹)

حضرت عائشہؓ اس اتمام پر اظہار ندامت کرتی رہیں اور یہاں تک رویا

کرتیں کہ دو پیر تر ہو جاتا۔

(ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمد النسفی فی کتاب الاعتماد فی

الاعتقاد اور شرح فقہ اکبر ملا علی قاری بحوالہ ارجح المطالب،

ص ۵۸۰، عبید اللہ امرتسری)

جنگ جمل میں حضرت زبیرؓ و طلحہؓ بھی شریک تھے یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں

شامل تھے۔ جب جنگ کیلئے مفسین بن گئیں تو عبداللہ بن عباسؓ نے حضرت زبیرؓ کو

پکار کر کہا تم ہمارے پھوپھی زاد ہو کر علیؓ سے جنگ کرنے آ گئے ہو؟

حضرت علیؓ نے صفوں کے درمیان آ کر حضرت زبیرؓ کو کہا تمہیں یاد ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا تھا زبیرؓ تم ایک دن علیؓ سے لڑو گے اور ظالم ہو گے۔ حضرت زبیرؓ نے اسی وقت گھوڑے کو ایڑ لگائی اور واپس چلے گئے۔

(سلسلة الاحادیث الصحیحة البانی، ج: 6، حدیث: 2659، مستدرک حاکم، ج: 6، ص: 366، سیر اعلام النبلاء، ج: 2، ص: 199)

حضرت زبیرؓ ایک وادی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ حضرت علیؓ کے لشکر سے ایک بد بخت عمرو بن جرموز نے سجدہ کی حالت میں حضرت زبیرؓ کا سر کاٹ لیا اور علیؓ کو لا کر دیا تو آپؐ نے فرمایا صفیہؓ کے بیٹے کا قاتل دوزخی ہے۔

(الہدایہ والنہایہ، ج: 7، ص: 273، 272) بعد میں عمرو بن جرموز خارجی بن گیا اور حضرت علیؓ کے خلاف جنگ میں شریک ہوا۔

حضرت طلحہؓ کو مروان نے زہر آلود تیر مار کر شہید کر دیا۔

(امام ابن حجرؒ تہذیب التہذیب ج: 5، ص: 20 تا 22، مستدرک حاکم ج: 3، ص: 370)

جنگ میں حضرت عائشہؓ کا لشکر شکست کھا گیا۔ مگر حضرت علیؓ نے ان کو پورے احترام سے مدینہ روانہ کر دیا۔ ان کے لشکر کا سامان لوٹنے کی اجازت نہ دی اور نہ ہاری ہوئی فوج کا تعاقب کیا نہ ان کو لونڈی غلام بنایا اور دونوں طرف کے مقتولین کی نماز جنازہ ادا کی۔

امام ابوحنیفہ و احمد بن حنبل و شافعی و حنفیؒ سب فرماتے ہیں کہ مسلمان باغیوں سے کیا معاملہ کیا جائے، اس بارے میں امت کے رہنما صرف حضرت علیؓ ہیں۔

حضرت عائشہؓ کا لشکر جب بصرہ پہنچا تو حضرت علیؓ کے گورنر عثمان

بن حنیفؓ کی داڑھی نوچ لی گئی۔ بیت المال لوٹ لیا۔

(طبری ج: 3، ص: 485) (الہدایہ والنہایہ، ج: 7، ص: 254)

امام اشعریؒ کہتے ہیں:

”صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جنگ جمل میں علیؓ حق پر تھے۔“

(الخطوط والآثار احمد بن علی المقریزی، ج: 2، ص: 360، بحوالہ حادثہ کربلا کا پس منظر ص: 226-227)

نواب سید صدیق حسن خاںؒ لکھتے ہیں کہ جنگ جمل دن چڑھے شروع ہوئی تھی اور عصر کے وقت تک جاری رہی، اس دن تک جمادی الاخریٰ کی دس راتیں گزر چکی تھیں اور یوم خمیس تھا، یہ جنگ نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشان ہے کہ واقعہ سے 35 سال پہلے اس کی پیش گوئی فرمادی، اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت علیؓ کا گردہ عدل والا تھا اور دوسرے باغی تھے اور یہ بات صاف معلوم ہے کہ اس وقت علیؓ امام تھے اور وہی برحق تھے۔

(الاذاعہ لماکان وما یکون بین یدی الساعة ص: 88-89)

جنگ صفین

جنگ جمل کے برعکس، جنگ صفین کے دونوں فریق ایک درجہ کے نہیں تھے۔ اس جنگ میں ایک فریق کا دینی مرتبہ بہت اعلیٰ ہے اور دوسرا فریق یعنی امیر معاویہ دینی لحاظ سے ان کے پائے کے نہیں تھے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی لکھتے ہیں کہ شیعہ اولیٰ (مراد مہاجرین و انصار سے ہے) کی اکثریت ہمراہ رکاب جناب امیرؓ کے باغیوں کی لڑائیوں میں موجود اور بنا پر معافی قرآن کے لڑتے رہے ہیں جیسے آنحضرت ﷺ کے وقت میں نزول قرآن پر منکرین سے لڑتے رہے۔“ (تحدائے عشریہ ص: 11)

آگے لکھتے ہیں کہ حاضران بیعت رضوان میں سے ایک جماعت کثیر نے قریب آٹھ سو کے لڑائی صفین میں کسی داد جاں نثاری کی دی اور تین سو آدی درجہ شہادت کو پہنچے۔“ (تحدۃ ثانیہ عشریہ ص: 11)

حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”اکثر صحابہ کرام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تھے اور میرے علم میں انصار تو سب ہی اور مہاجرین میں سے زیادہ علی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔“

(انوار الباری، ج 2: ص 30، مولفہ سید احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ)

مولانا محمد زکریا موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شرح اوجز المسالک میں فرماتے ہیں:

”حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ نوے بدری صحابی، سات سو اہل بیعت رضوان تمام مہاجرین اور انصار چار سو کی تعداد میں جنگ صفین میں شریک تھے۔“

(اوجز المسالک ج 5: ص 434)

آپ نے دیکھ لیا کہ ایک پلڑے میں سب کچھ ہے اور دوسرے میں کچھ بھی نہیں۔ امیر معاویہ کا پلڑا حضرت علی علیہ السلام کے برابر کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے کہ وہ کاتب وحی تھے۔ فلاں تھے، جبکہ اصل صورت حال یہ ہے کہ علمائے محدثین کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کی فضیلت میں کوئی حدیث ثابت نہیں۔ وہ فتح مکہ والے دن مسلمان ہو کر طلقاء میں شامل ہو گئے اور بس!

ایک اور بات ذہن میں ڈھنی چاہیے کہ بنو امیہ سات پشتوں سے بنو ہاشم کے مد مقابل تھے اور دشمنی دیرینہ تھی۔

1- جناب ہاشم کے مقابل عبد شمس

2- ایضاً امیر بن عبد شمس

3- جناب عبد المطلب کے مقابل حرب بن امیہ

4- جناب ابوطالب کے مقابل صخر بن حرب (ابوسفیان)

5- حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل ایضاً

6- علی علیہ السلام کے مقابل معاویہ بن ابی سفیان

7- حسن علیہ السلام کے مقابل ایضاً

8- حسین علیہ السلام کے مقابل یزید بن معاویہ بن ابوسفیان

امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری ج: 7، ص: 104 پر لکھتے ہیں:

”امیر معاویہ کا پلڑا حضرت علی علیہ السلام کے برابر کرنے کے لئے جو کوشش ہوئی

اس میں ابن ابی عاصم، ثعلب کے غلام ابو عمر اور ابو بکر نقاش نے رسالے

لکھے مگر ان میں جعلی روایات درج ہیں۔ امام بخاری کے استاد اسحاق بن

راہویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ کی فضیلت میں کوئی شے ثابت

نہیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ

سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا آپ حضرت

علی علیہ السلام اور امیر معاویہ کے معاملہ میں کیا کہتے ہیں۔ امام احمد نے دیر تک سر

جھکائے رکھا پھر فرمایا خوب جان لو! علی علیہ السلام کے دشمن بے شمار تھے۔ ان

دشمنوں نے بہت باریک بینی کی تاکہ علی علیہ السلام کا کوئی عیب تلاش کر سکیں، مگر

نہ کر سکے۔ وہ دشمن اس کوشش میں ناکام ہونے کے بعد اس آدمی کی حمایت

میں شروع ہو گئے جس نے علی علیہ السلام سے جنگیں لڑی تھیں یعنی امیر معاویہ جن

کی پھر چال بازی سے اس کو علی علیہ السلام کے برابر کرنے کیلئے اس کی شان میں

روایات گھڑیں جن کی کوئی اصل نہیں۔ امیر معاویہ کی شان میں روایات تو

بہت مل جائیں گی مگر ان کی سند دیکھی گئی تو کوئی بھی صحیح نہیں نکلی۔“

یہ واقعہ اہل حدیث علماء کی شروح حدیث بنام عون المعبود اور تحفۃ

الاحوذی میں بھی درج ہے۔ یہ دونوں شروح عرب علماء تک کو مستلزم ہیں۔

حضرت علی علیہ السلام اور ان سے جنگیں لڑنے والوں کا معاملہ ذرا بھی مشتبہ یا نزاعی نہیں

ہے۔ علماء اہل سنت میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے یہ نہیں لکھا کہ اپنی ہر جنگ میں علیؑ حق پر تھے۔ شیعہ حضرات کی ضد میں لوگوں کے ایمان خراب نہیں کرنے چاہئیں۔ سارا عالم اسلام 1400 سال سے متفق ہے کہ حضرت علیؑ حق پر تھے۔ رہ گئی بات کہ حضرت علیؑ سے لڑنے والوں کو کیا سمجھا جائے تو اس بارے میں علماء کے ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ ہیں تو سب باغی مگر ان سے خطا اجتہادی ہوئی۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ خطا اجتہادی نہیں تھی بلکہ وہ دنیا کے لالچ میں حضرت علیؑ سے لڑے۔ اہل سنت میں یہ دورائے ضرور موجود ہیں مگر علیؑ سے لڑنے والوں کو حق پر کہنے والا کوئی عالم اہل سنت میں نہیں ہے۔ یہ امت کی اتفاقی اجماعی اور مسلمہ بات ہے جس کو آج کل کے ناصی چیخ کر رہے ہیں اور مسلک اہل سنت برباد کر رہے ہیں۔ پردہ والا ہوا ہے کہ اس سے شیعہ حضرات کی بات کی تائید ہوتی ہے۔ آپ اہل سنت کی کتابیں پڑھیں اور دیکھیں کہ کون اس کے خلاف ہے؟ عقائد، فقہ، تفسیر، حدیث کی کتابوں میں کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ علیؑ حق پر تھے۔

لوگوں کا یہ بھی طریقہ ہے کہ جس بات سے کسی کو متنفر کرنا ہو تو کوئی زہریلا لفظ بول دو تاکہ سننے والا سوچنا بند کر دے اور بات پر غور ہی نہ کرے مثلاً توحید کی بات ہو تو فوراً کہہ دیں گے کہ یہ تو وہابی کہتے ہیں۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ یہ وہابیوں کا مسئلہ ہے یا اصل دین و ایمان ہے؟

حضرت علیؑ کو غلطی پر بیان کرنے والا گروہ دراصل ناصی ہے۔ ناصی دشمن اہل بیت کو کہتے ہیں۔ رافضی ضرور موجود رہے مگر ناصی مٹ چکے تھے۔ یہ مروانی مذہب محمود احمد عباسی وغیرہ ناصیوں نے پھر زندہ کر دیا اور امام حسینؑ کو باغی قرار دے دیا۔

قتل عمارؓ کی پیش گوئی

جنگ صفین کے متعلق حضورؑ کی پیش گوئی 24 صحابہ کرام سے متواتر حدیث میں موجود ہے۔ وہ پیش گوئی حضرت عمارؓ بن یاسرؓ سے متعلق ہے۔ ان کی والدہ

ماجدہ حضرت سمیہؓ اسلام کی پہلی شہید اور حضرت یاسرؓ بھی اولین شہداء میں سے ہیں۔ ان تینوں نے شروع میں اسلام قبول کیا اور مکہ میں انتہائی مصائب جھیلے۔ حضورؑ ان کے پاس سے گذرتے تو فرماتے اے آل یاسرؓ صبر کرنا تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ تھے عمار بن یاسرؓ!

سیدنا عمارؓ بن یاسرؓ کے بارے میں رسول کریمؐ کا فرمان ہے کہ اسے اللہ نے شیطان سے محفوظ فرما دیا ہے۔

(بخاری کتاب بدء الخلق باب صفة ابليس و جنوده، کتاب الادب باب من القی له وسادة، کتاب المناقب مناقب عمارؓ وحذیفہؓ)

کتاب المناقب بخاری باب مناقب عمارؓ وحذیفہؓ کی حدیث نمبر 3742، جو حضرت علقمہؓ سے مروی ہے، کی شرح میں امام ابن حجرؒ لکھتے ہیں کہ بزار میں حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے حضورؑ کو یہ فرماتے ہوئے سنا عمارؓ اپنے سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے تلوے تک ایمان سے پر ہے۔ اس روایت کی اسناد صحیح ہیں۔“

پھر لکھتے ہیں کہ حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضورؑ نے فرمایا عمارؓ کو جب بھی دو چیزوں کا اختیار دیا گیا تو عمارؓ نے زیادہ بہتر کو اختیار کیا۔

(فتح الباری ج 7، ص 92) ترمذی ابواب مناقب باب مناقب عمارؓ صحیح الجامع الصغير حديث 5619 سلسلة الاحاديث الصحيحة الباني ج 2، حديث نمبر 833

حضرت عمارؓ کی شان میں متواتر حدیث دو موقعوں پر حضورؑ نے ارشاد فرمائی۔ ایک دفعہ مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر اور دوسری مرتبہ جنگ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی تو اس وقت فرمایا عمارؓ! بشارت ہو، تجھے باغی ٹولہ قتل کرے گا۔ یہ 37 سال پہلے فرمایا۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

”ہم مسجد نبوی بناتے وقت ایک ایک اینٹ لا رہے تھے اور عمار رضی اللہ عنہ دو دو اینٹیں لاتے تھے۔ آنحضرت ﷺ سامنے سے گزرے اور ان کے سر سے مٹی جھاڑی اور فرمایا ہائے عمار رضی اللہ عنہ! اس کو باغی ٹولہ قتل کرے گا۔ عمار رضی اللہ عنہ ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ (بخاری کتاب الجہاد والسير باب مسح الغبار عن الناس فی سبیل اللہ، حدیث بخاری کتاب الصلوة، باب التعاون فی بناء المسجد، سلسلة الاحادیث الصحیحة البانی حدیث نمبر 710، ج 2، ص 327-328، مسند احمد حدیث نمبر 11024-11239-11883، مسلم کتاب الفتن والشرائط الساعة عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ وام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ)

امام ابن حجر، امام ابن کثیر رضی اللہ عنہ اور امام ذہبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق پر ہونا اور معاویہ کا باغی ہونا ثابت ہوا۔ (فتح الباری، ابن حجر ج 1، ص 547، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 ص 291، سیر اعلام النبلا ج 4، ص 73)

امام ابن حجر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

”یہ حدیث صحابہ کی ایک جماعت نے روایت کی ہے۔ چوبیس صحابہ سے روایت کی سند صحیح ہے۔ اس کے علاوہ اتنے راوی ہیں کہ گنتی مشکل ہے۔“

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما

ظلمہ بن خویلد کہتے ہیں:

”میں معاویہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دو آدمی ان کے پاس آئے جو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے سر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے اور ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ اس نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تمہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے حق میں دستبردار ہو جائے کیونکہ میں نے نبی ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ کو

باغی گردہ قتل کرے گا۔ معاویہ کہنے لگے تم ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اے عمرو بن عاص تم اپنے پاگل بیٹے سے ہماری جان چھڑا کیوں نہیں دیتے؟ عبداللہ نے کہا ایک دفعہ میرے باپ نے نبی ﷺ کے سامنے میری شکایت کی تھی اور فرمایا تھا زندگی بھر اپنے باپ کی اطاعت کرنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا اس لیے میں آپ کے ساتھ تو ہوں مگر لڑائی میں شریک نہیں ہوتا۔“

(مسند احمد روایت نمبر 6538-6929، مسند عبداللہ بن عمرو بن عاص)

امام اہل سنت ابوالحسن الاشعری رضی اللہ عنہ کا قول عبدالکریم شہرستانی رضی اللہ عنہ نے ”المل والنحل“ میں نقل کیا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں:

”ہم عائشہ رضی اللہ عنہا وطلحہ وزیر رضی اللہ عنہما کے بارے میں خاموش ہیں کیوں کہ انہوں نے خطا سے رجوع کر لیا اور طلحہ وزیر رضی اللہ عنہما عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور معاویہ و عمرو بن عاص کے بارے میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہتے کہ ان دونوں نے امام حق کے خلاف بغاوت کی۔ (اہل والنحل ج 1، ص 145)

امام بیہقی رضی اللہ عنہ اپنی سنن میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے ایک روایت کرتے ہیں:

”جس میں انہوں نے فرمایا ”یہ مت کہو کہ اہل شام نے کفر کیا لیکن یہ کہو کہ انہوں نے فسق یا ظلم کیا۔“ (السنن الکبریٰ ج 8، ص 174 باب قتال اہل بغی)

امام ابن کثیر رضی اللہ عنہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ ج 7، ص 188، پر لکھتے ہیں:

”میں عمار رضی اللہ عنہ بن یاسر رضی اللہ عنہ کے حالات لکھ رہا ہوں جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور ان کو اہل شام نے قتل کیا۔ اس سے وہ راز سامنے آ گیا اور ظاہر ہو گیا جس کی خبر حضور ﷺ نے دی تھی کہ عمار رضی اللہ عنہ کو باغی ٹولہ قتل کرے گا۔ عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور معاویہ باغی تھے۔“

امام شوکانی رضی اللہ عنہ کی کتاب ”نیل الاوطار“ اہل حدیث حضرات کا مرجع ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”حضور ﷺ نے فرمایا تھا خارجیوں کو وہ گروہ قتل کرے گا جو حق پر ہوگا۔ سیدنا علی علیہ السلام نے خارجیوں کو جنگ نہروان میں قتل کیا تھا۔ اس حدیث سے یہ دلیل معلوم ہوتی ہے کہ علی علیہ السلام اور ان کے ساتھی حق پر تھے اور معاویہ اور ان کے ساتھی باطل پر تھے۔ اس بات میں کوئی منصف آدمی شک نہیں کر سکتا اور اس کا انکار صرف متعصب آدمی کرے گا۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ جو حق پر ہوگا وہ خارجیوں کو قتل کرے گا اور وہ حدیث جو بخاری میں ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا صاف صاف بتاتی ہیں کہ حق علی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔“ (نیل الاوطار ج: 7، ص: 175)

امام شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”ابن حجر رحمہ اللہ اور نووی رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ دونوں اطراف کی نیت نیک تھی لہذا امیر معاویہ کو ایک ثواب اور علی علیہ السلام کو دو ثواب ملیں گے، یہ بات بالکل انہونی اور بالکل غلط ہے۔ خاص طور پر وہ آدمی جس کو پتہ چل گیا کہ عمار رضی اللہ عنہ کو باغی ٹولہ قتل کرے گا اور پھر بھی وہ آدمی اس شخص سے جنگ پر ڈٹا رہا جس کے ساتھ عمار رضی اللہ عنہ تھے، یہ حق سے دشمنی اور باطل پر ڈٹے رہنا ہے۔ اس بات میں وہ آدمی شک نہیں کر سکتا جس میں رائی کے دانے برابر انصاف ہوگا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اس سے صحابہ کو برا کہنے کا دروازہ کھل جائے گا کیونکہ میں نے یمن میں پوری کوشش کی ہے کہ شیعہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو برا کہنے سے باز آجائیں۔“ (نیل الاوطار ج: 7، ص: 51)

قتل عمار رضی اللہ عنہ کی پیش گوئی کہ ان کو باغی ٹولہ قتل کرے گا بہت سی کتابوں میں منقول ہے مثلاً مسند احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، طبرانی، بیہقی، مسند ابوداؤد طیالسی میں کئی صحابہ مثلاً ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ، ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ابو

ہریرہ رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان، حذیفہ رضی اللہ عنہ، ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ، ابورافع رضی اللہ عنہ، خزیمہ بن ثابت، عمرو بن العاص، ابوالیسر رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور متعدد دوسرے صحابہ نے اس کو روایت کیا۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ نے طبقات میں کئی سندوں سے ج: 3، ص: 251 تا 253-259، پر اس کو نقل کیا ہے۔

متعدد صحابہ و تابعین نے جو حضرت علی علیہ السلام و معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ میں مذہذب تھے، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کو یہ معلوم کرنے کی علامت قرار دے دیا تھا کہ فریقین میں سے کون حق پر ہے اور باطل پر کون ہے۔

(ابن سعد طبقات ج: 3، ص: 253-259، طبری ج: 4، ص: 27، ابن اثیر ج: 3، ص: 153-165)

امام ابوبکر رضی اللہ عنہ امام القرآن میں لکھتے ہیں:

”علی علیہ السلام ابن ابی طالب نے باغی گروہ کے خلاف تلوار سے جنگ کی اور ان کے ساتھ اکابر صحابہ اور اہل بدر تھے جن کا مرتبہ سب جانتے ہیں۔ اس جنگ میں وہ حق پر تھے اور اس میں سوائے اس باغی گروہ کے کوئی اختلاف نہ رکھتا تھا۔ خود حضور ﷺ نے عمار رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ ایک ایسی خبر ہے جو تو اتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے اور عام طور پر صحیح مانی گئی ہے حتیٰ کہ خود امیر معاویہ سے بھی عبداللہ بن عمرو بن عاص نے بیان کیا تو وہ انکار نہ کر سکے۔ البتہ انہوں نے یہ تاویل کی کہ عمار رضی اللہ عنہ کو اس نے قتل کیا ہے جو انہیں ہمارے نیزوں کے آگے لایا ہے۔ اس حدیث کو اہل کوفہ، بصرہ، حجاز اور اہل شام، سب نے روایت کیا ہے۔“

(احکام القرآن ج: 3، ص: 492)

امام ابن عبدالبر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”نبی ﷺ سے یہ بات متواتر منقول ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا اور یہ صحیح ترین احادیث میں سے ہے۔“ (الاستیعاب ج: 2، ص: 424)

امام ابن حجر رحمہ اللہ نے یہی بات الاصابہ ج: 2، ص: 506 پر لکھی ہے۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”قتل عمار رضی اللہ عنہ کے بعد یہ بات ظاہر ہو گئی کہ حق علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور اہل سنت اس بات پر متفق ہو گئے حالانکہ پہلے اختلاف تھا۔ (الاصابہ ج: 2، ص: 502)

اور یہ بات متواتر روایات میں ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ کو باغی ٹولہ قتل کرے گا۔“ (تہذیب المجتہد، ج: 7، ص: 410)

امام ابن کثیر لکھتے ہیں:

”جنگ جمل سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ہٹ جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد تھا اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔“

(البدایہ والنہایہ، ج: 7، ص: 241، ابن خلدون جلد 2، ص: 162)

پانی بند کرنا

جب حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ جمل سے فارغ ہوئے تو امیر معاویہ (حسب منصوبہ مروان جو پہلے گزر چکا ہے) نوے ہزار کا لشکر لے کر آ گئے اور دریائے فرات کے کنارہ پر قبضہ کر لیا اور پانی بند کر دیا۔ ان کی یہ بری سنت ان کے بیٹے یزید پلید نے برقرار رکھی۔

(البدایہ والنہایہ ج: 7، ص: 279، اخبار الطوال، ص: 180-181، ابن جریر طبری ج: 3، ص: 568-569، اسام ابن لائبر ج: 3، ص: 145-146، الکامل فی التاريخ، تکملہ تاریخ ابن خلدون ج: 2، ص: 170)

بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین آدمیوں سے بات تک نہ کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا بلکہ ان کو دکھ کی مار پڑے گی ایک تو وہ شخص جس کے پاس فالتو پانی ہو اور وہ مسافر کو نہ دے دوسرا وہ جو کسی امام کی بیعت محض دنیا کمانے کیلئے

کرے اگر وہ اس کو مال دے تو بیعت پوری کرے اور نہ دے تو بیعت توڑ دے اور تیسرا وہ شخص جو عصر کی نماز کے بعد بازار میں سامان فروخت کرنے کیلئے جھوٹی قسم کھائے اور اس کی قسم کے اعتبار پر کوئی وہ سامان خرید لے۔“

(بخاری کتاب الاحکام باب من بايع رجلا لا يبايعه الا للذئبا)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوج کو حکم دیا کہ پانی کا قبضہ چھڑا دیا جائے۔ فوج نے حملہ کر کے پانی پر قبضہ کر لیا۔ تب امیر معاویہ نے عمرو بن العاص سے کہا کہ تیرے مشورہ پر ہم نے پانی پر قبضہ کر لیا، اب علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے چھڑا لیا۔ اگر انہوں نے ہمیں پانی نہ لینے دیا تو کیا بنے گا؟ عمرو بن عاص نے کہا، فکر نہ کر! ہم، ہم ہیں، علی، علی ہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا منہ ہادی گھوڑے پر سوار ہو کر دونوں فوجوں کے درمیان سے گذرا اور اعلان کیا کہ پانی اللہ نے حلال کیا ہے علی رضی اللہ عنہ اسے حرام نہیں کرنا چاہتا، سب کو پانی لینے کی اجازت ہے۔ اگرچہ بعد میں کربلا میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے تحت جگر کا پانی امیر معاویہ کے تحت جگر نے بند کر دیا اور اپنے باپ کی سنت برقرار رکھی۔

تاویل باطل

جب فوجیں صف آراء ہوئیں تو سیدنا عمار رضی اللہ عنہ بن یاسر رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں سے نکل کر آ گئے۔ ان کو دیکھا تو امیر معاویہ کی فوج کو حدیث نبوی یاد آ گئی اور ان کے دل ڈول گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ عمار رضی اللہ عنہ تو علی کے ساتھ ہے لہذا ہم جھوٹے اور باغی ٹولہ ہیں جن کو حدیث میں دوزخ کی طرف بلانے والے کہا گیا۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک ذوالقلاع حمیری یمن کا ایک سردار تھا جو ہزاروں لوگ لے کر امیر معاویہ کی حمایت کیئے آیا تھا تا کہ خون عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لے جس کا مطالبہ معاویہ کر رہے تھے۔ حالانکہ بعد میں حکومت سنجال لینے کے بعد انہوں نے یہ مطالبہ ترک کر دیا اور کوئی قصاص نہ لیا۔

اس ذوالقلاع حمیری نے پوچھا کہ عمار رضی اللہ عنہ تو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے۔ اب آپ امیر معاویہ کی چالاکی ملاحظہ فرمائیں۔ انہوں نے جواب میں ذوالقلاع سے کہا کہ عمار رضی اللہ عنہ

مرنے سے پہلے ہمارا ساتھی بن جائے گا۔ یہ امیر معاویہ کی خوش قسمتی تھی کہ جنگ شروع ہوتے ہی ذوالکلاع قتل ہو گیا ورنہ اگر وہ زندہ ہوتا تو شہادت عمارؓ کے بعد اس سے الگ ہو جاتا۔ امیر معاویہ کے ساتھیوں نے بعد میں کہا کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمیں ذوالکلاع کے مرنے کی زیادہ خوشی ہے یا عمارؓ کی شہادت کی! (امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ ج: 7، ص: 293)

سیدنا عمار بن یاسرؓ کی شہادت کے بعد شامی لشکر کے بعض آدمیوں نے عمرو بن عاص سے پوچھا کہ عمارؓ تو علیؓ کی حمایت میں شہید ہو گئے، اب فرمان رسالت کے مطابق ہمارا کیا بنے گا؟ اس نے کہا عمارؓ کے قتل کا ذمہ دار علیؓ ہے اگر وہ عمارؓ کو ساتھ لے کر نہ آتا تو عمارؓ نہ مارا جاتا اور شامی لشکر کی بے وقوفی ملاحظہ ہو کہ بجائے تاویل باطل رد کرنے کے خوشی سے ناچنا شروع کر دیا واہ! کیا تاویل کی ہے۔ جب عمرو بن عاص کی یہ بات سیدنا علیؓ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ عمرو بن عاص کے اس اصول کے مطابق تو حضرت حمزہؓ کے قاتل (نعوذ باللہ) رسول کریم ﷺ ہیں جو ان کو ساتھ لے کر جنگ احد میں گئے۔

(شرح فقہ اکبر از ملا علی قاریؒ، ص: 79، طبری ج: 4، ص: 29، الکامل ابن التبر ج: 3، ص: 158، البدایہ والنہایہ ج: 7، ص: 268 تا 270)

مسند احمد میں حدیث نمبر 6499، 6500، 6926، 6927 (مسند عبد اللہ

بن عمرو بن عاص) میں عبد اللہ بن عمرو بن عاص نے یہی تاویل باطل امیر معاویہ سے روایت کی ہے کہ عمارؓ کا قاتل وہ ہے جو اسے ساتھ لایا۔

اب اہل حدیث حضرات اپنی کتابوں میں وہ بات لکھ رہے ہیں جو امیر معاویہ اور عمرو بن عاص کو بھی نہ سوجھی کہ حضرت علیؓ کے فوجیوں نے عمارؓ کو قتل کر کے امیر معاویہ کے لشکر میں پھینک دیا تھا۔ اگر بالفرض یہ صحیح بھی ہے تو پھر حضرت علیؓ کا لشکر باغی گروہ ہوگا کیونکہ حدیث میں تو یہ ہے کہ عمارؓ کو باغی گروہ قتل کرے گا۔

امام ابن قیمؒ لکھتے ہیں:

”تاویل باطل نے دین خراب کر دیا جو آیت یا حدیث اپنے خیال کے مطابق نظر نہ آئی تو اپنے خیال سے توبہ کرنے کی بجائے اس کی تاویل کر دی۔ امام لکھتے ہیں کہ اہل شام کی یہ کیا تاویل باطل ہے کہ عمارؓ کا قاتل وہ ہے جو ان کو ساتھ لایا اور ہمارے نیزوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ تاویل (جو امیر معاویہ اور عمرو بن عاص نے کی) اس لفظ کے ظاہر کے بھی خلاف ہے اور حقیقت کے بھی خلاف ہے۔ قاتل وہ ہوگا جو اپنے ہاتھ سے قتل کرتا ہے۔ جو کسی کو مدد کیلئے ساتھ لایا ہے وہ قاتل نہیں ہوگا۔ جو حق پر تھا اور جس کے پاس سچا دین تھا یعنی علیؓ، نے وہ جواب دیا جو لا جواب ہے۔ انہوں نے فرمایا اگر تمہاری منطق صحیح ہے کیا حمزہؓ اور تمام شہدائے اُحدؓ کے قاتل (نعوذ باللہ) خود حضور ﷺ ہیں کہ ان کو مشرکین کی تلواروں کے سامنے لا کھڑا کیا۔

(مختصر الصواعق المرسلہ علی الجہمیۃ والمعتلۃ ج: 1، ص: 13، مقدمہ

ابن خلدون ص: 215)

عمرو بن عاص نے خود اپنی زبان سے اعتراف کیا کہ قاتل عمارؓ ان کے ہاتھوں ہوا۔ (سیر اعلام النبلاء ج: 4، ص: 36)

قاتل عمارؓ کا نام

ناصبی ٹولہ یہ بہانہ بناتا ہے کہ حضرت عمارؓ کا قاتل نامعلوم آدمی ہے۔ جب کہ اصل صورت حال یہ ہے کہ اس کا نام حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ اس کا نام یسار بن سبْع ابو الغادیہ الجہنی تھا۔ یہ شخص بیعت رضوان میں شامل تھا مگر بعد میں خالم ہو گیا۔ یہ شخص جب حجاج بن یوسف کے دربار میں آتا تو کہتا قاتل عمارؓ حاضر ہے۔ اور وہ ملعون اسے مرجا مرجا کہہ کر ساتھ تخت پر بٹھاتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کا بیٹا ابو بکر بھی

شامیوں سے مل گیا تھا اور وہ بھی قاتل عمارؓ کو میرا بھائی، میرا بھائی کہتا۔
(سلسلہ الاحادیث الصحیحہ ج: 5، ص: 18، 20، حدیث نمبر 2800 اسد الغابہ ابن
اشیر ج: 5، ص: 267، تہذیب المجتہب ابن حجر ج: 12، ص: 41)

امام ابن حجرؒ لکھتے ہیں:

”قتل عمارؓ کی پیش گوئی رسالت کے نشانات میں سے ایک نشان ہے
اور اس سے علیؓ و عمارؓ کی بڑی شان ثابت ہوئی۔ اس حدیث میں
ناصبیوں کا رد ہے جو یہ جھوٹا عقیدہ پھیلاتے ہیں کہ حضرت علیؓ اپنی
جنگوں میں حق پر نہ تھے۔“

علامہ البانیؒ سلسلہ الاحادیث الصحیحہ ج: 5، ص: 18، 20 حدیث
نمبر 2800، جو کہ امام احمد و ابن سعد لائے ہیں، کے تحت لکھتے ہیں:

”ابو الغادیہ الجہنی کہتا ہے کہ میں نے ایک دن عمار بن یاسرؓ کو سنا کہ وہ
حضرت عثمانؓ کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ میں نے اسی وقت ان کے
قتل کی شان لی کہ اگر میرے رب نے موقعہ دیا تو میں عمارؓ سے بیٹوں گا۔
جنگ صفین میں عمارؓ بہادری سے حملہ کر رہے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ تو
عمارؓ ہیں۔ پھر میں نے ان کی ناف اور ٹانگوں کے درمیان حملہ کیا اور ان
کے گھٹنے میں نیزہ مارا۔ وہ گر گئے تو میں نے ان کو قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا
ارے تم نے عمارؓ کو قتل کر دیا؟ جب میں نے عمرو بن عاص کو بتایا کہ میں
نے عمارؓ کو قتل کر دیا تو عمرو نے کہا رسول کریمؐ نے فرمایا ہے جو
عمارؓ کو قتل کرے گا اور ان کا اسلحہ ان کے جسم سے اتارے گا، وہ دوزخی
ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا عمرو بن عاص تم بھی تو عمارؓ سے لڑ رہے تھے۔
اس پر عمرو بن عاص نے چالاکی سے خود کو بچایا کہ حضورؐ نے قاتل کے
لیے فرمایا ہے جنگ لڑنے والے کے لئے نہیں اور وہ قاتل ابو الغادیہ ہے، میں تو

نہیں ہوں فرمایا: ”علامہ البانیؒ کہتے ہیں اس روایت کی اسناد صحیح ہیں۔“

اس روایت اور اس جیسی دوسری روایات کے تحت امام ابن حجرؒ اور امام
نوویؒ وغیرہ بہانے بناتے ہیں کہ ایسے صحابہ مجتہد تھے اور مجتہد غلطی بھی کرے تو اس کو اجر
میتا ہے، اور یہ بات صحابہ کے حق میں تو بطریق اولیٰ ثابت ہے۔

اس کے جواب میں علامہ البانیؒ لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اصول یہی ہے
لیکن ہر صحابی کے عمل پر اس کی تطبیق مشکل امر ہے کیونکہ یہ اصول یہاں حدیث رسول سے
نکراتا ہے، کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابو الغادیہ نے حضرت عمارؓ کو اجتہادی غلطی کی بنا پر
قتل کیا تھا لہذا اسے ثواب ملے گا، بلکہ حضورؐ فرماتے ہیں کہ عمارؓ کا قاتل دوزخی
ہے، اگر ثواب ہوتا تو یہ کیوں فرماتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عام حالات میں یہ اصول
درست ہے مگر جہاں مضبوط دلیل ہو تو وہاں یہ قاعدہ کام نہیں دے گا بلکہ اس کام کو مستثنیٰ قرار
دینا پڑے گا جیسا کہ یہاں معاملہ ہے۔ لہذا اپنے مصنوعی قاعدوں سے صحیح حدیث کو رد نہ
کرو۔ ابو الغادیہ اگرچہ بیعت رضوان میں شامل تھا مگر حدیث کی رو سے دوزخی ہے۔“

نیزوں پر قرآن کھڑا کرنا

جب جنگ صفین میں شامی لشکر ہارنے لگا اور مالک اشترؓ امیر معاویہ
کے خیمے تک پہنچ گئے تو اس وقت شامی لشکر نے عمرو بن عاص کے مشورہ پر
قرآن مجید کھڑے کر دیئے کہ آؤ قرآن پر فیصلہ کر لیں۔ عمرو بن عاص نے
امیر معاویہ کو مشورہ دیا کہ اب ہماری فوج نیزوں پر قرآن اٹھالے اور کہے
یہ ہمارے اور تمہارے درمیان حکم ہے۔ اس کی مصلحت خود انہوں نے بتائی
کہ اس سے علیؓ کے لشکر میں پھوٹ پڑ جائے گی اور اگر وہ مان گئے تو
ہمیں مہلت مل جائے گی۔

(طبری ج: 4، ص: 34، ابن سعد ج: 4، ص: 255، ابن اثیر، الکامل
ج: 3، ص: 160، البدایہ والنہایہ ج: 7، ص: 272، ابن خلدون

تکملہ، ج: 2، ص: 174، امام ذہبی سیر اعلام النبلاء، ج: 4، ص: 71، فتح الباری، ج: 12، ص: 284-285)

علامہ وحید الزماں، معروف ابجدیث عالم اور مترجم بخاری و مسلم وغیرہ، بخاری کتاب المغازی باب غزوہ خندق کی ایک حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: ”کہ صحابہ معصوم نہ تھے خصوصاً عمرو بن عاص جو چالبازی اور سازش میں یکتائے روزگار تھے۔“

علامہ وحید الزماں رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنا مستحب ہے مگر ان پانچ لوگوں کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہ کہو۔

1- ابوسفیان والد امیر معاویہ

2- امیر معاویہ بن ابوسفیان

3- عمرو بن عاص

4- مغیرہ بن شعبہ

5- سمرہ بن جندب

ان کے بارے میں سکوت کرو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے نہ ان کو برا کہو نہ ان کی تعریف کرو۔ (کنز الحقائق من فقہ غیور الخلاق ص: 234 عربی)

مولانا وحید الزماں رحمہ اللہ اپنی دوسری کتاب میں لکھتے ہیں:

”قرآن مجید کی سورہ حجرات: 6/49 ”اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو“ اور سورہ الحجہ: 18/32 ”بھلا جو مومن ہے وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟“ سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں فاسق بھی تھے مثلاً ولید بن عقبہ جس کے بارے میں سورہ حجرات کی آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح کہا گیا ہے ان کے بارے میں بھی

1- معاویہ بن ابی سفیان

2- عمرو بن عاص

3- مغیرہ بن شعبہ

4- سمرہ بن جندب (نزل الابرار من فقہ النبی المختار، ج: 3، ص: 94)

عمرو بن عاص کے مشورہ ہی سے امیر معاویہ نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت علی علیہ السلام کو خون عثمان رضی اللہ عنہ کا ذمہ دار قرار دے کر ان سے جنگ لڑی جائے کیونکہ ان کو یقین تھا کہ جنگ جمل کے بعد اب حضرت علی علیہ السلام کی فوج پوری طرح متحد ہو کر نہ لڑ سکے گی اور نہ عراق اس دل جمعی سے ان کی حمایت کرے گا جو اہل شام میں امیر معاویہ کیلئے پائی جاتی تھی۔

(طبری ج: 3، ص: 561، ابن اثیر، الکامل ج: 3، ص: 141-142، البدایہ والنہایہ ج: 7، ص: 253)

امیر معاویہ نے ایک آدمی کو تیار کیا کہ کچھ ایسے گواہ تیار کرے جو اہل شام کے سامنے یہ گواہی دیں کہ حضرت علی علیہ السلام ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ وہ پانچ آدمی تیار کر کے لے آیا جنہوں نے لوگوں کے سامنے یہ شہادت دی کہ علی علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے۔

(ابن عبد البر الاستیعاب ج: 2، ص: 589)

تحکیم

حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں وہ بھی تھے جو بعد میں خارجی بنے۔ وہ بظاہر بڑے دیندار تھے مگر بے عقل تھے۔ جب امیر معاویہ کے لشکر نے قرآن نیزوں پر کھڑے کر دیئے تو انہی کم عقل دین داروں نے حضرت علی علیہ السلام کو مجبور کیا کہ ٹالشی مان لیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا یہ امیر معاویہ کی چال ہے مگر ان دین داروں نے قتل کی دھمکی دے کر حضرت علی علیہ السلام کو ٹالشی پر مجبور کر دیا حالانکہ حضرت علی علیہ السلام کا کہنا یہ تھا کہ شامی اگر قرآن کو مانتے ہوتے تو میرے ساتھ جنگ کیوں کرتے؟

بہر حال حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر رحمہ اللہ کو اپنا ثالث مقرر کیا مگر لوگوں نے نہ

مانا۔ یہ وہ لوگ تھے جو منافق تھے اور دوسری طرف سے رشوت لے چکے تھے۔ پھر آپ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنا ثالث مقرر کیا مگر ان کو بھی نہ مانا اور اصرار کیا کہ اشعث بن قیس کو ثالث بنائیں۔ یہ شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں مرتد ہو چکا تھا۔ پھر اسلام لایا، اس کو امیر معاویہ نے راتوں رات رشوت پہنچادی تھی۔ اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ثالث نہ مانا۔ پھر حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ثالث بنایا گیا مگر وہ بعد میں سادہ لوح ثابت ہوئے۔ اور ان کو حکم بنانے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ مطمئن نہ تھے۔

(طبری ج: 4، ص: 36 تا 34، ابن اثیر ج: 3، ص: 161-162، البدایہ والنہایہ،

ج: 7، ص: 275-276، ابن خلدون مکتبہ ج: 2، ص: 175)

وہ عمرو بن عاص کی چال میں آگئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا حالانکہ امیر معاویہ کا دعویٰ تو اس وقت تک خلافت کا تھا ہی نہیں کہ ان کا ثالث ان کو خلافت سے معزول کرتا۔ اس وقت تک ان کی حیثیت ایک باغی گورنر کی تھی۔ ان کے ثالث عمرو بن عاص نے دھوکہ کیا اور ایسا دھوکہ بھری پہنچایت میں آج بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ عمرو بن عاص نے علیحدگی میں بات کچھ طے کی اور باہر آ کر جھوٹ بول دیا۔ بات یہ طے ہوئی تھی کہ دونوں کو ہٹا کر امت کو اختیار دے دیا جائے، جس کو چاہے خلیفہ چن لے۔ اس کے مطابق ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت سے معزول کیا۔ اب باری عمرو بن عاص کی تھی اور چاہیے تھا کہ وہ بھی وعدہ کے مطابق امیر معاویہ کو گورنری سے معزول کرتے۔ مگر انہوں نے صریح جھوٹ اور دھوکہ سے کام لیتے ہوئے کہا میں معاویہ کو بطور خلیفہ برقرار رکھتا ہوں۔ اس پر دونوں ثالث آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ ایک دوسرے کو گالیاں دیں۔ اور بات وہیں کی وہیں رہی۔ شامی لشکر نے امیر معاویہ کو مبارک باد دی۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کم عقل دین دار ساتھی جو پہلے ان کو ثالثی پر مجبور کر رہے تھے، اب اس فیصلہ کے بعد روٹھ کر الگ ہو گئے۔ وہ 12,000 آدمی تھے جو حوراء چلے گئے اور کہنے لگے کہ ثالثی مان کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کافر ہو گئے ہیں۔

(فتح الباری، ج: 11، ص: 284)

امام ابن کثیر رحمہ اللہ جو عمرو بن عاص کی صفائی تو دیتے ہیں کہ یہ ان کی خطائے اجتہادی تھی مگر یہ ضرور لکھتے ہیں: ”عمرو بن عاص نے دھوکہ کیا اور کہا میں معاویہ کو بحال رکھتا ہوں۔“

(البدایہ والنہایہ، ج: 7، ص: 282-283، طبری، ج: 4، ص: 5)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”معاویہ کے ثالث نے دوسرے ثالث کو اپنے دائرہ سے دھوکہ دیا۔“

(تحریر اثنا عشریہ، ص: 471)

عمرو بن عاص نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ امیر معاویہ اور عمرو بن عاص کا سودا مصر کے تاحیات خراج پر ہو چکا تھا۔

(امام ذہبی، سیر اعلام النبلاء ج: 4، ص: 38، ابو حنیفہ دینوری رحمہ اللہ اخبار

الطوال، ص: 168)

خطائے اجتہادی کا بہانہ

مشہور اہل حدیث عالم نواب سید صدیق حسن خاں رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”کئی لوگوں نے ہر بات کی تاویل اجتہاد سے کی ہے۔ مثلاً کوئی لکھتا ہے،

مروان نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تو اجتہاد کیا یعنی ہر مجرم اجتہاد کرتا ہے۔

یہ بہانہ کہ فلاں آدمی نے جو کیا وہ تاویل سے کیا۔ یہ ایسا عذر ہے کہ اس کے

بعد کسی گناہ گار کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ وہ صاف کہہ دے گا میں نے بھی

تاویل کی ہے۔ جس طرح قتل طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اجتہاد تاویل کا بہانہ

ہے اسی طرح معاویہ کی کمر توڑ بری حرکتوں کیلئے لوگوں نے یہ بہانہ بنالیا کہ

وہ اپنی بغاوت میں مجتہد تھے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ امام محمد بن ابراہیم ابوزیر

الیمانی رحمہ اللہ اپنی کتاب العواصم والقواصم فی الذب عن سنتہ ابی

القاسم میں لکھتے ہیں کہ تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ جتنے حضرت

علی رضی اللہ عنہ سے لڑے سب باغی تھے اور حق علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔“

نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ ص: 511 پر لکھتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ عزیزی میں لکھا ہے:

”معاویہ کی حضرت علی علیہ السلام سے جنگ نفسانیت کے شائبہ سے خالی نہیں اور خطائے اجتہادی کا قول ضعیف ہے۔“

بلوغ المرام کی شرح سبل السلام ہر اہل حدیث مدرسہ میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں امام محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں:

”حدیث دلیل ہے معاویہ اور اس کے ساتھی باغی تھے اور حضرت علی علیہ السلام اور ان کے ساتھی حق پر تھے اور اس پر اہل سنت کے بڑے بڑے اماموں نے اجماع نقل کیا ہے۔“ (سبل السلام ج: 3 ص: 259)

یہی امام لکھتے ہیں:

”زیادہ تشریح پڑھنی ہو تو میری کتاب ”الروضۃ الندیہ“ پڑھو جو میں نے ایک یمنی عالمی کے ”قصیدہ بنام القصیدۃ العلویہ“ کی شرح میں لکھی ہے۔“

جنگ کیسے شروع ہوئی؟

امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری ج: 13 ص: 57 کتاب الفتن میں لکھتے ہیں:

”جب جنگ صفین کی صفیں بندھ گئیں تو پہل اس طرح ہوئی کہ چھوکرے اور نو عمر لڑکے ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے، پھر تیر چلے شروع ہوئے، پھر غلام اور احق لوگ چل پڑے اور جنگ بے قابو ہو گئی، پھر بھڑک اٹھی۔ بصرہ کی طرف خندق کھودی گئی تھی، کچھ لوگ مارے گئے، کچھ زخمی ہوئے، حضرت علی علیہ السلام کے لشکر نے غلبہ حاصل کر لیا۔“ پھر حضرت علی علیہ السلام کا منادی نکلا اور اعلان کیا کہ فرار ہونے والے کا پیچھا نہ کرو، زخمی کو قتل نہ کرو اور کسی

کے گھر میں نہ گھسنا، مقتولین کا سامان جمع کر کے بصرہ کے بیت المال میں

رکھو دیا اور اعلان کر دیا کہ اپنے اپنے مقتولین کا سامان پہچان کر لے جاؤ۔

یہ جنگ دن وھاڑے چاشت کے وقت (یعنی 10-9 بجے صبح) شروع ہوئی۔ رات کے وقت سپاہیوں کی شرارت کا قصہ محض افسانہ ہے۔ جنگ دونوں فریقوں نے سوچ سمجھ کر شروع کی۔ پہلے تین دن صرف امیر معاویہ کے ساتھی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھیوں کو زخمی کرتے رہے مگر حضرت علی علیہ السلام نے جواب دینے سے منع کیا۔ اس کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کی

”اے اللہ میں نے اُمت کو خوں ریزی سے پہچانے کی کوشش کی مگر یہ لوگ باز نہیں آئے۔“

پھر آپ علیہ السلام نے جنگ کی اجازت دے دی۔

عمرو بن عاص کا بوقت موت اعتراف خطاً

شامۃ الحمیری سے روایت ہے کہ ہم عمرو بن عاص کے پاس گئے اور وہ مرنے کے قریب تھے۔ وہ بہت دیر تک روئے اور دیوار کی طرف منہ پھیر لیا۔ اس کے بیٹے نے کہا اے ابا جان آپ کیوں روتے ہیں، کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری نہیں دی؟ تب انہوں نے اپنا منہ سامنے کیا اور کہا سب باتوں سے افضل ہم سمجھتے ہیں شہادتین کا اقرار ہے۔ مجھ پر تین دور گزرے ہیں۔ ایک دور وہ تھا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ برا کسی کو نہیں جانتا تھا اور میری خواہش تھی کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو پاؤں اور قتل کر دوں اگر میں اس حال میں مر جاتا تو دوزخی ہوتا۔ دوسرا دور وہ تھا کہ اللہ نے اسلام کی محبت میرے دل میں ڈال دی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا میں نے کہا اپنا دایاں ہاتھ نکالنے تاکہ بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا مگر میں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ فرمایا عمرو! تجھے کیا ہوا۔ میں نے عرض کی شرط کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھا کونسی شرط میں نے کہا یہ شرط کہ میرے اب تک کے گناہ معاف ہو جائیں۔ فرمایا اے عمرو! تو نہیں جانتا کہ پہلے گناہوں کو اسلام مٹا دیتا

ہے، حج مناد دیتا ہے، پھر رسول اللہ ﷺ سے زیادہ مجھے کسی سے محبت نہ تھی نہ میری نگاہ میں آپ سے زیادہ کسی کی شان تھی اور نہ میں آنکھ بھر کر آپ ﷺ کو دیکھ سکتا تھا آپ کے جلال کی وجہ سے اور اگر کوئی مجھ سے حلیہ مبارک پوچھے تو میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میں آنکھ بھر کر آپ ﷺ کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس دور میں اگر میں مرجاتا تو امید تھی کہ میں جنتی ہوتا۔ مگر اس کے بعد ہم چند چیزوں میں پھنس گئے میں نہیں جانتا میرا حال کیا ہوگا ان کی وجہ سے، تو جب میں مرجاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی رونے چلانے والی نہ ہو نہ آگ ہو اور جب مجھے دفن کرنا تو قبر پر اچھی طرح مٹی ڈال دینا اور میری قبر کے گرد کھڑے رہنا اتنی دیر جتنی دیر میں اونٹ کا نا جاتا ہے اور اس کا گوشت بانٹا جاتا ہے۔ تاکہ میرا دل پہلے تم سے اور دیکھ لوں کہ رب کے بھیجے ہوؤں کو میں کیا جواب دیتا ہوں۔

(مسلم کتاب الایمان باب هل یواخذ باعمال الجاہلیہ)

علامہ ابی مالکی اپنی شرح مسلم میں ج: 1 ص: 228 پر اس حدیث کے تحت محدث بیاسی رحمہ اللہ کا قول لکھتے ہیں:

”عمرو بن عاص نے کہا ہم نے معاویہ کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت خراب کر لی۔“

جنگ نہروان

مسلمانوں کی تاریخ پڑھتے ہوئے احادیث رسول ﷺ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حضور ﷺ کے معجزات میں سے ہے کہ آئندہ مسلمانوں کو جو آثار چڑھاؤ پیش آنا تھا اس کے بارے میں پیش گوئی فرمادی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد جب بنو امیہ و بنو عباس کا زمانہ آیا تو انہوں نے تاریخ نویسوں سے تاریخ اس طرح لکھوائی کہ جو پڑھتا اسے لگتا کہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی رانا آدمی نہ تھے۔ انہوں نے آتے ہی خواہ مخواہ تمام گورنریاں کرادیئے اور کسی کا مشورہ نہ مانا۔

سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جدوجہد نظام خلافت کو بچانے کی آخری کوشش تھی۔ وہ اس دین کو

اصل شکل میں بحال کرنا چاہتے تھے جس کو بدلنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دین کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی جس کو لوگوں نے شیعہ، سنی کش مکش بنا دیا۔ انہوں نے اپنا سر دے کر کوشش کی کہ سیلاب کو روکا جائے مگر سیلاب نہ رک سکا۔ لوگ جاگیروں اور وظیفوں کے ذریعہ دنیا کے عادی ہو چکے تھے لہذا علی رضی اللہ عنہ ان کو پسند نہ آئے۔ وہ ان کے دور کے آدمی نہ تھے۔

جنگ نہروان کے بارے میں پیش گوئی کے بارے میں 25 صحابہ کرام سے احادیث مروی ہیں۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ج: 12 ص: 302 پر ان سب کے نام لکھے ہیں۔ امام لکھتے ہیں:

”یہ 25 تو صحابی ہیں مگر ان کے طرق بے شمار ہیں۔ سارا مواد پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ بلا شک اور قطعی خبر تھی جو حضور ﷺ نے بطور پیش گوئی بیان فرمائی۔ یہ جنگ ایسی تھی کہ سب پر واضح ہو گیا کہ حق علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ پہلی جنگوں کے متعلق کچھ لوگ بہانے بناتے ہیں مگر اس جنگ پر سب متفق ہیں کہ حق علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔“

یہ گروہ خوارج سے جنگ تھی۔ جنگ صفین میں ثالثی کے بعد 12,000 لوگ لشکر علی رضی اللہ عنہ سے الگ (خارج) ہو گئے۔ اور بغاوت کر دی۔

(ابن حجر، فتح الباری، ج: 11 ص: 284)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو ان کے سمجھانے سے 8,000 نے توبہ کر لی مگر 4,000 اڑے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ خلیفہ برحق تھے، مگر ثالثی مان کر آپ کافر ہو گئے کیونکہ آپ نے باغی امیر معاویہ کا سر کاٹ لینے کی بجائے ثالثی تسلیم کر لی۔ حالانکہ پہلے ثالثی ماننے پر بھی وہی لوگ مجبور کر رہے تھے اور قتل کی دھمکی دے رہے تھے۔ وہ لوگ قرآن کے قاری، عالم، نیک مگر تشدد تھے۔ دین داروں کو جب تشدد جیسی بیماری لگ جاتی ہے تو وہ نکتہ اعتدال کی حد پار کر جاتے ہیں۔

بخاری استتابة المر تدین والمعادین باب من ترك قتال الخوارج

میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”حضور ﷺ تقسیم کر رہے تھے کہ اس وقت ایک صحابی عبداللہ بن ذوالنویصرہ تھیں آپ پہنچا اور کہنے لگا اے محمد (ﷺ) عدل کر! دوسری کتابوں میں اس کے اور الفاظ بھی آتے ہیں کہ اس نے کہا اے محمد! تجھے خدا نے ڈرنے اور انصاف کرنے کا حکم دیا تھا مگر تم نہ خدا سے ڈرے نہ انصاف کیا، تمہاری ساری تقسیم باطل ہے۔“

اس بد بخت نے یہ سب بکواس حضور ﷺ کے رویہ و کردی۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”تیرا بیڑا غرق ہوا! اگر میں نے انصاف نہ کیا تو دنیا میں کون انصاف کرے گا۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں رہنے دے، اس کا ایک گروہ نکلے گا جن کی نماز اور روزے کے سامنے تم اپنے نماز روزے حقیر جانو گے مگر وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیرے شکار سے پار ہو جاتا ہے۔ مگر اس پر نہ خون لگا ہوتا نہ گوبر یعنی ان کی ایک ایک چیز دیکھ لو تو دین کا نشان تک ان میں نہ ہوگا۔ حضور ﷺ نے ان لوگوں کی ایک ایسی نشانی مقرر کر دی جس سے حق واضح ہو گیا۔ جب خارجی قتل ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کے دل میں بھی شک آ گیا تھا کہ ہم سے بہت غلط کام ہوا جو اتنے پرہیزگار لوگوں کو قتل کر دیا۔

نشانی یہ بیان فرمائی کہ ان خارجیوں میں ایک شخص ایسا ہوگا جس کا ایک بازو عورت کے پستان کی طرح ہوگا۔ یہ لوگ اس وقت پیدا ہوں گے جب مسلمانوں میں پھوٹ پڑ چکی ہوگی اور خارجیوں کو وہ گروہ قتل کرے گا جو حق پر ہوگا۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

”گو ایسا دیتا ہوں کہ ان کو علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا اور میں بھی ان کے ساتھ تھا جب وہ

شخص لایا گیا اور اس کی شکل وہی تھی جو حضور ﷺ نے بیان فرمائی تھی۔ ابوسعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اس ذوالنویصرہ کے بارے میں تو قرآن کی آیت اتری کہ بعض لوگ تجھ پر صدقات کی تقسیم میں الزام لگاتے ہیں۔“ (سورہ توبہ)

جب جنگ نہروان حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جیت لی تو مقتولین میں سے اس شخص کی تلاش کا حکم دیا۔ لوگ آ کر کہنے لگے نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا اللہ بھی سچا ہے اور اس کا رسول بھی سچا ہے، پھر تلاش کرو۔ آخر خود تشریف لے گئے اور ایک گڑھا دیکھا جس میں بہت سی لاشیں ڈھیر کی شکل میں پڑی تھیں۔ ان لاشوں کو ہٹایا تو ان میں سے اس شخص کی لاش ملی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی وقت سجدہ کیا اور فرمایا اللہ اور اس کا رسول سچا ہے۔“

(ما جاء في قول الرجل ويلك كتاب الادب)

اس حدیث کے ہم معنی احادیث بخاری میں دوسری جگہ اور دوسری کتابوں میں بھی آتی ہیں مثلاً

(بخاری کتاب الانبیاء باب قول الله تعالى والی عاد اخاهم هوداً، کتاب المناقب باب علامات النبوت فی الاسلام، نسائی کتاب المحاربة باب من شهر سيفه ثم وضعه فی الناس، مسند احمد، 11600، 11305، 11311، 11718، 11671، 11644، 11558، مسلم کتاب الزکاة باب اعطاء المؤلفه)

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ان کے بیٹے مصعب نے پوچھا کیا اخرین اعمالا سے مراد حروری لوگ ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں اس سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں۔ یہود حضور علیہ السلام کا انکار کر کے کافر ہوئے اور نصاریٰ جنت کا انکار کر کے وہاں کھانا پینا نہ ہوگا۔ حروریہ (خارجی) تو ان میں داخل ہیں جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ ان کو فاسق کہا کرتے تھے۔

(بخاری کتاب التفسیر باب قل هل انشکم اخسریٰ اعمالا)

خارجی لوگ کافروں والی آیات مسلمانوں پر چسپاں کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کو بدترین مخلوق شمار کرتے تھے۔ ان کی نشانی ٹنڈ کرنا تھی۔ خارجیوں کو قتل کرنا ثواب کا کام تھا۔

(بخاری کتاب استتابة المرتدين والمعاندين باب قتل الخوارج والملحدین بعد امامة الحجة عليهم، کتاب التوحید باب قراة الفاجر و المنافق، کتاب لمناقيب باب علامات نبوة فی الاسلام، کتاب التفسیر باب الم من رای بقراة القرآن، مسلم کتاب زکوة باب اعطاء المولفة، مسند احمد حدیث 11637)

ابو امامہ نے کہا، خارجی دوزخ کے کتے ہیں۔

(ترمذی ابواب التفسیر باب تفسیر سورہ آل عمران)

خارجیوں کو قتل کرنے کا حکم حضور ﷺ نے دیا تھا۔ (مسند احمد: 11135)

امام ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری ج: 12، ص: 299 پر لکھتے ہیں:

”اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی شان ہے اور ان کے ساتھی حق پر تھے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی تمام جنگوں، جمل، صفین اور نہروان میں حق پر تھے۔“

حضور ﷺ نے فرمایا تھا:

”خارجی اس وقت ظاہر ہوں گے جب امت دو حصوں میں بٹ چکی ہوگی اور خارجیوں کو وہ گروہ قتل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔“

(مسند احمد حدیث: 11031، 11468، 11634، 11928، مسلم کتاب الزکوة باب اعطاء المولفة)

امام شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”جنگ نہروان بن بازو شخص کی لاش ملنے سے یہ ثابت ہو گیا کہ علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی حق پر تھے اور معاویہ اور ان کے ساتھی باطل پر تھے۔ اس بات

میں کوئی منصف شک نہیں کر سکتا اور اس کا انکار صرف متعصب آدمی کرے گا یہ حدیث اور حدیث عمار رضی اللہ عنہ بھی دلیل ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی حق پر تھے۔“

(نیل الاوطار ج: 7، ص: 175)

خليفة برحق سيدنا علي رضی اللہ عنہ کے دور میں آزادی اظہار کا یہ عالم تھا کہ خارجی ان کو قتل کی دھمکیاں دیتے تھے مگر آپ نے ان کے خلاف محض دھمکی دینے کے جرم میں کوئی قدم نہ اٹھایا۔ فتح القدير شرح ہدایہ باب البغاة اور دیگر کتب فقہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کوفہ کی مسجد میں بعض خوارج حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں خدا سے عہد کرتا ہوں کہ علی رضی اللہ عنہ کو ضرور قتل کروں گا۔ کثیر المحضری اسے سن رہے تھے۔ وہ اس شخص کو پکڑ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لائے تو آپ نے اسے چھوڑ دینے کا حکم دیا، کثیر نے کہا یہ آپ کے قتل کی قسم کھا چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا میں اسے قتل کروں حالانکہ اس نے مجھے قتل نہیں کیا۔ کثیر نے کہا یہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا۔ آپ نے کہا تم چاہو تو جوانی گالی دے لو ورنہ چھوڑی دو۔

مسجد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ منبر پر ہوتے اور حاضرین میں سے کوئی خارجی کھڑا ہو کر کہتا تم کافر ہو، ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس پر آپ کوئی قدم نہ اٹھاتے بلکہ کہتے بیٹھ جا! کوئی بات نہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ نہ تم لوگوں کا بیت المال سے وظیفہ بند کروں گا نہ مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روکوں گا۔ میرے بارے میں جو کہو گے کوئی نوٹس نہ لوں گا مگر خون خرابہ نہیں کرنے دوں گا۔ لیکن خارجی باز نہ آئے۔ (فتح الباری، ج: 12، ص: 284)

اب ذرا ان کے زہد و تقویٰ کی داستان بھی سن لیں۔ اگر کوئی خارجی کسی عیسائی ذمی کے باغ سے ایک کھجور بلا اجازت توڑ لیتا تو اس کو کافر قرار دے دیتے کہ اس نے ذمی رعایا کا نقصان کیا لیکن مسلمانوں کی بستیوں میں گھس کر ان کا قتل عام کرتے کہ ان کے خیال میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھی کافر ہیں لہذا ان کا قتل جائز ہے۔ اس کو زہد و تقویٰ کا ہیضہ کہتے ہیں۔

ان کے ظلم کی انتہائی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام کے مقرر کردہ گورنر حضرت عبداللہ بن خباب بن ارت اپنی بیوی کے ساتھ اپنے علاقہ کو تشریف لے جا رہے تھے۔ ان کو ایک پل پر خارجیوں نے روک لیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں مشہور صحابی رسول حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہوں۔ خارجیوں نے ان کو چھری سے ذبح کیا اور ان کی حاملہ بیوی کا پیٹ چاک کر کے بچہ نیزے میں پرو دیا۔ (فتح الباری ج: ۱۲ ص: ۲۸۴)

اس پر امیر المومنین نے ان کو پیغام بھیجا کہ میں نے تم کو جس کام سے منع کیا تھا تم وہی کر رہے ہو۔ اب مجھ پر لازم ہو گیا ہے کہ میں تم سے جنگ لڑوں۔ جنگ سے پہلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس بھیجا۔ ان میں سے ۸,۰۰۰ نے توبہ کر لی باقی اڑے رہے۔ یہ تھے وہ خارجی جن کے بارے میں حضور علیہ السلام فرما چکے تھے کہ اگر میں اس وقت زندہ ہوا، جب وہ ظاہر ہوں گے، تو میں ان کو جہاں پاؤں، قتل کر دوں گا۔ وہ لوگ آسمان کی چھت تلے بدترین مخلوق ہوں گے۔ جو حق پر ہو، اس کو چاہئے ان کو قتل کرے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کو قتل کیا۔

دوران جنگ لوگ حضرت علی علیہ السلام کو بتاتے کہ خارجی نہر پار کر آئے ہیں۔ آپ فرماتے کہ وہ نہر پار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نبوی پیش گوئی ہے بلکہ ہم اس طرف جائیں گے، اور تم میں سے صرف ۱۲ شہید ہوں گے۔ جبکہ خارجی سب قتل ہوں گے صرف ۱۰/۱۲ بچیں گے۔ لوگوں نے جنگ کے بعد گنا تو ایسا ہی پایا

(بخاری کتاب استتابہ المرتدین والمعاندین باب قتل الخوارج و الملحدين بعد امامة الحق عليهم)

عقائد میں اہل سنت کے امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی کتاب ”مقالات الاسلامیہ“ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ وہ پہلے معتزلی تھے، پھر اہل سنت کے امام ہوئے۔ انہوں نے معتزلہ سے قلمی اور زبانی جنگ لڑی۔ ان کی تحقیق کا نچوڑ امام عبدالکریم شہرستانی رحمہ اللہ نے

اپنی کتاب ”الملل والنحل“ میں پیش کیا ہے۔ یہ کتاب مذاہب عالم کے بارے میں ہے۔ ان کی کتاب پڑھ کر آدمی حیران ہوتا ہے کہ وہ اس دور میں بدھ مت، ہندو مت، عیسائیت وغیرہ مذاہب کے بارے میں بہت جانتے تھے۔ ان کے فرقوں اور گرو گھنٹال کے بارے میں جانتے تھے۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے فرقوں کے بارے میں بھی معلومات رکھتے تھے۔ کتاب کا نام ہی گروہ اور فرقے رکھا ہے۔ وہ ۴۷۹ھ میں پیدا ہوئے اور ۵۴۸ھ میں فوت ہوئے۔

وہ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کا صحابہ کی لڑائیوں کے بارے میں یہ عقیدہ لکھتے ہیں۔

”ہم اہل سنت عائشہ رضی اللہ عنہا، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوائے اس کے کچھ نہیں کہتے کہ وہ خطا پر تھے مگر انہوں نے اپنی غلطی سے رجوع کر لیا، طلحہ رضی اللہ عنہ وزبیر رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے اور جنت میں ہیں۔ معاویہ و عمرو بن عاص نے امام حق سے بغاوت کی اور اس بغاوت پر جتے رہے اور امام برحق نے اس بغاوت کے جرم میں ان سے جنگ لڑی جو جنگ نہروان والے خارجی تھے، وہ دین سے نکلے ہوئے لوگ تھے، جیسا کہ حدیث نبوی میں ہے، ان تمام جنگوں میں حق علی کے ساتھ تھا، وہ جدھر جدھر گھومتے گئے، حق ان کے ساتھ گھومتا گیا۔“

(الملل والنحل ج: ۱ ص: ۱۰۳، علامہ احمد بن علی مقریزی، الخطط والآثار ج: ۲ ص: ۳۶۰)

یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ جس کو ناصبی مجروح کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ہی گھر کو آگ لگا رہے ہیں۔ مختلف فرقوں کے بارے میں امام عبدالقادر رحمہ اللہ نے ۴۲۹ھ میں ایک کتاب ”الفرق بین الفرق“ لکھی۔ اس کے ص: ۳۴۲، پر امام لکھتے ہیں:

”ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام اپنی تمام جنگوں، جمل، صفین، نہروان میں حق پر تھے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ طلحہ رضی اللہ عنہ نے توبہ کر لی تھی اور جنگ سے رجوع کر لیا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جنگ چھوڑ کر چلے گئے تو ان کو وادی سہار

میں قتل کر دیا گیا، جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ زبیر رضی اللہ عنہ جنگ چھوڑ کر چلے گئے تو انہوں نے بھی جنگ سے نکل جانے کا ارادہ کر لیا۔ مروان بن حکم نے زہر آلود تیر سے ان کو شہید کر دیا۔ اہل سنت یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارادہ جنگ کا نہ تھا۔ بلکہ دونوں فریقوں میں صلح کے ارادہ سے وہاں گئی تھیں۔ مگر بنو ضہر اور بنو ازدان کی رائے پر غالب آ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اجازت کے بغیر جنگ شروع کر دی، پھر ہوا جو ہوا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ صفین میں حق علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، معاویہ اور ان کے ساتھیوں نے بغاوت کی۔ انہوں نے جو سمجھا، غلط سمجھا مگر اس غلطی سے کافر نہیں ہوئے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حکیم (ثالث مان لینے میں) میں حق پر تھے، جبکہ ثالثوں نے بالکل غلط قدم اٹھایا اور ایک ثالث نے دوسرے ثالث سے دھوکہ کیا۔

حنفی حضرات کی سب سے مشہور کتاب ہدایہ کے باب البغاة میں لکھا ہے کہ حق علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور جو ان سے لڑے سب باغی تھے۔ شافعیوں کی کتابوں میں بھی یہی بیان ہوا ہے۔

اہل حدیث حضرات کے امام نواب سید صدیق حسن خاں رحمہ اللہ کی کتاب "الروضة السندیہ" اہل حدیث مدرسوں کے نصاب میں شامل ہے۔ یہ فقہ الحدیث کے موضوع پر ہے۔ اس کا متن امام شوکانی کی کتاب "الدرر البہیہ" ہے جو چھوٹا سا رسالہ ہے۔ اس میں امام شوکانی رحمہ اللہ نے اپنی عمر بھر کی تحقیق کا نچوڑ لکھ دیا ہے۔ اس کی شرح نواب صدیق رحمہ اللہ نے "الروضة السندیہ" کے نام سے لکھی۔ نواب صاحب اس کتاب کی ج: 2، ص: 361-360 پر لکھتے ہیں:

"ساری امت کے عقیدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ بلاشبہ جتنے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لڑے باغی تھے اور حق علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ و زبیر رضی اللہ عنہ نے

پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی پھر بیعت توڑ کر مکہ چلے گئے اور وہاں لشکر اکٹھا کر کے جنگ کی تیاری کی۔ لہذا ان سے جنگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ضروری ہو گئی تھی۔ خارجیوں سے جنگ کے بارے میں متواتر احادیث بتاتی ہیں کہ وہ گروہ دین سے نکل گیا تھا۔ اہل صفین کا باغی ہونا بالکل ظاہر ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ کو باغی ٹولہ قتل کرے گا۔ یہی حدیث کافی ہے۔ معاویہ جیسے آدمی کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ٹکر لیتے۔ وہ دنیا کے طالب اور حکومت کے بھوکے تھے۔ ان کو شام کے بے وقوف لوگ مل گئے جن کو نہ نیکی کا پتہ تھا نہ ہدی کا۔ معاویہ نے خون عثمان رضی اللہ عنہ کا بہانہ بنا کر شامیوں سے دھوکہ کیا۔ ان پر یہ جادو چل گیا اور لوگوں نے اپنے جان و مال لٹا دیے۔ شام کے لوگوں پر ہمیں کوئی حیرانی نہیں، حیرانی تو ان صحابہ اور تابعین پر ہے کہ وہ کیوں معاویہ کے پاس چلے گئے؟ خدا کی قسم! مجھے ان کے اس عمل کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ انہوں نے کیوں اہل باطل کی مدد کی اور اہل حق کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا حالانکہ وہ قرآن میں سن چکے تھے کہ "باغیوں سے جنگ کرو۔" (حجرات: 9/49)

کیا ان کو حدیثیں بھول گئی تھیں کہ جب تک جائز خلیفہ کفر بواح (کھلم کھلا کفر) نہیں کرتا، اس کے خلاف خروج منع ہے۔ (کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟) ان لوگوں نے یہ بھی سنا تھا کہ عمار رضی اللہ عنہ کو باغی ٹولہ قتل کرے گا۔ اگر مجھے اس بات کا لحاظ نہ ہو کہ وہ چند دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے، تو میں صاف کہہ دیتا کہ جیسے پہلی امتیں برباد ہوئیں، ان لوگوں (چند صحابہ و تابعین) کو بھی دنیا کے لالچ نے برباد کر دیا۔"

مکتبہ سلفیہ مکہ مکرمہ سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس کا نام "معارج القبول بشرح سُلَّم الاصول الی علم الاصول فی التوحید" ہے جو حافظ احمد علی کی تالیف ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں:

”سیدنا علیؑ اپنے پورے دور خلافت میں حق پر قائم رہے۔ دین پر مستقیم رہے، کتاب اللہ کو نہیں چھوڑا، سنت رسول سے ادھر ادھر نہیں ہٹے۔ وہ کوشش کرتے رہے کہ منقش امت کو دوبارہ اکٹھا کروں اور فتنہ کی آگ بجھا دوں، بدعتی لوگوں کو ختم کر دوں، مگر اس دوران وہ شقی ابن ملجم خارجی ملعون نے اس نیک بندہ خدا پر حملہ کیا اور مسجد میں شہید کر دیا۔ اللہ اُس ملعون پر لعنت کرے اور میرا یقین ہے کہ وہ کرچکا! نہروان میں خارجیوں اور خون عثمانؓ کا مطالبہ کرنے والوں سے حضرت علیؑ دین کو زیادہ جانتے تھے۔“ (ج: 2، ص: 581-582)

امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں:

”حضرت فضیلؓ بن عیاض سے امیر معاویہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ ہیں تو صحابی مگر دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے۔“

(البدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 152)

مولانا ابوالحسن علی ندویؒ فرماتے ہیں:

”امیر معاویہ خلفائے راشدین جیسی حکومت کیسے کر سکتے تھے کیونکہ انہیں وہ محبت نصیب نہیں ہوئی جو پہلوں کو ملی۔“

امام ابن حجرؒ فتح الباری میں تعبیر الدیاء کے باب کی شرح میں لکھتے ہیں:

”خلفائے راشدین کے علاوہ حکمرانوں کو اگر ہم خلیفہ کہتے ہیں تو وہ صرف ایک لغوی اصطلاح ہے ورنہ دین کے مطابق سب ملوک ہیں۔ ان کا طرز عمل وہ نہیں جو رسول خداﷺ کا تھا۔“

ابن کثیر البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: پر لکھتے ہیں کہ سنت یہی ہے کہ معاویہ کو بادشاہ کہا

جائے۔ خلیفہ نہ کہا جائے کیونکہ حضورﷺ کی حدیث ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک ہے پھر ملک عضو ہے۔

امام ابن تیمیہؒ، شاہ ولی اللہؒ اور ارشاد الحق اثری صاحب کامشاجرات صحابہ میں مسلک یہ ہے کہ معاویہ کے مقابلہ میں اگر علیؑ حق پر ہیں مگر حضرت علیؑ بھی غلطی پر تھے حق وہ ہے جو سعدؓ بن ابی وقاص وغیرہ غیر جانبدار حضرات کہتے تھے کہ جنگ لڑنے کی بجائے حجروں میں بیٹھ جانا چاہیے۔ حضرت علیؑ کو چاہتے تھا کہ حکومت چھوڑ دیتے، جو چاہتا سنبھال لیتا، یہ جنگ لڑنا برا کام تھا۔ ان حضرات نے اس طرح خلیفہ برحق کے طرز عمل کو غلط ٹھہرایا۔ جن اصحاب نے غلطی کی اور بعد میں تادم ہوئے، ان کے طرز عمل کو درست ٹھہرایا کہ انہوں نے فتنہ میں حصہ نہ لیا، ورنہ یہ فتنہ وہ نہ تھا جس میں حصہ لینے سے حضورﷺ نے منع فرمایا، حضرت علیؑ کی جنگ تو قرآن پر عمل تھا کہ باغیوں سے لڑو۔ ان نیک صحابہ یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص، ابن عمرؓ اور محمد بن مسلمہؓ کی غیر جانبداری نے حضرت علیؑ کو بہت نقصان پہنچایا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے صرف یہ دیکھ کر حضرت علیؑ کا ساتھ نہ دیا کہ غیر جانبدار رہنا ہی درست راستہ ہے، ورنہ باغی کچلے جاتے۔ خلیفہ برحق کے خلاف بغاوت ہو اور وہ حکومت چھوڑ کر گھر چلا جائے، تو ذرا سوچئے ملک میں کیا ہوگا؟ یہ تو نری جہالت ہے کہ باغیوں کو کچلنے کی بجائے وہ حکومت چھوڑ دے۔

امام ابن حجرؒ اور امام نوویؒ کے حوالہ سے امام شوکانیؒ نیل الاوطار ج: 5، ص: 343-344 پر لکھتے ہیں:

”کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں میں جنگ ہو تو کسی کا ساتھ نہ دو بلکہ وہ قتل کرنے کیلئے آجائیں تو قتل ہو جاؤ۔ دوسرے کہتے ہیں کہ باغیوں سے نہ لڑو، اگر وہ تم کو قتل کرنے کے لئے آجائیں تو مقابلہ کرو۔ بعض کہتے ہیں وہ علاقہ چھوڑ دو۔“

امام نوویؒ کہتے ہیں:

”یہ سب مذہب غلط ہیں۔ جمہور صحابہؓ کا مذہب یہ ہے کہ باغیوں سے جنگ لڑو اور خلیفہ برحق کی مدد کرو۔ یہی علماء اسلام کی اکثریت کا مذہب ہے

کیونکہ قرآن میں حکم ہے کہ باغیوں سے لڑو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہی صحیح مذہب ہے۔ اگر پہلے گروہ کی بات مان لی جائے کہ مقابلہ نہ کرو، تو پوری دنیا میں فساد پھیل جائے اور بد معاش غالب آجائیں۔ باغیوں سے جنگ لڑنے کے حکم والی آیت کے علاوہ دوسری آیات و احادیث سے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے واجب ہونے کا حکم ملتا ہے۔“

شہادت عظمیٰ

امام ہادیؑ انا م ابوالآئمہ العظام حضرت علیؑ علیہ السلام

بکر بن حماد القاہری نے واقعہ ہائیکہ شہادت پر جو اشعار کہے ان کا ترجمہ یہ ہے۔
 ”ابن مہجم سے کہنا (گو میں جانتا ہوں) کہ تقدیر سب پر غالب ہے کہ کم بخت تو نے اسلام کے ارکان کو ڈھایا۔ وہ شخص جو زمین پر چلنے والوں میں سے سب سے افضل تھا اور اسلام اور ایمان میں سب سے اول تھا اور قرآن و سنت کے جاننے میں سب سے اعلم تھا، تو نے اسے قتل کیا۔ وہ داماد نبی اور ان کا دوست و ناصر تھا جس کے مناقب کے نور اور برہان روشن ہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام۔ جو لڑائی میں شیر براں اور دلیر شیر تھا جب خوب گھسان کا رن پڑ جاتا! میں اس کے قاتل کا خیال کرتا ہوں اور روتا روتا کہتا ہوں اے اللہ! تو پاک ہے، تیری قدرت عجیب ہے۔ میں تو اس قاتل کی بابت کہوں گا کہ وہ بشر نہیں جو قیامت سے ڈرتا ہو بلکہ وہ شیطان ہے اپنے قبیلہ مراد میں سب سے زیادہ بد بخت اور میزان میں سب سے زیادہ زیاں کار۔ (وہ تو) عاقر ناقہ جیسا تھا جس نے صالح علیہ السلام کی ناقہ کو مارا اور قوم ثمود پر ملک حجر میں تباہی لانے کا سبب ٹھہرا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ پر وار کرنے سے اس کا مقصد یہی ہوگا کہ وہ خود جہنم کی آگ کا ایندھن بن سکے۔“

(رحمۃ العالمین، تاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، ص: 337-338، ج: 2)

قرآن مجید میں کئی مقامات پر قوم شہود کا ذکر آیا ہے۔ اس بد نصیب قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے سیدنا صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ آخر انہوں نے مطالبہ کیا کہ اپنی نبوت کی کوئی نشانی دکھائیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ نے نشانی مقرر کر دی ہے، اس کو برائے سے ہاتھ نہ لگانا۔ اگر بری نیت سے کسی نے چھیڑا تو برباد ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے۔ ایک دن یہ اکیلی پانی پئے گی اور ایک دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ نامراد باز نہ آئے۔ اللہ کے نبی کی بات کو جھٹلایا اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔

ہماری امت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ناقہ اللہ کو پیدا کیا کہ اس کو قتل نہ کرنا ورنہ تم پر اندھیری رات چھا جائے گی اور تم ہمیشہ اندھیروں میں ٹھوکرین کھاتے پھرو گے۔ وہ اونٹنی حضرت علی علیہ السلام تھے، جن کو بد قسمتی سے اس امت نے قتل کر دیا۔

امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ، ج: 7، ص: 227 تا 229 پر ذکر مقتل امیر المومنین علی علیہ السلام ابن ابی طالب کے عنوان کے تحت وہ تمام احادیث درج کر دی ہیں جن میں سیدنا علی علیہ السلام کی شہادت اور اس کی کیفیت کا بیان ہے۔

حضرت جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں:

”حضور ﷺ نے پوچھا کہ پہلی امتوں میں سب سے بد نصیب آدمی کون تھا؟ لوگوں نے عرض کیا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے والا پھر پوچھا اس امت کا سب سے بد بخت آدمی کون ہوگا؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”علی علیہ السلام! وہ تیرا قاتل ہوگا۔“

حضرت علی علیہ السلام بار بار لوگوں سے فرماتے کہ اس اللہ کی قسم جس نے جانیں پیدا کیں، جو انگوریاں آگاتا ہے۔ (یعنی بیج پھاڑتا ہے) کہ میرا سردار اسی تک خون سے رنگا جائے گا۔ وہ بد بخت کیوں نہیں آتا؟ میں ان مسلمانوں سے تنگ آچکا ہوں۔ عبد اللہ بن

سبعہ نے کہا امیر المومنین! اللہ کی قسم اگر کسی آدمی نے یہ کام کیا تو ہم اس کی نسل ختم کر دیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اگر ایسا ہوا تو میرے قاتل کے سوا کسی کو قتل نہ کرنا۔ یہ تھا علی علیہ السلام کا عدل!

حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ناقہ اللہ کا قتل ہے۔ اس امت کے تابوت میں آخری کیل حضرت علی علیہ السلام کی شہادت تھی۔ وہ ایک انسان سے زیادہ ایک مدرسہ فکر تھے۔ وہ ایک اصول کیلئے لڑ رہے تھے کہ اللہ کے دین کو بچالو اور حکومت ایسی ہو جیسی رسول کریم ﷺ نے بنائی تھی۔ سیدنا علی علیہ السلام سیاسی اسلام کے قاتل تھے۔ حکومت وہ چشمہ ہے جو گدلا ہو جائے تو سارا پانی گدلا ہو جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام اس کی آخری نشانی تھے۔

اس وقت دوا اصول، دو مدارس فکر برسرِ پیکار تھے۔ ایک دنیاوی سیاست تھی۔ امیر معاویہ دنیاوی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے جس کا کوئی اصول نہیں۔ جھوٹ بولنا پڑے بولو، ناجائز سختی کرنا پڑے تو کرو، لوگوں کے مال چھیننا چاہو تو چھین لو، وہاں نہ کوئی اصول تھا نہ دین تھا، بظاہر نماز روزہ تھا مگر حکومت دنیاوی تھی۔ اس وقت دنیاوی حکومت اور دینی حکومت ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔

حضرت علی علیہ السلام دینی حکومت کی بقاء کیلئے لڑ رہے تھے۔ ان کو اپنے اقتدار سے غرض نہ تھی۔ وہ نبیوں کی میراث کیلئے برسرِ پیکار تھے کہ حکمران امت کا سب سے عادل اور متقی آدمی ہو اور وہ قرآن کے ماتحت رہ کر کام کرے۔ مگر ان کی پیش نہ چلنے دی گئی کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے لوگ حکومت سے وظیفے اور جاگیریں لینے کے عادی ہو چکے تھے۔ اس لیے لوگوں کا مزاج بدل چکا تھا علی علیہ السلام ان کو موافق نہ تھے۔ وہ لوگوں کو جدھر موڑنا چاہتے تھے۔ لوگ وہ رستہ چھوڑ چکے تھے۔ فتوحات کے بعد بہت مال آ گیا۔ دنیا میں دنیا داری آ گئی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام لوگوں کو درکار نہیں تھے۔

جنگِ جمل، جنگِ صفین، جنگِ نہروان اور امیر معاویہ کے چھاپہ مار دستوں نے حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کو کمزور کر دیا۔ امیر معاویہ کے چھاپہ مار دستے حضرت علی علیہ السلام

کے زیر انتظام علاقوں میں آبادیوں کو لوٹے اور بھاگ جاتے۔

امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”معاویہ کی پوزیشن روز بروز مضبوط ہوتی گئی۔ ہر طرف ان کے فوجی چھاپے ماردستے پھرتے تھے اور آبادیوں کو لوٹتے تھے۔ نعرہ یہ لگاتے کہ علی علیہ السلام کے ثالث نے ان کو برطرف کر دیا ہے اور امیر معاویہ کے ثالث نے ان کو خلیفہ مقرر کر دیا لہذا علی علیہ السلام اب خلیفہ نہیں ہے، اب معاویہ امیر المومنین ہیں۔ جو ان جوں معاویہ کا کام ترقی کرتا چلا گیا، عراقی کمزور ہوتے چلے گئے آبادیاں چھن گئیں، فوج بدول ہو گئی حتیٰ کہ مدینہ تک چھن گئے۔

حضرت علی علیہ السلام کو اتنا زیادہ تنگ کیا گیا کہ انہوں نے دعا کی اے اللہ ایہ لوگ مجھ سے تنگ آچکے ہیں اور میں ان سے تنگ آچکا ہوں۔ یہ مجھے اچھا نہیں جانتے، میں ان کو اچھا نہیں جانتا۔ مجھ پر رحم فرما، میری جان ان لوگوں سے چھڑا دے۔ اس دعا کے بعد ایک جمعہ بھی نہیں گزرا کہ آپ شہید کر دیئے گئے۔“ (ابن کثیر: الہدایہ والنہایہ، ج: 7، ص: 355)

ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شاہ ولی اللہ نے جھوٹی روایات کا سہارا لے کر حضرت علی علیہ السلام نے ذمے بات لگائی جس سے امیر المومنین بری ہیں۔ ایسی تمام روایات من گھڑت اور جعلی ہیں جن میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام آخر میں پچھتائے تھے اور کہتے تھے کاش میں 20 سال پہلے مر گیا ہوتا! یہ بالکل سفید جھوٹ ہے۔ ان کو اپنی جنگوں کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو فرما چکے تھے اور پیش گوئی کر چکے تھے کہ علی علیہ السلام یہ جنگیں لڑیں گے۔ یہ ان کے ذمہ تھت ہے کہ نتائج دیکھ کر وہ کہتے تھے کاش میں ان جنگوں میں نہ پڑتا۔ اس کے علاوہ یہ جھوٹ حضرت علی علیہ السلام کے ذمہ لگایا گیا کہ آخر میں خط و کتابت کے ذریعہ علی علیہ السلام نے امیر معاویہ سے طے کر لیا کہ تم شام میں حکومت کرو میں عراق پر حکومت کرتا ہوں، لہذا وہ آدمی حکومت دینے پر رضامند ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایسی

بات کبھی نہیں کی، اور ایسی تمام روایات جھوٹی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے آخر تک امیر معاویہ کو جازہ حکمران تسلیم نہ کیا، نہ ان سے کوئی معاہدہ کیا اور نہ کوئی حصہ دینا تسلیم کیا۔ اسی طرح حضرت حسن علیہ السلام کا نام لے کر جھوٹ بولا گیا کہ حضرت حسن علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام سے کہتے تھے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ ان کاموں میں نہ پڑیں۔ حضرت حسن علیہ السلام نے ایسا کبھی نہیں کہا اور وہ ہر جنگ میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔

جب حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا وقت آیا تو تین آدمی مکہ میں جمع ہوئے۔ انہوں نے آپس میں بات کی اور نتیجہ نکالا کہ تین آدمیوں کی وجہ سے امت میں انتشار ہے، ایک امیر معاویہ، دوسرے عمرو بن عاص، اور تیسرے حضرت علی علیہ السلام، لہذا ان تینوں کو ختم کر دیا جائے تاکہ انتشار ختم ہو۔ ان کے بعد امت اپنا حکمران پھر سے چن لے گی۔

ابن ملجم حضرت علی علیہ السلام کا قاتل ضرور ہے مگر اس نے اجتہاد کیا۔ وہ آدمی نیک تھا مگر مغالطے کا شکار ہو گیا۔ ابن کثیر، طبری اور تہذیب الآثار میں ہے کہ جس نے ایمان داری سے اجتہاد کر کے نہایت برا کام کیا، وہ ابن ملجم تھا۔

جو عمرو بن عاص کو قتل کرنے گیا وہ اس لیے کامیاب نہ ہوا کہ اس دن عمرو بن عاص کی بجائے فجر کی نماز پڑھانے کے لئے ایک آدمی عمرو بن خارجہ آیا تو اس کو زخمی کر دیا، دوسرے آدمی نے امیر معاویہ پر حملہ کیا مگر کامیاب نہ ہوا اور پکڑا گیا، ابن ملجم کا وار کامیاب رہا۔

سیدنا علی علیہ السلام فجر پڑھانے آئے تو اس نے پیچھے سے سر پر وار کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے عین مطابق سر مبارک زخمی ہوا اور داڑھی خون سے رنگی گئی۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: ”کعبہ کے رب کی قسم میں مراد پا گیا!“ ابن کثیر لکھتے ہیں:

”پیش گوئی تھی اس امت کا شقی علی علیہ السلام کا قاتل ہوگا۔“

(الہدایہ والنہایہ، ج: 7، ص: 355)

اب ذرا امیر المومنین کا اخلاق ملاحظہ فرمائیں کہ دوسری پارٹی نے تو بچے تک نہ

چھوڑے مگر حضرت علیؑ نے اپنے قاتل کے بارے میں کیا فرمایا: ؟
امام بیہقی السنن الکبریٰ میں لکھتے ہیں:

”جب ابن ملجم نے ضرب لگائی اور پکڑا گیا تو حضرت علیؑ نے فرمایا:
”اے اچھا کھانا دو، جب تک قید میں رہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو،
اگر میں بچ گیا تو میں اپنے خون کا خود مالک ہوں، اگر مر جاؤں تو اس کو قتل
کر دینا مگر اس کی لاش نہ بگاڑنا۔“
(ج: 8، ص: 183)

حضرت علیؑ کے مخالف یہاں بھی باز نہ آئے، جو گناہ وہ خود کرتے تھے وہ
حضرت علیؑ کے گھر والوں پر لگا دیا کہ حسنؑ نے بعد میں عبداللہ بن جعفر کے ساتھ مل
کر ابن ملجم کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور پھر اس کو جلادیا۔ یہ سفید جھوٹ ہے اور اس بارے میں کوئی
روایت صحیح نہیں ہے۔ اصل صورت حال صرف اتنی ہے کہ ابن ملجم قتل کر دیا گیا۔
امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: حضرت علیؑ نے فرمایا: ”میرے بدلے میں صرف
میرے قاتل کو قتل کرنا۔“ (البدایہ والنہایہ: ج: 7، ص: 353)

آپ نے اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں فرمایا بلکہ بوقت شہادت فرمایا کہ اگر اللہ نے پوچھا
تو کہہ دوں گا کہ امت کو بے خلیفہ چھوڑ آیا ہوں۔ (ابن کثیر البدایہ: ج: 7، ص: 353)

حضرت علیؑ کی شہادت اس امت کی بد بختی کا آغاز تھی۔ پھر کوئی اصول باقی نہ
رہا۔ دولت اور جاگیروں کے ذریعہ لوگ خرید لئے گئے۔ حتیٰ کہ حضرت علیؑ کے داماد عبداللہ
بن جعفر کو بھی امیر معاویہ نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ حضرت حسینؑ نے جب یہ دیکھا کہ
سب بک چکے تو پھر خروج فرمایا۔ عبداللہ بن جعفر سے یزید نے حکومت سنبھالنے کے بعد
پوچھا کہ میرا باپ تجھے کتنا مال دیتا تھا۔ اس نے کہا ایک لاکھ درہم، یزید نے کہا یہ لے دو
لاکھ! ابن جعفر نے کہا لوگ مجھے کہتے ہیں میں یزید کو اچھا نہ کہوں بتاؤ میں یزید کو کیوں اچھا نہ
کہوں؟ ایسی صورت حال میں حضرت علیؑ اور حسینؑ کیسے کامیاب ہو سکتے تھے۔

اسلام کا اصل پیغام حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے ایلچی حضرت ربیع بن جابرؓ

عامر نے رستم کے دربار میں اس کے تخت پر کھڑے ہو کر دیا اور اسی پیغام نے دنیا کے دل
جیتے تھے۔ انہوں نے فرمایا:

”ہم لوگ اس لیے نکلے ہیں کہ لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی
غلامی میں پہنچا دیں۔ دنیا کی تنگنائے سے نکال کر آخرت کی وسعت میں
پہنچانا چاہتے ہیں۔ گروہ بندیوں سے نکال کر اسلام کی وسعت میں پہنچانا
چاہتے ہیں۔“

یہ نظام اگر دنیا میں چلتا رہتا تو پوری دنیا مسلمان ہو جاتی۔

صلح امام حسن علیہ السلام

”اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ“

اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔“ (سورۃ انفال: 61-62)

صلح حسن علیہ السلام اسلامی تاریخ کا سب سے نازک موضوع ہے۔ اس کے بارے میں اتنی غلط فہمیاں پھیلادی گئی ہیں کہ اس کو سمجھنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بڑے بڑے پھسل گئے۔ اس صلح سے اتنے غلط نتیجے نکالے گئے کہ سارا دین میڑھا ہو کر رہ گیا کہ جس گروہ سے حضرت علی علیہ السلام جنگ لڑتے رہے اور جو گروہ نص رسول کے مطابق باغی تھا، اس کے سامنے امام حسن علیہ السلام نے ہتھیار ڈال دیئے اور اس کو حکمران تسلیم کر لیا؟ اس وقت نیک آدمیوں کا بڑا گروہ غیر جانبدار بن گیا۔ اگر وہ علی علیہ السلام کا ساتھ دے دیتے تو اسلام کو اتنا نقصان نہ ہوتا اور فتنہ ختم ہو جاتا۔ ان غیر جانبدار حضرات نے اس صلح سے یہ جواز نکال لیا کہ اگر جنگیں درست تھیں تو پھر حضرت حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی؟ اگر حضرت علی علیہ السلام بھی امیر معاویہ سے صلح کر لیتے تو اس صلح سے زیادہ بہتر نتیجہ نکلتا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہی بات پکڑ لی اور کہا حضرت حسن علیہ السلام کا صلح کر لینا ہی ثابت کرتا ہے کہ ان کے والد کی جنگیں غلط تھیں۔

دوسری طرف اس گروہ نے جو نص رسول کے مطابق باغی تھا، یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر امیر معاویہ اتنے ہی نا اہل تھے تو حضرت حسن علیہ السلام نے ان کو حکمران کیوں تسلیم کر لیا؟ لہذا ان کی صلح نے یہ ثابت کر دیا کہ امیر معاویہ خلافت کے اہل تھے اور اس طرح ان کو سند جواز عطا کر دی۔

تیسری طرف جو لوگ حضرت حسن علیہ السلام کے فدائی تھے، ان پر بددلی کا پہاڑ گر گیا۔ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ سیدنا حسن علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں یعنی حضرت حجر بن عدی رحمہ اللہ جیسوں پر کیا گزری۔ وہ لوگ روتے رہے اور کہتے رہے کہ آپ ہمیں مروا دیتے تو اس سے بہتر تھا کہ امیر معاویہ کے سامنے ہمیں جھکا دیا؟ حضرت حسن علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے بعض اس صلح کے بعد، آپ کو یا عار المسلمین (اے مسلمانوں کیلئے باعث شرم) اور یا بذل المؤمنین (اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے) کہنے لگے۔

اس صلح کے بعد حضرت حسن علیہ السلام پر بہت مشکل وقت آ پڑا۔ دوست ناراض ہو گئے اور دشمنوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر حسن علیہ السلام حکومت کرنے کے قابل ہوتے تو امیر معاویہ کو حکومت کیوں سونپ دی؟ اور یہ کہ حسن علیہ السلام کو صرف عورتوں کا شوق ہے۔ کتابوں میں سیدنا حسن علیہ السلام کو بدنام کیا کہ نکاح کرتے جاتے اور طلاق دیتے جاتے۔ آپ سے حکومت بھی چھین لی اور یہ سفید جھوٹ بھی پھیلا دیا کہ حسن علیہ السلام کو سوائے عورتوں کے اور کوئی کام ہی نہیں لہذا انہوں نے حکومت کیا کرنی ہے؟ انہوں نے خود حکومت چھوڑی ہے، ان کو سوائے جماع کے اور کوئی کام آتا ہی نہیں!

یہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے نوے (90) عورتوں سے شادی کی۔ کسی نے جھوٹ بولنے والوں سے یہ نہ پوچھا کہ وہ نوے عورتوں کس قبیلہ سے تھیں، نام کیا تھے، کس کی اولاد تھیں؟ مگر سیدنا حسن علیہ السلام مظلوم ہو گئے۔

تاریخ میں امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے زیادہ مظلوم ہیں۔ ان سے اپنے بھی ناراض ہیں اور بیگانے بھی ناخوش! جو کہتے تھے صلح نہ کریں وہ بھی ناراض ہو گئے اور بعد میں جو کچھ ہوا، اے دیکھ کر وہ سچے بھی لگتے ہیں۔ پھر وہ پوچھتے تھے کہ اب جو ہو رہا ہے کیا یہ ٹھیک ہے؟ ساتھی قتل ہو رہے ہیں، جائیدادیں ضبط ہو رہی ہیں، حضرت علی علیہ السلام پر لعنت ہو رہی ہے، یہ صلح کرنا تھی؟

یہ موضوع اتنا نازک اور پیچیدہ ہے کہ تاریخ کی مدد سے حل ہونے والا نہیں، یہ صرف

حدیث کی برکت سے حل ہوگا۔ اسلامی تاریخ میں اس سے بڑھ کر کوئی موضوع پیچیدہ نہیں ہے۔

ایک بات تو ذہن میں یہ ہے کہ سیدنا حسن علیہ السلام کی صلح سے لوگوں نے جو یہ نتیجہ نکالا کہ حضرت علی علیہ السلام کی جنگیں حضور ﷺ کو پسند نہیں تھیں، اس لئے حضرت حسن علیہ السلام کی صلح کو حضور ﷺ نے اچھا جانا، تو یہ نتیجہ نکالنا بالکل غلط ہے۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، جنگ کے وقت جنگ لازم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام حضور ﷺ کے فرمان اور حکم قرآن کے مطابق جنگ لڑ رہے تھے کہ باغیوں سے لڑو۔ ان کی جنگیں قرآن پر عمل تھا۔ امام ماوردی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جس پوزیشن میں حضرت علی علیہ السلام تھے، اگر سیدنا حسن علیہ السلام بھی ہوتے، تو جنگ لڑتے اور جس پوزیشن میں سیدنا حسن علیہ السلام تھے، اگر حضرت علی علیہ السلام بھی ہوتے تو صلح کرتے۔ (الماوردی، قتال اہل البغی ص 93)

دوسری بات یہ تھی کہ حضرت حسن علیہ السلام کے کمانڈر امیر معاویہ نے خرید لئے تھے۔ (امام ابن حجر رحمہ اللہ، فتح الباری ج: 13، ص: 67، شرح فتح البلاء ج: 16، ص: 8-7 بحوالہ ابوالحسن المدائنی)

یہ بات سیدنا حسن علیہ السلام کے علم میں تھی لہذا انہوں نے خلافت چھوڑنے سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا: اور اپنے ساتھیوں کا ضعف بیان کیا۔

(ابن کثیر، اسد الغابہ ج: 2، ص: 13-14)

لہذا ہر جگہ اور صورت حال کیلئے جدا جدا قانون ہے، اندھے کی لالچی نہیں چلانی چاہیے۔

اب ذرا سورۃ انفال: 61-62 پڑھیں، جو لوگ شروع سے حضور ﷺ سے دشمنی کر رہے تھے اور ان کی عداوت چھپی ہوئی نہ تھی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی دیرینہ دشمنی اگرچہ بالکل واضح ہے اور آئندہ بھی باز آنے والے نہیں ہیں، یہ دھوکہ کریں گے، ان سب باتوں کے باوجود حکم ہوا کہ اگر کفار آپ ﷺ کو حالت جنگ

میں بھی صلح کی پیش کش کریں تو ان سے صلح کر لیں۔ اسلام پر عمل کرنا پل صراط سے گزرتا ہے۔ اسلام اخلاقیات کا پابند ہے جبکہ سیاسی چالیں اور ہیں۔ اگر کفار سے ان کی پیش کش کے باوجود صلح نہ کریں تو ان کو یہ پراپیگنڈہ کرنے کا موقع مل جائے گا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں صلح سے نفور ہیں اور صرف فساد چاہتے ہیں۔ فرمایا اگر کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ اور خدا پر بھروسہ رکھو۔ (اگرچہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کفار مکہ اور یہود باز نہ آئیں گے مگر صلح کا حکم فرمایا کیونکہ صلح نہ کرنے سے بدنامی ہوگی اللہ سب کچھ دیکھنے والا جاننے والا ہے۔ اگر کافر صلح کے پردے میں دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہ صلح صرف چال ہے تو آپ یہ بدنامی نہ لیں کہ مسلمان صلح کرنا جانتے ہی نہیں) اللہ تیرے لیے کافی ہے۔

یہ قرآن ہی کا حکم تھا کہ خندق کی جنگ لڑنے اور کفار کے بے بس کر دینے کے بعد، جب حدیبیہ کے مقام پر کفار نے صلح کی پیش کش کی، تو فوراً منظور فرمائی ورنہ اشارہ فرماتے تو جانشین کفار کی بوٹیاں اڑا دیتے کیونکہ وہ کافروں ہی تو تھے جو دو دفعہ ہار چکے تھے۔ مگر خدا تعالیٰ نے فرمایا صلح کر لیں۔ حضور ﷺ نے صلح کی اور ایسی شرطوں پر کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے محدث (جو نبی نہ ہو مگر خدا سے الہام کرے) نے ان شرطوں پر احتجاج کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرمادیا تھا، کفار نے صلح کے بعد دھوکہ کیا اور حضرت حسن علیہ السلام سے صلح کرنے والوں نے بھی دھوکہ کیا۔

مؤرخین نے جھوٹ لکھا کہ حضرت حسن علیہ السلام نے خلیفہ بنتے ہی امیر معاویہ کو صلح کی پیش کش کے خط لکھنا شروع کر دیئے۔ صحیح بخاری اور دوسری کتابیں پڑھو، کیا حسن علیہ السلام نے ایک بار بھی صلح کی پیشکش کی؟

مؤرخین نے مزید یہ جھوٹ بولا کہ حضرت حسن علیہ السلام بزدل آدمی تھے، حضرت علی علیہ السلام کے زمانہ میں بھی ان کو جنگ سے روکتے رہے۔ اس طرح جھوٹ لکھ کر سیدنا حسن علیہ السلام کی شخصیت کو داغدار کر دیا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ

سیدنا حسن علیہ السلام نے ایک دن بھی امیر معاویہ کو صلح کی پیش کش نہیں کی بلکہ خود امیر

بھی آئی ہے۔

سیدنا حسن علیہ السلام حکم قرآن سے مجبور تھے جیسا کہ ان آیات سے واضح ہے۔ اگر آپ اس پیش کش کو قبول نہ فرماتے تو نہ جانے کتنے ہی الزام ان کے ذمے لگا دیئے جاتے کہ وہ فساد کو پسند کرتے ہیں۔

سیدنا حسن علیہ السلام حکم قرآن سے مجبور تھے جیسا کہ ان آیات سے واضح ہے۔ اگر آپ اس پیش کش کو قبول نہ فرماتے تو نہ جانے کتنے ہی الزام ان کے ذمے لگا دیئے جاتے کہ وہ فساد کو پسند کرتے ہیں۔ امیر معاویہ نے بظاہر مصلحت کی چادر اوڑھ کر، مسلمانوں کی خیر خواہی کا بہانہ بنا کر صلح کی پیش کش کی۔ اب اگر امام حسن علیہ السلام یہ پیش کش رد کر دیتے تو عوام میں ان کو بدنام کرنے کا اچھا خاصا بہانہ ہاتھ آ جاتا کہ یہ مسلمانوں کے بچے مروا کر خوش ہیں۔ اس سے پہلے امیر معاویہ قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کا بہانہ بنا کر لوگوں کو بے وقوف بنا چکے تھے حالانکہ قصاص نہ لینا تھا نہ لیا مگر لوگوں کو یہ باور کرا دیا کہ میرے چچا کا بیٹا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گیا ہے اور میں اس کا بدلہ لینے کیلئے اٹھا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کبھی اسی طرح بدنام کیا اور اگر امام حسن علیہ السلام یہ پیش کش قبول نہ کرتے تو یہ پراپیگنڈہ شروع ہو جاتا کہ یہ خاندان ہی شرارتی ہے۔

سیدنا حسن علیہ السلام نے بھی اپنے ساتھیوں کو یہی سمجھایا کہ قرآن کے حکم پر خود رسول کریم ﷺ نے کفار کے ساتھ صلح کی تھی، یہ لوگ تو پھر کلمہ گو ہیں۔

امام ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔

”لوگوں نے حضرت حسن علیہ السلام کی صلح سے یہ نتیجہ نکالا کہ درست بات ان کی تھی جو صحابہ غیر جانبدار تھے اور کہتے تھے امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں صلح ہونی چاہیے جنگ نہیں ہونی چاہیے، اگرچہ وہ سمجھتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ حق کے زیادہ قریب ہیں۔ یہ قول حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام ساتھیوں کا ہے۔ مگر محصور اہل سنت

معاویہ نے صلح کی پیش کش کی تھی۔ امام بخاری کتاب الصلح باب الصلح فی الدیۃ، میں ایک روایت لائے جو موسیٰ بنیہ حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حسن بصری رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے خدا کی قسم! حسن علیہ السلام بن علی رضی اللہ عنہ معاویہ کے مقابل پہاڑوں کی طرح فوجیں لے کر آئے تھے۔ عمرو بن عاص نے کہا میں ایسی فوجیں دیکھ رہا ہوں جو اس وقت تک پیٹھ نہ پھیریں گی جب تک اپنے مقابل لوگوں کو قتل نہ کر لیں۔ معاویہ نے کہا اے عمرو! (یہاں حسن بصری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمرو اور معاویہ میں سے معاویہ پھر بھی بہتر تھا) اگر انہوں نے ان کو اور انہوں نے ان کو مار دیا، آخر ان کے خون کا کون کا کون دار ہوگا۔ اور ان کی عورتوں بچوں کی خبر گیری کون کرے گا۔ قریش کے دو اشخاص عبدالرحمن بن سرہ اور عبد اللہ بن عامر کو جو بنی عبد شمس سے تھے امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور کہا ان کے پاس جاؤ اور صلح پیش کرو، ان سے گفتگو کرو اور جو وہ کہیں مان لو۔ وہ دونوں گئے، گفتگو کی اور صلح کے طلب گار ہوئے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم عبد المطلب کی اولاد خلافت سے سیر ہو گئے اور ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ خون خرابہ کرنے میں طاق ہیں۔ وہ دونوں کہنے لگے معاویہ آپ کو یہ یہ باتیں پیش کرتا ہے، آپ سے صلح چاہتا ہے اور جو آپ چاہیں وہ منظور کرتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے پوچھا ضامن کون ہے؟ ان دونوں نے کہا ہم ضامن ہیں۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے جو بات بھی چاہی ان دونوں نے یہی کہا ہم اس کا ذمہ لیتے ہیں آخر امام حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کر لی۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا وہ کہتے تھے:

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو منبر پر دیکھا اور امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کے پہلو میں تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کبھی لوگوں کی طرف منہ کرتے کبھی حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اور فرماتے میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شاید اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا دے۔“

یہ روایت بخاری کتاب الفتن باب قول النبی ﷺ للحسن بن علی میں

نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کے ساتھی جنگوں میں حق پر تھے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کر رہے تھے کہ باغیوں سے لڑو اور یہ ثابت شدہ بات ہے کہ علی علیہ السلام سے قتال کرنے والے باغی تھے۔“

امیر معاویہ نے حضرت حسن علیہ السلام کے سامنے پہل کر کے خود صلح کی پیش کش کردی۔ اس طرح انہوں نے زبردست سیاسی چال چل کر حضرت حسن علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ یا تو صلح کریں یا لوگوں میں بدنام ہوں۔ اگر حضرت حسن صلح نہ کرتے تو یا تو وہ قتل ہو جاتے یا قید ہو جاتے، جس کا پورا بندوبست امیر معاویہ نے کر لیا تھا۔ امیر معاویہ نے حضرت حسن علیہ السلام کے لشکر کے کمانڈر خرید لئے تھے۔

(ابن حجر فتح الباری، ج: 13، ص: 67 ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ ج: 16، ص: 6-8، بحوالہ ابو الحسن المدائنی)

یہ گواہی خود امیر معاویہ کے بھانجے کی ہے۔ امیر معاویہ نے حضرت حسن علیہ السلام کو ان خطوط کا پلندہ بھجوایا جو آپ کے جرنیلوں نے معاویہ کو لکھے تھے۔ لوگ موجودہ دور کی ہارس ٹریڈنگ اور کرپشن کو دیکھتے ہیں، یہ سلسلہ پرانا ہے۔ ان جرنیلوں نے امیر معاویہ کو لکھا تھا کہ ہم حسن علیہ السلام کو لشکر کیساتھ لے کر آ رہے ہیں اور خود گرفتار کر کے تیرے حوالے کر دیں گے۔ امیر معاویہ نے پیغام بھجوایا کہ حسن علیہ السلام! یہ خط پڑھ لو۔ اس فوج کے سہارے مجھ سے جنگ لڑنے آ رہے ہو؟ حضرت کا اس سے پہلے صلح کا کوئی ارادہ نہ تھا بلکہ آپ قیس بن سعد صحابی کو 12 ہزار فوج کے ساتھ بطور ہراول بھجوا چکے تھے اور خود پیچھے لشکر لے کر جا رہے تھے۔ اسی دوران امیر معاویہ نے پیش کش کر دی۔ مقصد یہ تھا کہ صلح نہ کی تو بدنام کریں گے اور جہ کر لی تو پھر بعد میں جو چاہے کریں گے کون پوچھے گا؟ اور ایسا ہی کیا!

حضرت حسن علیہ السلام حضرت قیس بن سعد کے پیچھے لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ ایک جگہ پڑاؤ کیا تو اموی جاسوسوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت قیس بن سعد قتل ہو گئے ہیں۔ اس

افواہ کے بعد آپ کے لشکر میں شامل منافقین نے حضرت حسن علیہ السلام پر حملہ کر دیا، ان کے نیچے سے مصلح کھینچ لیا اور آپ کے کندھے پر تلوار مار کر زخمی کر دیا۔ فوج کا یہ حال دیکھ کر آپ مدائن چلے گئے۔ یہ امیر معاویہ کے جاسوسوں کا کارنامہ تھا۔

سیدنا حسن علیہ السلام نے یہ حالات دیکھ کر صلح کی پیش کش قبول کر لی کہ ان لوگوں کی قسمت میں اگر یہی لکھا ہے تو بھگتیں جبکہ بنو عبدالمطلب تو اس امر خلافت سے سیر ہو گئے۔ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا آپ ہمیں مروادیتے تو اچھا تھا۔ آپ نے فرمایا حجر اگر سب کی رائے تیرے جیسی ہوتی تو حسن علیہ السلام یہ کام نہ کرتا۔ سیدنا حسن علیہ السلام نے حکومت سے دست بردار ہو کر یہ طعنہ بھی دھو دیا کہ خاندان رسالت حکومت کا بھوکا ہے۔

سیدنا حسن علیہ السلام نے صلح کر کے رسول کریم ﷺ کی اس بات کو سچا کر دکھایا جو بخاری و مسلم نے روایت کی ہے بخاری کے دوسرے مقامات کے علاوہ بخاری کتباب المناقب باب علامات النبوة فی الاسلام میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ ایک دن حسن کو لے کر باہر نکلے اور لے کر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ شاید اللہ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دگر وہوں میں صلح کرادے۔ اس صلح پر تبصرہ کرتے ہوئے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی ”الجواب الصحیح لملئ

بدل دین المسیح ج: 4، ص: 138 پر لکھتے ہیں:

”اس صلح سے رسول کریم ﷺ کی وہ بات سچی ثابت ہوئی کہ خلافت

30 سال تک ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت تک ساڑھے 29 سال

ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 ماہ کیلئے حضرت حسن علیہ السلام کو خلافت دیکر

فرمان رسول ﷺ سچا ثابت کر دیا اور وہ خاتم خلفائے راشدین بن گئے۔“

حضور ﷺ سے ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام دنیا میں میرے دو گلاب کے پھول ہیں حضور ﷺ کی ایک خوشبو بدر میں ہے اور ایک صلح حدیبیہ میں ہے۔ سیدنا حسن علیہ السلام نے حدیبیہ والی خوشبو پھیلانی اور سیدنا حسین علیہ السلام نے کربلا میں

بدروالا رنگ دکھایا۔ اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ علیہا السلام کے دونوں بیٹے اپنی مثال آپ ہیں۔ سیدنا حسن علیہ السلام کی خوشبو یہ تھی کہ

آں کے شمع شبتان حرم
حافظ جمعیت خیر الام
تاشید آتش پیکار و کیں
پشت پا زد بر سر تاج و گیں

انہوں نے اپنے نانائے علیہ السلام کی اس بات کو پورا کیا کہ اگر لوگ صلح کی پیش کش کریں تو یہ الزام نہ لینا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح نہیں چاہتی۔ تخت کو ٹھوکر مار دینا مگر امت میں لڑائی ختم کر دینا۔

دوسرے بیٹے سیدنا حسین علیہ السلام کی خوشبو یہ تھی۔

رحر قرآن از حسین آمو خیم
ز آتش او شعلہ ہا افزیم

امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”عراقیوں نے حضرت حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام کی بیعت کر لی تاکہ شامیوں کا مقابلہ جاری رکھا جائے مگر شامی کامیاب ہوئے اور عراقیوں کا ارادہ کہ حضرت حسن علیہ السلام کو خلیفہ بنائیں پورا نہ ہوا۔ یہ اس لیے ہوا کہ شامی متحد رہے مگر عراقی بددل اور منتشر رہے۔ کاس عراقی یہ سمجھتے تھے اللہ نے ان پر کتنا بڑا انعام کیا ہے کہ انہوں نے اس شخص کی بیعت کی جو بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے مسلمانوں کا سردار ہے اور عالم صحابہ میں سے ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ تم حسن علیہ السلام کو خلیفہ کیوں شمار کرتے ہو تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو ہم دلائل نبوت میں بیان کر چکے ہیں جو سفینہ علیہ السلام مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ خلافت میرے بعد 30 سال تک ہے اور پھر

بادشاہت ہے۔ وہ 30 سال حضرت حسن علیہ السلام بن علی کی خلافت کے 6 ماہ

شمار کر کے پورے ہو گئے۔“ (البدایہ والنہایہ ج: 8 ص: 228)

امام ابجد حدیث نواب سید صدیق حسن علیہ السلام اپنی کتاب ”الاذاعہ ما کان وما یکون

بین یدی الساعة ص: 90) پر لکھتے ہیں:

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں میں سے وہ بھی سچی ہوئی جو صحابہ سے مروی

ہے کہ امیر المومنین سید المسلمین خاتم الخلفاء الراشدین حسن بن علی علیہ السلام کے

امیر معاویہ کے حق میں دست بردار ہونے سے، میرے اس بیٹے کے ذریعہ

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرادے گا۔“

سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی جنگ اور صلح دونوں موجود ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں صلح فرمائی مگر اگلے ہی سال کفار نے دھوکہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم

کے حلیف بنو خزاعہ کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح ختم کر دی اور بعد میں

مکہ فتح کر لیا اس طرح سیدنا حسن علیہ السلام نے بھی صلح کی مگر ان سے بھی دھوکہ کیا گیا صلح حدیبیہ

کے بعد باپ نے دھوکہ کیا تھا۔ صلح حضرت حسن علیہ السلام کے بعد بیٹے نے دھوکہ کیا۔ جنگ

صفین میں قرآن کھڑے کر کے بعد میں دھوکہ کیا اور پرانی چال چلتے ہوئے حسن علیہ السلام سے

صلح کر کے دھوکہ کیا۔

جب حسن علیہ السلام اقتدار سے دستبردار ہوئے تو الوداعی خطاب فرمایا۔ وہ خطاب بھی

رقت انگیز ہے۔ ابن اثیر رحمہ اللہ نے ”اسد الغابہ ج: 2 ص: 13-14 پر اس خطاب کا ذکر کیا:

”جب حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد حالات ایسے ہوئے کہ جرنیل

امیر معاویہ سے مل گئے اور حضرت حسن علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ مجھے

گرفتار کر کے امیر معاویہ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں

کہ حسن علیہ السلام صلح قبول کرے یا موت قبول کرے تو انہوں نے صلح کر لی،

کیونکہ ایسی موت کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ ان کو خاموشی سے شہید کر دیا جاتا

تھا۔ جبکہ امام حسین علیہ السلام نے اعلانِ موت قبول کی جس کے بعد قاتل اپنے چہرے چھپانہ سکے۔

امام حسن علیہ السلام نے حمد و ثناء کے بعد فرمایا:

”یہ جو میں امیر معاویہ سے جنگ ختم کر رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمیں اپنے موقف کی سچائی میں کوئی شک ہے اور نہ ہمیں کوئی شرمندگی ہے کہ میرا یا میرے باپ کا طریقہ غلط تھا۔ ہم نے ایمان کی سلامتی اور ثابت قدمی سے ان شامیوں کا مقابلہ کیا۔ مگر اب ہماری فوج میں ایمان کی وہ سلامتی رہی اور نہ وہ صبر رہا۔ ہم اب بھی تمہارے لئے وہی ہیں جیسے پہلے تھے۔ تم میں سے کچھ تو صفین کے اپنے مقتولوں کا نوہ کر رہے ہیں، کچھ تہروان کے مقتولوں کو رو رہے ہیں۔ تم میں بد دلی اور انتشار پیدا ہو گیا ہے اور جنگ کے قابل نہیں رہے۔ جو باقی ہیں وہ مدد کرنے سے انکاری ہیں۔ جو روتے ہیں وہ اپنا انتقام تلاش کرتے ہیں، ان میں اخلاص نہیں رہا۔ سن لو! معاویہ جس بات کی دعوت دے رہا ہے اس میں عزت ہے نہ انصاف! اگر تم موت قبول کرنے کو تیار ہو تو میں اس کی صلح کی پیش کش واپس کر دوں اور تلواروں کی دھار کے ذریعہ اللہ جو فیصلہ کرے سو کرے۔ اگر جینا چاہتے ہو تو میں صلح قبول کر لوں اور اس کے لیے تم سے فیصلہ لے لوں۔ اس پر ہر طرف سے آوازیں آئیں ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، صلح چاہتے ہیں۔ اس پر امام نے فرمایا ٹھیک تم جانو اور وہ جانے، میں مدینہ واپس جا رہا ہوں۔“

اس صلح کے بعد ایک اور حادثہ ہوا کہ صلح کی دستاویز گم کر دی گئی کہ جن شرائط پر صلح ہوئی تھی اس کی بجائے حضرت حسن علیہ السلام کے نام پر جھوٹی باتیں لگا کر کتابوں میں لکھ دی گئیں تاکہ ان کو مزید بدنام کیا جاسکے کہ وہ تو پیسے کے لالچی تھے۔ میڈیا کتنی ظالم شے ہے!

صلح حسن علیہ السلام کا متن

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یہ وہ دستاویز ہے جس پر حسن بن علی ابن ابی طالب نے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ صلح کی مسلمانوں کی حکومت معاویہ کے سپرد کر دی، اس شرط پر کہ وہ کتاب اللہ، سنت رسول اور سیرۃ خلفائے صالحین پر عمل کرے گا اور اس شرط پر کہ معاویہ بن ابی سفیان کو اختیار نہیں کہ اپنے بعد کسی کو اپنا ولی عہد بنائے بلکہ اس کے بعد امر مسلمانوں میں بطور مشورہ کے ہوگا اور اس شرط پر کہ لوگ اللہ کی زمین میں جہاں ہوں گے خواہ شام میں خواہ عراق میں اور حجاز میں اور یمن میں، مامون ہوں گے اور اس شرط پر کہ علی علیہ السلام کے اصحاب اور ان کے شیعہ اپنی جانوں اور مالوں اور عورتوں اور بچوں پر مامون ہوں گے اور اس شرط پر کہ معاویہ بن ابی سفیان پر خدا کا عہد اور میثاق ہے اور جو کچھ اللہ نے عہد لیا ہے کسی سے اپنی مخلوق میں سے اور اللہ نے جس کی بجا آوری کا کسی سے مطالبہ کیا ہے اپنے آپ ہی اس کو ادا فرمایا ہے اور اس شرط پر کہ نہ حسن بن علی علیہ السلام نہ اس کے بھائی حسین علیہ السلام اور نہ اہل بیت میں سے کسی سے کوئی فریب ہوگا، نہ پوشیدہ نہ ظاہر اور نہ کوئی ان میں سے کسی پر ظلم کرے گا۔ اس پر قلاں اور قلاں گواہ ہوئے اور اللہ گواہی گواہ ہے۔“

(ابن ابی السحبید شرح نہج البلاغہ ج: 16، ص 8-6، ہدایات

الرشید ص 381-382، مولانا خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی رحمہ اللہ)

اس صلح نامہ میں کہیں رقم لینے دینے کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں امیر معاویہ کو قرآن و سنت اور سنت خلفائے راشدین کا پابند کیا گیا ہے۔ یہ امام حسن علیہ السلام کی بہت بڑی فتح ہے جس نے امیر معاویہ کو بالکل ننگا کر دیا، آج پوری امت میں کوئی گروہ ان کو خلیفہ راشد نہیں کہتا۔ امیر معاویہ اس کی پہلی شرط ہی سے پھر گئے۔

اس معاہدہ کے گواہ عبداللہ بن حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب وامہ ہند بنت ابوسفیان بن حرب اور عمرو بن سلمہ تھے۔ اس معاہدہ کی شرائط اور متن مرزا غیاث الدین شیرازی شیعی نے اپنی تاریخ مسکنی حبیب السراج: 2: ص: 14-15 میں بھی درج کی ہیں جن سے مولانا خلیل الرحمن سہارنپوری دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”مطرقۃ الکرامہ ص: 290 پر بھی درج کی ہیں اور ابن ابی الحدید نے اپنی شرح نہج البلاغہ میں بحوالہ ابوالحسن علی بن محمد المدائنی درج کی ہیں جن کو امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ثقہ ہے، ثقہ ہے، ثقہ ہے، پھر ابن ابی الحدید نے شرح کی ج: 16: ص: 7 پر حسین بن المنزلہ، یہ بھی ثقہ راوی ہے، کے حوالہ سے لکھا کہ اس نے کہا اللہ کی قسم معاویہ نے امام حسن علیہ السلام سے ایک وعدہ بھی پورا نہ کیا۔ صلح کی یہ شرائط امام ذہبی نے ”سیر اعلام النبلاء“ میں ج: 4: ص: 74 پر درج کیں اور امام ابن اثیر نے اسد الغابہ ج: 2: ص: 13-14 تذکرہ حسن علیہ السلام کے تحت درج کیں۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ج: 13: ص: 65 پر لکھا کہ معاویہ نے تمام شرائط کی خلاف ورزی کی۔ شیعہ عالم باقر مجلسی نے بحار الانوار ج: 44: ص: 64-65 پر اس صلح کی شرائط درج کی ہیں۔

حضرت علی علیہ السلام پر لعنت کا سلسلہ امیر معاویہ نے ایک منٹ کیلئے بھی نہ روکا۔ کوفہ کے منبر پر امیر معاویہ موجود تھے اور مغیرہ بن شعبہ بھی وہیں تھے کہ لوگ باری باری اٹھ کر حضرت علی علیہ السلام پر لعنت کر رہے تھے (خدا ان پر لعنت کرنے والوں پر لعنت کرے۔ امام ابن حزم) اس پر عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے ساتھ والے شخص سے پوچھا یہ کس کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اس نے کہا علی علیہ السلام کو سعید رضی اللہ عنہ بن زید نے فرمایا یہ اس آدمی پر لعنت کر رہے ہیں جس کے بارے میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی علیہ السلام جنتی ہے۔

تیسری شرط یہ تھی کہ پچھلی رنجشوں کی وجہ سے دونوں فریق کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ جیسوں کو قتل کر دیا گیا اور یحییٰ بن عبداللہ الحضرمی کا پورا قبیلہ

قتل کر دیا گیا۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ حضرت حسن علیہ السلام سے طے کی گئی کوئی شرط پوری نہ ہوئی، حکومت پر قبضہ کر لیا اور حسن علیہ السلام بے بس ہو کر مدینہ چلے گئے۔ مسجد نبوی کے منبر پر قبر رسول کے نزدیک حضرت علی علیہ السلام اور ان سے محبت کرنے والوں پر لعنت کی جاتی رہی اور یہ کام جمعہ کے خطبوں میں ہوتا تھا۔ اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا لوگو! تمہارے منبروں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ (خدا ان پر لعنت کرے) کیونکہ میں جانتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت علی علیہ السلام سے کرتے تھے۔ مگر سب بے بس تھے۔

صلح پامال، شرائط تباہ، لہذا امام حسین علیہ السلام کو حق پہنچ گیا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ اس صلح کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے، کہ ڈاکٹر آپریشن پہلے دن بھی کر سکتا ہے۔ مگر پھوڑا ابھی پکا نہیں تھا۔ ڈاکٹر پھوڑا پکنے دیتا ہے تاکہ ہر کوئی دیکھ لے اب آپریشن کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ سیدنا حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام نے 20 سال تک امیر معاویہ کو اس لیے فری ہینڈ دیا تاکہ جو پردہ ہے وہ ہٹ جائے کہ وہ بھی صحابی ہیں، خون عثمان رضی اللہ عنہ کے طالب ہیں اور سادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کہتے تو امیر معاویہ ہی ٹھیک ہیں، لہذا ان کو ننگا ہونے دو۔ وہ زکوٰۃ لوٹیں، نماز تہاہ کریں، حج برباد کریں، پھر امت کو پتہ چلے کہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد تخت کیلئے نہیں بلکہ دین کے خلاف اموی اقدامات کے خلاف لڑتے تھے۔ بنو امیہ اس سب کو برباد کرنا چاہتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کیلئے کیا۔ اس کی تفصیل امیر معاویہ کے دور کے حالات میں آئے گی۔

ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”کئی بے وقوفوں نے سمجھ لیا کہ حضرت حسن علیہ السلام کی دست برداری سے معاویہ خلیفہ بن گئے۔ جس حدیث میں صلح کی پیش گوئی ہے اس حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ صلح اوپر سے ہوگی، دل سے نہ ہوگی۔ کوئی اس صلح کو اس بات کا بہانہ نہ بنائے کہ حضرت حسن علیہ السلام نے صلح کر لی تو معاویہ خلیفہ

بن گئے۔ اس سے معاویہ خلیفہ نہیں بنے اور نہ ہی صلح اس کا جواز ہے۔

حضور ﷺ نے کافروں سے صلح کی تھی تو کیا اس سے کافر سچے ہو گئے؟

(مرقاۃ المفاتیح ج: 10، ص: 124، شرح مشکوٰۃ المصابیح از ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ)

اب وہ وقت آ گیا کہ حسن علیہ السلام فوت ہو گئے، مسلم شریف کتاب الفضائل، باب شبیہ علیہ السلام میں ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا آپ کا رنگ سفید تھا اور بوڑھے ہو گئے تھے اور امام حسن علیہ السلام آپ ﷺ کے مشابہ تھے۔ (مسلم: 6081) ان کی وفات پر امیر معاویہ نے جو رد عمل ظاہر کیا وہ بھی حدیث کی کتابوں مثلاً ابوداؤد، مسند احمد، نسائی وغیرہ میں محفوظ ہے۔ اس رد عمل کو پڑھیں اور ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو بنو امیہ کی حمایت کرتے ہیں۔ ابوداؤد کی روایت میں کہنے والے کا نام فلاں لکھا ہے جبکہ مسند احمد میں حدیث: 17321، ج: 7، ص: 141 میں امیر معاویہ کا نام موجود ہے۔

سلسلة الاحادیث الصحیحة جلد نمبر 2 حدیث نمبر 811 اور ابو داؤد کتاب اللباس باب فی جلود النمر میں خالد روایت کرتے ہیں کہ مقدم ﷺ بن معدیکرب، عمرو بن الاسود اور بنی اسد میں سے ایک شخص معاویہ بن ابی سفیان کے پاس آئے تو معاویہ نے مقدم ﷺ سے کہا کیا تم کو خبر ہوئی حسن بن علی فوت ہو گئے، مقدم نے یہ سن کر انا للہ پڑھا۔ امیر معاویہ نے کہا کیا تم امام حسن علیہ السلام کی وفات کو مصیبت سمجھتے ہو؟ حضرت مقدم ﷺ نے کہا میں کیوں ان کی موت کو مصیبت نہ سمجھوں جن کو گود میں بٹھا کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حسن مجھ سے مشابہ ہے اور حسین علیہ السلام علی علیہ السلام سے مشابہ ہے۔ ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا حسن علیہ السلام تو آگ کا انگارہ تھا جو خدا نے بجھا دیا۔ مقدم ﷺ نے کہا معاویہ آج میں یہاں سے تیرا دل جلائے اور جلی کئی ستائے بغیر نہ جاؤں گا۔ پھر کہا معاویہ! اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کرنا ورنہ کہہ دینا کہ جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ معاویہ نے کہا اچھا ایسا ہی کروں گا۔ مقدم نے کہا تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تم نے رسول

اللہ ﷺ سے نہیں سنا کہ مردوں کو سونا پہننے سے منع فرمایا، معاویہ نے کہا ہاں سنا ہے، مقدم نے کہا تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے مردوں کو ریشم پہننے سے منع نہیں فرمایا؟ معاویہ نے کہا ہاں! مقدم ﷺ نے کہا معاویہ تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے درندوں کی کھالیں پہننے اور ان پر بیٹھنے سے منع نہیں فرمایا، معاویہ نے کہا ہاں! مقدم ﷺ نے کہا معاویہ! اللہ کی قسم یہ تینوں کام تیرے گھر میں ہو رہے ہیں۔ معاویہ نے کہا مقدم ﷺ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ کوئی تجھ سے نہیں جیت سکتا۔ خالد نے کہا پھر معاویہ نے مقدم ﷺ کو ان کے ساتھیوں سے زیادہ مال دینے کا حکم دیا اور ان کے بیٹے کا حصہ مقرر کیا دوسو والوں میں، مقدم ﷺ نے وہ مال اپنے ساتھیوں میں بانٹ دیا اور اسدی نے اپنے مال میں سے کسی کو کچھ نہ دیا۔ یہ خبر معاویہ کو پہنچی تو انہوں نے کہا مقدم تو ایک سخی شخص ہے جس کا ہاتھ کھلا ہوا ہے اور اسدی اپنی چیز کو اچھی طرح روکتا ہے۔“

ابوداؤد کے شارح مشہور اہل حدیث عالم مولانا شمس الحق عظیم آبادی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اس معاویہ پر مجھے حیرانی درحیرانی ہے کہ اس نے اہل بیت کی یہ شان پہچانی کہ حسن علیہ السلام کی موت پر اس نے کہا جو کہا (یعنی کوئی افسوسناک بات نہیں) یقیناً حسن علیہ السلام کی موت بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت تھی۔ اللہ تعالیٰ مقدم ﷺ کو جزائے خیر دے اور ان پر راضی ہو کہ وہ حق کہنے سے باز نہ آئے اور یہی ایک کامل مخلص مومن کی شان ہے۔ اور یہ جو کہا وہ آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا تو یہ اس لیے کہا کہ حسن علیہ السلام اور معاویہ کے معاہدہ کی چوتھی شرط یہ تھی کہ معاویہ کی موت پر اگر حسن علیہ السلام زندہ ہوئے تو پھر حسن علیہ السلام خلیفہ ہوں گے (اس شرط کو عام کتابوں میں چھپا دیا گیا مگر امام ابن عبد البر کی کتاب الاستیعاب، ابن اثیر کی اسد الغابہ میں شرط لکھی ہوئی ہے۔ لہذا حسن علیہ السلام ان کی راہ میں کائنات تھے اگر ان کو راستے سے نہ ہٹایا جاتا

تو بنو امیہ کا بنایا کھیل خراب ہو جاتا۔

امام ابن حجر رحمہ اللہ تہذیب التہذیب میں لکھتے ہیں کہ حسن علیہ السلام نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس شرط پر معاہدہ کیا کہ اپنے بعد حکومت حسن علیہ السلام کو دو گے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے تسلیم کیا کہ اپنے بعد حسن علیہ السلام کو خلیفہ نامزد کروں گا۔

مولانا آگے لکھتے ہیں کہ اسدی نے کہا معاویہ خلافت اپنے سے چھن جانے سے خوف زدہ رہتے تھے کہ حسن علیہ السلام کہیں خروج نہ کر دیں، جیسا کہ بعد میں حسین علیہ السلام نے خروج کیا۔ خلافت کے اصل حق دار تو حسن علیہ السلام ہی تھے جن کی 40 ہزار افراد نے بیعت کی تھی۔ پھر امیر معاویہ اور حسن علیہ السلام کے درمیان ہوا جو ہونو ج لے کر پہلے امیر معاویہ ہی آئے تھے اور صلح کی پیش کش بھی انہوں نے ہی کی۔ حسن علیہ السلام کی موت زہر سے ہوئی جو ان کی بیوی بختہ بنت اشعث کے ذریعہ یزید کے اشارہ پر دیا گیا۔ اللہ حسن علیہ السلام سے اور تمام اہل بیت سے راضی ہو۔

(عون المعبود شرح ابو داؤد، ج 4، ص 115-116)

ابو حنیفہ دینوری رحمہ اللہ اپنی کتاب الاخبار الطوال ص 222 پر لکھتے:

”حضرت حسن علیہ السلام کی وفات کی خبر امیر معاویہ کے عامل مدینہ مروان نے ان تک پہنچائی۔ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا جو ان کے پاس شام میں آئے ہوئے تھے۔ امیر معاویہ نے ان سے تعزیت کی اور امام حسن علیہ السلام کی وفات پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا آپ ان کی موت پر خوش نہ ہوں خدا کی قسم آپ بھی ان کے بعد زیادہ دیر تک زندہ نہ رہیں گے۔“

مولانا غلیل احمد سہارنپوری دیوبندی ابوداؤد کی شرح ”بذل المجہود“ میں ابو داؤد کی اس روایت کی شرح میں لکھتے ہیں:

”اسدی نے یہ بات معاویہ کی رضا اور تقرب حاصل کرنے کے لیے کہی

تھی۔ جب مقدم اللہ نے اس شخص کی بات سنی جو اس نے رسول اللہ ﷺ کے نواسے کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے امیر معاویہ کی خاطر داری کیلئے کہی تھی، تو مقدم اللہ معاویہ سے کہنے لگے کہ میں ہرگز یہاں سے نہ ہلوں گا جب تک آپ کو غصہ نہ دلاؤں اور ایسی بات نہ سناؤں جو آپ کو ناپسند ہو جس طرح آپ نے مجھے ایسی بات سنائی جو مجھے پسند نہیں۔“

امام ابن حجر رحمہ اللہ ”تہذیب التہذیب“ میں لکھتے ہیں:

”حضرت حسن علیہ السلام کو زہر کی دفعہ دیا گیا مگر بچ جاتے تھے۔ مگر آخری دفعہ بہت سخت زہر دیا گیا، جگر کے ٹکڑے قے کے ذریعے تھال میں گرے اور فرمایا حسین علیہ السلام! اب میں زندہ نہیں رہوں گا۔“

امام حسن علیہ السلام کی موت پر خوشیاں منانے کے بعد جنازہ کا جو حال بنو امیہ نے کیا وہ بھی ملاحظہ ہو۔ امام ابن اثیر رحمہ اللہ اسد الغابہ ج 2، ص 15 پر لکھتے ہیں:

”حضرت حسن علیہ السلام کی موت زہر سے ہوئی جو ان کی بیوی جعدہ بنت اشعث نے دیا۔ امام کو اتنی قے آرہی تھی کہ ایک تھال رکھا جاتا اور دوسرا اٹھالیا جاتا۔ جب بیماری زیادہ ہو گئی تو اپنے بھائی حسین علیہ السلام سے فرمایا مجھے تین دفعہ زہر دیا گیا مگر اس زہر جیسا پہلے نہ دیا گیا تھا۔ اب میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باہر آ گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے زہر دینے والے کا نام پوچھا تو فرمایا کیوں پوچھتے ہو۔ کیا اس سے جنگ لڑو گے؟ میں نے ان ظالموں کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔“

جب وفات کا وقت آیا تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیغام بھیجا کہ میں اپنے نانا کے پاس دفن ہونا چاہتا ہوں، اجازت دیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دے دی۔ حسن علیہ السلام نے حسین علیہ السلام کو کہا ہو سکتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا نے میرا لحاظ کر کے اجازت دی ہو لہذا میرے مرنے کے بعد دوبارہ اجازت لے لینا۔ مگر مجھے پورا یقین ہے کہ بنی امیہ مجھے روضہ پاک میں دفن نہیں

ہونے دیں گے۔ اگر نوبت جھگڑے تک پہنچ جائے تو جھگڑا نہ کرنا اور مجھے بقیع میں دفن کر دینا۔ جب حسن علیہ السلام فوت ہو گئے تو بنو امیہ کو اریں لے کر آ گئے کہ ہم حسن علیہ السلام کو روضہ پاک میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت حسین علیہ السلام پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اجازت کیلئے گئے تو انہوں نے بہت عزت سے کہا اجازت ہے۔ روضہ پاک میں دفن کرنے کی اجازت کی خبر مروان اور دوسرے بنو امیہ کو بھی ہو گئی۔ وہ کہنے لگے رب کی قسم! ہم حسن علیہ السلام کو وہاں کبھی دفن نہ ہونے دیں گے، اس پر حضرت حسین علیہ السلام اور ہاشمیوں نے اسلحہ اٹھا لیا ادھر مروان اور اس کے ساتھی ہتھیار لگا کر روکنے کیلئے تیار ہو گئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آئے اور کہا اس سے بڑا ظلم بھی کوئی ہوگا کہ حسن علیہ السلام کو اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن بھی ہونے نہیں دیتے۔ خدا کی قسم! وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے۔ پھر وہ حسین علیہ السلام کے پاس آئے، ان سے بات کی اور خدا کی قسم دی اور کہا کہ تمہارے بھائی کہہ گئے تھے کہ خطرہ پیدا ہو جائے تو مجھے قبرستان میں دفن کر دینا۔ سیدنا حسین علیہ السلام مان گئے اور جنازہ بقیع میں لے گئے۔ بنو امیہ سے کوئی شخص جنازہ میں شریک نہ ہوا سوائے گورنر مدینہ سعید بن العاص کے جس کی ڈیوٹی تھی کہ جنازہ پڑھائے۔ حضرت حسین علیہ السلام نے اس کو جنازہ پڑھانے کیلئے آگے کیا اور فرمایا اگر سنت نہ ہوتی کہ حاکم جنازہ پڑھائے تو تجھے کبھی آگے نہ کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس دن مدینہ کی گلیوں میں رو کر کہتے جاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا فوت ہو گیا ہے چلو اس کے جنازہ میں شامل ہو جاؤ۔ یہ ہے صلح حسن علیہ السلام جس کا اتنا شور مچایا جا رہا ہے۔

یہاں پر شیعوں کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگائے گئے ایک بہتان کا رد بھی ضروری ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس دن فجر پر سوار ہو کر جنازہ روکنے آ گئی تھیں۔ الکافی میں کتاب الصحبة باب الاشارة والنص علی حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام میں تیسری روایت ہے۔ علامہ باقر مجلسی شیعہ عالم نے الکافی کی شرح مرآة العقول ج: 3، ص: 3 حدیث نمبر

3، ص: 313، 320 پر اس روایت کو لکھ کر کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ ناصی لوگ قاضی ابوبکر ابن العربی کی کتاب ”العواصم من القواصم“ کا بہت حوالہ دیتے ہیں۔ اسی قاضی ابوبکر کی تفسیر احکام القرآن سورہ حجرات میں المسئلة الثالثہ ص: 1707، 1708 دیکھ لیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”قرآن کا حکم ہے باغی ٹولے کے خلاف لڑو۔ اس پر علی علیہ السلام نے عمل کیا انہوں نے ان لوگوں سے جنگ کی جو امام کے مقابلہ میں سرکش ہو گئے تھے۔ قصاص مانگنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں کہ دارالحکومت میں آئے بغیر، خلیفہ کے سامنے پیش ہوئے بغیر، گواہ پیش کئے بغیر، فوج تیار کر کے جنگ لڑنا شروع کر دو، اگر ان لوگوں کی نیت ٹھیک ہوتی تو حضرت علی علیہ السلام کے پاس جاتے، مقدمہ لڑتے، اگر علی علیہ السلام انصاف نہ کرتے تو کسی جنگ کی ضرورت نہ پڑتی بلکہ امت خود ہی علی کو معزول کر دیتی مگر اللہ نے علی کو بچا لیا اور ان سے کوئی غلط حرکت سرزد نہیں ہوئی۔ اور حسن علیہ السلام نے وہ کیا جو اس وقت کے حالات تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ خارجیوں نے بھی فتور ڈال دیا ہے، میرا لشکر بد دل ہے، معاویہ لشکر لے کر آ گئے ہیں۔ ان کے اپنے لشکر نے ان کو گھوڑے سے گرا دیا، زخمی کیا اور وہ زخم بڑی مشکل سے ٹھیک ہوئے اس طرح ان کو پتہ چل گیا کہ میں اپنے لشکر پر رائی بھرا اعتبار نہیں کر سکتا۔ یہ منافق ہیں لہذا قید ہونے کی بجائے اپنی شرطوں پر صلح بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے چچے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کیا کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرادے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ثابت ہوئی اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک ہے پھر بادشاہت ہے۔ اس دور میں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن رضی اللہ عنہم کے ادوار شامل ہیں۔ وہ تیس سال امام حسن رضی اللہ عنہ پر پورے ہوئے، نہ ایک بڑھا نہ گھٹا!

دورِ امیر معاویہ

صلح حسن علیہ السلام کی شرائط کی خلاف ورزی
پہلی شرط۔ کتاب اللہ۔ سنت رسول ﷺ اور سیرت خلفائے
صالحین پر عمل کرنا ہوگا۔

اسلام پر یہ حادثہ قیامت سے کم نہیں تھا کہ امت کے بہترین لوگ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بلکہ عشرہ مبشرہ میں سے اصحاب رضی اللہ عنہم موجود تھے اور اس وقت ایک شخص جو طلحہ بن طلحہ، معاویہ بن ابوسفیان، جن باپ بیٹوں کو فتح مکہ والے دن حضور ﷺ نے معافی دی تھی، برسرِ اقتدار آ گیا، بخاری شریف میں غزوہ خندق کے بیان کے تحت یہ آتا ہے کہ جب امیر معاویہ نے عائشہ میں چالاکی کے بعد حکومت سنبھال لی تو خطبہ دیا، جس میں کہا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ خلافت کا زیادہ حق دار ہے، وہ ذرا اپنا سراونچا کرے۔ وہاں صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ میرے جی میں آئی کہ میں معاویہ کو کہوں کہ خلافت کا حق دار ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کر اسلام میں داخل کیا اور تم سے جنگیں لڑیں۔ مگر میں خطرہ کے پیشِ نظر چپ کر کے بیٹھا رہا۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص جیسے فاتح ایران اور عشرہ مبشرہ میں سے اصحاب موجود تھے مگر کسی کو پوچھا تک نہیں، حکومت ان لوگوں نے سنبھالی جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جن لوگوں کو فتح مکہ والے دن معافی ملی، ان کا ان کی اولاد اور ان کی اولاد کا حکومت میں کوئی حصہ نہیں۔

پاک ہے وہ خدا جس کے علم میں ہر بات ہے اور اس کے سوا کوئی رب نہیں۔“
سیدنا حسن علیہ السلام کو زہر دیئے جانے پر تبصرہ کرتے ہوئے اہل حدیث عالم علامہ وحید الزماں لکھتے ہیں:

”یزید کی خلافت دعا بازی اور زبردستی پر مبنی تھی۔ اس کے پدر بزرگوار یہ شرط قبول کر چکے تھے کہ امام حسن علیہ السلام نے تا حیات خلافت میرے سپرد کی ہے۔ پھر معاویہ کے بعد خلافت اپنے اصل حقدار کی طرف رجوع کرے گی۔ اصلی حق دار امام حسن علیہ السلام اور ان کے بعد امام حسین علیہ السلام تھے۔ لیکن یزید نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوا دیا اور ان کی وفات پر بہت خوش ہوئے بلکہ یہ کہا کہ امام حسن علیہ السلام ایک انگارہ تھے جس کو اللہ نے بجھایا، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ بھی اس سازش میں شریک اور راز دار تھے۔ اس پر طرہ یہ کیا کہ آپ کو حیاتی وہ بھی مستعار خلافت کا حق حاصل تھا۔ آپ کو کیا اختیار تھا کہ عہد شکنی کر کے بیٹے کو خلافت دے جائیں اگر معاویہ صحابی نہ ہوتے تو ہم ان کی شان میں بہت کچھ کہہ سکتے تھے۔ صحابیت کا ادب کر کے ہم سکوت کرتے ہیں اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔“

(بخاری کتاب الفتن باب اذ اقال عند قوم شیناً ثم خرج فقال بخلافہ اردو ج 9 ص: 172-173)

الاستیعاب میں ابن عبد البر اور مروج الذهب میں مسعودی نے لکھا ہے کہ قتادہ کہتے ہیں کہ حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام کو ان کی بیوی جعدہ نے زہر دیا اور ایک عالم کا قول ہے کہ معاویہ کی لاگ (تدسیس، سازش) سے تھا۔ (اربع المطالب، بعید اللہ ام تری ص: 592)
مولانا شمس الحق عظیم آبادی عون المعبود شرح ابوداؤد ج: 1 ص: 115 پر لکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی موت زہر سے ہوئی جو ان کی بیوی جعدہ بنت اشعث نے یزید بن معاویہ کے اشارہ سے دیا۔

امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 9، پر لکھتے ہیں: ”علی ابن المدائنی محدث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کو یہ فرماتے سنا کہ علی علیہ السلام میں کوئی خامی نہ تھی کہ وہ خلافت کیلئے نا اہل ہوتے اور معاویہ میں کوئی خوبی نہ تھی جس کی بنا پر علی علیہ السلام سے جنگ کر سکتے، قاضی شریک سے لوگوں نے کہا معاویہ بڑے حلیم اور نرم طبع تھے۔ قاضی شریک نے کہا جس نے حق کو نہ پہچانا حق کا انکار کیا اور علی علیہ السلام سے جنگ لڑی وہ حلیم الطبع کیسے ہو سکتا ہے۔“

امیر معاویہ کے دور میں نماز کا جو حال کیا گیا وہ نسانی شریف کتاب الامارۃ باب نمبر 469 الصلوۃ مع آئمہ جور میں ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ امیر معاویہ کا گورنر زیادہ ابن ابیہ نماز لیت کر کے پڑھاتا تھا۔ راوی ابو العالیہ البراء کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن صامت رحمہ اللہ میرے پاس آئے۔ میں نے ان کو کرسی دی وہ اس پر بیٹھے پھر میں نے زیاد کا حال بیان کیا کہ وہ نماز میں دیر کرتا ہے۔ انہوں نے انگلی دانتوں کے نیچے رکھی اور میری ران پر ہاتھ مارا اور کہا میں نے ابوذر رحمہ اللہ سے یہی بات پوچھی تھی جیسے تم نے مجھ سے پوچھی ہے تو انہوں نے میری ران پر ہاتھ مارا جیسے میں نے تیری ران پر ہاتھ مارا۔ اور کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس بات کو پوچھا تھا جیسے تو نے مجھ سے پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”میری ران پر ہاتھ مارا جیسے میں نے تیری ران پر ہاتھ مارا اور آپ ﷺ نے فرمایا تھا: ”اپنی نماز وقت پر پڑھ لیا کرنا پھر اگر ان کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملے تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لیا کرنا اور یہ مت کہنا کہ میں تو پڑھ چکا ہوں، لہذا اب نہیں پڑھوں گا۔“ (تاکہ وہ ظالم حاکم تجھے ایذا نہ دیں)۔

علامہ سندھی رحمہ اللہ نسائی کی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ظالم حاکموں کے پیچھے نماز پڑھنے کا جواز معلوم ہوتا ہے کیونکہ نماز کو دیر کر کے پڑھنا صرف ظالم حاکموں کا کام ہے۔

حضرت حجر بن عدی رحمہ اللہ راہب اصحاب رسول مشہور تھے۔ ان کو امیر معاویہ کے حکم

سے مرج عذراء کے جنگل میں، جو علاقہ انہوں نے فتح کیا تھا، قتل کیا گیا، ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے گورنر زیاد کو نماز لیت کر کے پڑھانے پر ٹوکا تھا۔ بوقت قتل حضرت حجر رحمہ اللہ نے کہا میری بیڑیاں اور میرے کڑے نہ اتارنا، میں قیامت کے دن پل صراط پر معاویہ سے اسی حال میں ملوں گا۔ معاویہ کے سپاہیوں نے اس جگہ حضرت حجر رحمہ اللہ اور ان کے ساتھیوں سمیت سات افراد قتل کیا۔ ان کے قتل کے تفصیلی حالات دور معاویہ میں ملیں گے۔

اگر بریلوی حضرات معمولی بدعت نکال لیں تو اہل حدیث حضرت بہت سخت پاہوتے ہیں حالانکہ وہ لوگ نیک نیتی سے غلط کام کرتے ہیں، امام ابن تیمیہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا اجتہاد ہے اور ہو سکتا ہے ان کی نیک نیتی کی وجہ سے ان کو اجر ہی مل جائے، مگر امیر معاویہ نے جو بدعات ایجاد کیں ان پر اہل حدیث کیوں خاموش ہیں؟

حضرت علی علیہ السلام اور ابن زبیر رحمہ اللہ پر امیر معاویہ کے حکم سے لعنت شروع ہوئی تو لوگ عید کا خطبہ سے بغیر چلے جاتے۔ مگر لعنت سنو ان کی خاطر امیر معاویہ نے عید کا خطبہ عید کی نماز سے پہلے شروع کر دیا۔ یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ میں اس جگہ ایک جامع حوالہ ذکر کروں گا۔ امام ابن حزم کے استاد امام ابن عبدالبر اپنی کتاب ”التمہید لمافی المؤطا فی المعانی والآسانید“ میں لکھتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ عید کیلئے سب سے پہلے اذان جس نے شروع کی وہ معاویہ ہے اور اس نے عید کا خطبہ نماز سے پہلے شروع کیا۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ المحلی ج: 5، ص: 85، پر لکھتے ہیں:

”بنو امیہ نے یہ بدعات شروع کیں، نماز دیر کر کے پڑھنا عید کی اذان اور اقامت، عید کا خطبہ نماز سے پہلے شروع کر دیا، وہ ص: 86، پر بنو امیہ کے لیے اس کا بہانہ یہ لکھتے ہیں کہ لوگ عید پڑھ کر چلے جاتے ہیں اور ہمارا خطبہ نہیں سنتے۔

مسلم شریف کتاب صلوۃ العیدین حدیث: 9 میں ابو سعید خدری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: ”میں گورنر مدینہ مروان بن حکم کو نماز کے لئے کھینچتا تھا اور وہ خطبہ دینے کیلئے منبر کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ نماز عید کا پہلے پڑھنا کہاں گیا؟

تو مروان نے کہا اے ابوسعید ترک کر دی گئی وہ سنت جو تم جانتے ہو! میں نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم اس سے بہتر کام نہیں کر سکتے جو میرے علم میں ہے۔“

نسائی شریف ابواب الحج باب التلبیہ بیوم العرفہ میں سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں عرفات میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، انہوں نے پوچھا لوگ لبیک کیوں نہیں کہتے میں نے کہا معاویہ کے ڈر سے! حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے خیمہ سے نکلے اور لبیک کہا اور فرمایا علی رضی اللہ عنہ کے بغض میں ان لوگوں نے سنت بھی چھوڑ دی۔ امیر معاویہ کے دور میں زکوٰۃ کا جو حال ہوا وہ تفصیل سے ان کے دور کے حالات میں آئے گا جو امام ابو سعید نے اپنی کتاب الاموال ص: 568 میں روایت نمبر 1789، 1797 اور 1811 کے تحت لکھا ہے۔

”امیر معاویہ نے صحابہ کو چھوڑ کر زکوٰۃ تعلیم کے محکمہ جات عیسائیوں کے سپرد کر دیئے جبکہ سورہ آل عمران: 118/3 میں خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ مومنو! ”یہود و نصاریٰ کو اپنا راز دار نہ بناؤ“

چوری کے مال کے بارے میں امیر معاویہ نے حدیث کی صریح خلاف ورزی کی اور اپنا فیصلہ منوانے کے لیے یمامہ کے گورنر پر دباؤ ڈالا۔ اس کی تفصیل امام ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ج: 2، حدیث: 609، ص: 164، 167 پر لکھی ہے اسی طرح امیر معاویہ نے مال غنیمت میں غلط تصرف شروع کیا اور حکم نہ ماننے پر گورنر کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ یہ سارا واقعہ مستدرک حاکم کی ج: 3 میں مذکور ہے۔ یہ تھا صلح حسن رضی اللہ عنہ کی پہلی شرط کا حشر کہ کتاب و سنت و سیرت خلفاء، صالحین کے مطابق حکومت کرو گے۔

آزادی اظہار کا خاتمہ

صلح میں ایک شرط یہ بھی تھی لوگ اللہ کی زمین میں جہاں ہوں گے خواہ شام میں خواہ

عراق میں اور حجاز اور یمن میں مامون ہوں گے۔

سورہ آل عمران: 79/3 میں فرمایا گیا کہ کسی نبی کو شایان نہیں کہ خدا تو اسے کتاب سنت (فہم نبوت، وحی خفی، مملکت نبوت، بصیرت، فہم قرآن) اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ بلکہ اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اہل کتاب تم ربانی بن جاؤ۔ نبی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور ان میں کوئی خامی نہیں ہوتی۔ اگر وہ لوگوں سے کہیں کہ میرے غلام بن جاؤ تو ان کو زیبا ہے مگر وہ لوگوں کو صحیح معنوں میں آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اس سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کمال ہی کر دیا۔ جیسے فدائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے ان سے جو چاہتے منوالیتے مگر یہ دیانت کا کمال ہے کہ حکم خدا اور حدیث میں لکیر کھینچ دیتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ میری رائے ہے، تم بھی اپنی رائے دو۔ اور کئی مواقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم کی رائے پر عمل فرمایا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا لوٹدی کا واقعہ تو آزادی اظہار میں ضرب الشل کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت اس انداز سے فرمائی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے تھے تو بعد میں کون مائی کا لال ایسا خلیفہ یا حکمران ہو سکتا ہے جس کے سامنے زبان بند رکھنا ضروری ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

بود انساناں در جہاں انسان پرست
ناقص و نابود مند و زیر دست
تا امین حق بحق داراں سپرد
بندگان را مند خا قاں سپرد

”انسان دنیا میں انسان پرست تھا۔ وہ ناقص، نہ ہونے کے برابر اور غلام

تھا۔ حتیٰ کہ امین صلی اللہ علیہ وسلم نے حق داروں کو ان کا حق سپرد کیا اور بادشاہوں کی

گدی غلاموں کے حوالے کر دی۔“

یقین جانئے اس وقت پوری دنیا میں جہاں کہیں آزادی اظہار موجود ہے یا کوئی اچھا

کام ہو رہا ہے تو وہ صرف حضور ﷺ کی عطا ہے۔ مگر یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہ آزادی جو تحفہ نبوت تھی۔ اس امت سے بہت جلد چھین لی گئی اور مزید دکھ کی بات یہ ہے کہ امت کے دل سے احساس زیاں بھی جاتا رہا۔

وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا

کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا

مگر یہ نقصان ایک دن میں نہیں ہوا۔ اس کے لئے بنو امیہ اور بنو عباس نے بہت رشوت دی اور بہت جبر کیا انہوں نے بولنے والی زبانیں بند کر دیں اور لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ صرف وہ دیکھیں جو حکومت دکھانا چاہتی ہے اور وہ سوچیں جو حکومت پسند کرتی ہے۔

امیر معاویہ کے دور میں وہ حدیثیں تک سنانے پر پابندی لگا دی گئی تھی جو حکومت و سیاست کے متعلق تھیں۔ صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 120، باب حفظ العلم میں

فوت ہو گئے۔“

مولانا منظور نعمانی دیوبندی تبلیغی جماعت والے اپنی کتاب ”معارف الحدیث“ کی ساتویں جلد میں سیاست کے عنوان کے تحت اس حدیث کی شرح میں کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک ہے پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہے، لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ ان خلفاء میں شامل نہیں جو حضور ﷺ نے اس حدیث میں بیان فرمائے۔

امیر معاویہ کے دور میں حکومت کی حد تک اسلام بے دخل کر دیا گیا تھا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری ج: 13، ص: 65 پر لکھتے ہیں کہ معاویہ نے تمام شرائط کی خلاف ورزی کی۔ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ ج: 16، ص: 7 پر ایک ثقہ راوی حسین ابن المنزلہ کے حوالہ سے لکھا اللہ کی قسم! معاویہ نے حسن علیہ السلام سے ایک وعدہ بھی پورا نہ کیا۔

بنو امیہ کے دور میں آزادی اظہار یہاں تک چھین لی گئی کہ ولید بن عبد الملک جو حکم خطبہ دے رہا تھا۔ اس نے خطبہ اتنا لمبا کیا کہ عصر کا وقت بھی ختم ہو گیا تھا۔ ایک تابعی رحمہ اللہ نے اٹھ کر کہا رسول ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں اتری، عصر کا وقت بھی جا رہا ہے، جمعہ بڑھاؤ۔ تو اس تابعی کو کیا جواب ملا؟ اسے قتل کر دیا گیا۔

(ابن عبد ربہ، العقد الفرید، ج: 1، ص: 62)

یہ ظلم کی حکومت تھی جو امیر معاویہ سے شروع ہوئی۔ یہ جبر و استبداد بنو امیہ کا تحفہ ہے جس کی وجہ سے مسلمان ملکوں میں عوام کو آزادی نصیب نہیں ہوئی۔

مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے اخبار الہلال کی مکمل فائل الہلال اکیڈمی A-32

شاہ عالم مارکیٹ لاہور نے چھپوا ددی ہے۔ اس کی دوسری جلد سے حوالہ پیش خدمت ہے۔

دوسری جلد کے صفحہ نمبر 6 پر اسلامی حکومت کے بارے میں مولانا آزاد رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”ہمارا عقیدہ ہے اگر قیامت کے دن دنیا کے ظالموں کی صفوف عام فساد و فجار سے الگ قرار دی جائیں گی تو ان میں سب سے پہلی صف یقیناً بنی امیہ کی ہوگی۔

انہی ظالموں نے اسلام کی اس روح حریت کو غارت ظلم و استبداد کیا۔ اور اس

کے عین عروج کے وقت اس کی قوت نمو کو اپنی اغراض شخصیہ کے نیچے پھل ڈالا۔ ان کا اقتدار و تسلط فی الحقیقت امر بالمعروف کے سد باب کا پہلا دن تھا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اسلام کی جمہوریت کو غارت کر کے اس کی جگہ شخصی حکومت کی بنیاد ڈالی، جو یقیناً اعتقاد قرآن کی رو سے کفر جلی تھا بلکہ سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ اظہار حق اور امر بالمعروف کو تلوار کے زور سے دبا دینا چاہا اور مسلمانوں کی حق گوئی کی ترقی کے ولولے کو مضحل کر دیا۔ تاہم چونکہ عہد نبوت کا فیضان روحانی اور تعلیم قرآنی کا اثر ابھی بالکل تازہ تھا، اس لیے اگرچہ طرح طرح کی بدعات اور محدثات و معصیت کا بازار گرم ہو گیا تھا لیکن پھر بھی امر بالمعروف کی آواز کی گرج کو نہ اور دمشق کے ایوان محل کو لرزادیتی تھی۔“

آگے لکھتے ہیں: ”بنی امیہ کا سب سے بڑا ظلم جو انہوں نے اسلام پر کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ خلافت راشدہ اسلامیہ کی بنا جو اجماع مشورہ مسلمین پر تھی، کو حکومت شخصی و مستبدہ و سلطنت ملکیہ سیاسیہ میں تبدیل کر دیا۔ اور حکومت کی بنیاد و شریعت پر نہیں رکھی بلکہ محض قوت اور سیاست پر رکھی۔ تاریخ اسلام کے تمام صغار کبار و عالی و دانی اس پر متفق ہیں اور تمام اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ ایک سخت بدعت تھی اور فرمان صادق و مصدوق ﷺ کے مطابق ملک مخصوص کا آغاز تھا۔ اور سنوا! ازاں جملہ بنی امیہ و بنی مروان کی سب سے بری پادشاهی و شریعت اور پر معصیت و فسق و عدوان بدعت شنیعہ جس کا انتقامانہ اتباع برادران شیعہ نے شروع کیا اور افسوس ہے کہ بد بختانہ شاید آج تک کرتے ہیں یعنی سب سے پہلے سرزمین اسلام میں جو رحم و محبت اور صلح و اخوت کی خیم ریزی کیلئے بنی تھی، سب و شتم اور لعن و نفرے کا خیم انہوں نے بویا تھا اور لعنت گھروں پر رہ کر نہیں، بلکہ مقدس مساجد اسلام میں جو صرف عبادت و طاعت الہی کے مقاصد مقدسہ کیلئے بنائی گئی تھیں، اپنے اغراض نفسانیہ و منکرات ذاتیہ سے اہل بیعت نبوت اور امیر علیہ السلام پر

اعلانِ لعنت بھیجی شروع کی۔

پھر لکھتے ہیں: بنی امیہ کی سب سے پہلی بدعت اور اسلام و مسلمین پر ان کا اولین ظلم یہ تھا کہ نظام حکومت اسلامیہ کا تختہ یکسر الٹ دیا اور خلافت راشدہ جمہوریہ صحیحہ کی جگہ مستبدہ (ڈکٹیٹر شپ) و ملک مخصوص کی بنیاد ڈالی۔ یہ انقلاب بہت شدید تھا اور بہت مشکل تھا کہ ملک کو اس پر راضی کیا جائے۔ ابھی صحابہ کرام موجود تھے اور خلافت راشدہ کے واقعات بچے بچے کی زبان پر تھے۔ اس لیے اس احساس اسلامی کو مٹانے کے لئے تلوار سے کام لیا گیا اور جس نے قوت حق و معرفت سے زبان کھولی، اس کو زور شمشیر و خنجر سے چپ کر دیا گیا۔ رفتہ رفتہ احساس منقلب اور خیالات بدلتے چلے گئے اور حقیقت روز بروز مجبور و محبوب ہوتی گئی۔

الہلال کی تیسری جلد میں عشرہ محرم الحرام کے تحت مضمون میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”بنو امیہ کی حکومت ایک غیر شرعی حکومت تھی۔ کوئی حکومت جس کی بنیاد و جبر و شخصیت پر ہو، کبھی بھی اسلامی حکومت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اسلام کی روح حریت و جمہوریت کو غارت کیا اور مشورہ اجماع امت کی جگہ محض غلبہ جابرانہ اور مکر و خدع پر اپنی حکومت کی بنیاد رکھی۔ ان کا نظام حکومت شریعت الہیہ نہ تھا بلکہ محض اغراض نفسانیہ و مقاصد سیاسیہ تھا۔ ایسی حالت میں ضرور تھا کہ ظلم و جبر کے مقابلہ کی ایک مثال قائم کی جائے اور حق و حریت کی راہ میں جہاد کیا جاتا۔ حضرت سید الشہداء نے اپنی قربانی کی مثال قائم کر کے مظالم بنی امیہ کے خلاف جہاد حق کی بنیاد رکھی اور جس حکومت کی بنیاد ظلم و جبر پر تھی اس کی طاعت اور وفاداری سے انکار کر دیا۔ پس یہ نمونہ تعلیم کرتا ہے کہ ہر ظالمانہ و جابرانہ حکومت کا اعلانیہ مقابلہ کرو اور کسی ایسی حکومت سے اطاعت و وفاداری کی بیعت نہ کرو جو خدا کی بخشی ہوئی انسانی حریت و حقوق کی غارت گر ہو اور جس کے احکام

مستبدہ و جائزہ کی بنیاد صداقت و عدالت کی بجائے ظلم پر ہو۔“

اظہار آزادی تھوڑی تھی جو حضور ﷺ نے دنیا کو دیا تھا۔ جو نہ پہلے ملا اور نہ بعد میں، امیر معاویہ و بنو امیہ کی کوششوں سے باقی رہا۔ لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ خلیفہ کا کوئی الگ محل ہو، پہرے دار ہوں یا وہ جلوس میں سفر کرے۔

ہنوز اندر جہاں آدم غلام است
نقاش خام و کارش ناتمام است
غلام فقر آں گیتی پناہم
کہ در دینش ملکیت حرام است

امیر معاویہ کے دور میں مسلمانوں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر (اظہار رائے) کی آزادی چھین لی گئی تھی حالانکہ اسلام نے اسے مسلمانوں کا حق نہیں بلکہ فرض قرار دیا تھا۔ ان کے دور ملکیت میں ضمیر دہ پر قفل چڑھادیے گئے تھے اور زبانیں بند کر دی گئیں۔ یہ اصول بن گیا کہ منہ کھولو تو تعریف کے لئے کھولو ورنہ چپ رہو۔ جو باز نہ آئے ان کیلئے قید، کوڑے اور سزائے موت کا بندوبست تھا جیسا کہ حضرت جبر بن عدی رضی اللہ عنہ کے قتل سے ظاہر ہے۔ جبر کا شجر خبیثہ بعد میں اتنا تار ہو گیا کہ عبدالملک بن مروان 75ھ میں جب مدینہ گیا تو منبر رسول ﷺ پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا کہ

”میں امت کے امراض کا علاج تلوار کے سوا کسی اور چیز سے نہ کروں

گا۔ اب اگر کسی نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈرو میں اس کو قتل کر دوں گا۔“

(الکامل ابن الانبیر ج: 4، ص: 41-104 احکام القرآن الجصاص ج: 1، ص: 82)

فوات الوفيات، محمد بن شاہو الکتبی ج: 2، ص: 33)

اس جبر کے نتیجے میں لوگ ملک اور اس کے معاملات سے لاتعلقی ہو گئے اور حکومتوں

کی آمد و رفت کے خاموش تماشا بن کر رہ گئے۔

امیر معاویہ حکمران کیسے بنے؟

امیر معاویہ کی حکومت کی نوعیت ایسی نہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے بنانے سے حکمران بنے ہوں۔ وہ بہر حال حکمران بننا چاہتے تھے اور انہوں نے لڑکر حکومت حاصل کی۔ لوگوں نے ان کو حکمران نہیں بنایا بلکہ وہ خود اپنے زور پر حکمران بنے۔ وہ خود بھی اپنی اس پوزیشن کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اپنی حکومت کے آغاز میں معاویہ نے مدینہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا:

”خدا کی قسم! میں حکومت سنبھالتے ہوئے اس بات سے بے خبر نہ تھا کہ تم میرے برسر اقتدار آنے سے خوش نہیں ہو اور اسے پسند نہیں کرتے۔ اس معاملہ میں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے میں اسے خوب جانتا ہوں مگر میں نے اپنی اس تلوار کے زور پر تم کو مغلوب کر کے اسے (یعنی حکومت کو) لیا ہے۔ اب اگر تم دیکھو کہ میں تمہارا حق پورا پورا ادا نہیں کر رہا ہوں تو تھوڑے پر مجھ سے راضی رہو۔“ (امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 132)

جو لوگ یزید سے بات شروع کرتے ہیں، انہیں کبھی امام حسین علیہ السلام کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ کیا حضرت علی علیہ السلام نعوذ باللہ یزید سے بھی کم مرتبہ تھے؟ وہ مہاجر و انصار صحابہ رضی اللہ عنہم کے چنے ہوئے خلیفہ برحق تھے۔ بات امیر معاویہ سے شروع ہوئی تو تب سمجھ آئے گی۔ انہوں نے سب سے پہلے اسلام میں بغاوت کا آغاز کیا (اول من بغی فی الاسلام معاویہ) اور بہانہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بنا لیا جو کہ بالکل غلط تھا۔ اگر حضرت علی علیہ السلام جان بوجھ کر بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص نہ لیتے تو زیادہ سے زیادہ نعوذ باللہ فاسق ہوتے۔ اگر خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ

ہی نعوذ باللہ قاتل عثمان رضی اللہ عنہ ہوتے تو گناہ گار ہی ہوتے۔ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کافر ہو گئے تھے جو امیر معاویہ نے بیعت نہیں کی۔ جو روایات یزید کے حق میں پیش کی جاتی ہیں کہ حکمران جیسا بھی ہوا طاعت کرو، تو کیا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں پیش نہیں ہو سکتیں؟ ایک صوبہ کے گورنر نے کیوں بغاوت کی؟ امیر معاویہ نے علانیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آئینی حکومت کو چیلنج کیا۔ حالانکہ بات سیدھی سی ہے کہ پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر کے بیعت کرو پھر قتل سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا مقدمہ پیش کرو، لوگ خود دیکھ لیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ انصاف کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ امیر معاویہ کے خیال میں آئینی خلیفہ ہی نہیں تو پھر اُن سے قصاص کا مطالبہ ہی کیوں کرتے ہیں؟

امیر معاویہ نے قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پر ایک ڈھونگ رچا لیا تھا، عام لوگ اس سے دھوکہ کھا گئے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے اسی لیے صلح کے امیر معاویہ کو اگلے بیس سال کیلئے فری بینڈ دے دیا۔ پھر لوگوں نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ امیر معاویہ نے کون سا قصاص لیا اور کون سے سال اسلام قائم کیا۔ اسی لیے ایک بھی عالم جرأت نہیں کر سکا کہ ان کے دور کو خلافت راشدہ کہہ سکے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے الفاظ میں:

”اللہ ہوامیر معاویہ سے انصاف کرے جنہوں نے اسلام میں اس مقدس تصویر مساوات کو اپنی کثافت سے ملوث کر دیا اور اس کی بڑھتی ہوئی قوتیں عین دور عروج میں پامال مفاسد استبداد ہو کر رہ گئیں۔“

(بحوالہ اسلام اور جمہوریت ص 158 مولانا محمد شفیع خاں پسروری اہل حدیث عالم)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے آخری دور میں حالات کی نزاکت کا احساس کر کے فرمایا کہ میں نے معاویہ کو شام کا علاقہ سپرد کر کے غلطی کی

(مسلم شریف کی شرح فتح الملہم ج 7، ص 154، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ)

پھر معاویہ نے حکومت سنبھالنے کے بعد جو خطاب کیا اس کا ذکر بخاری میں بھی

ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معاویہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا جو حکومت کے بارے میں کوئی بات کہنا چاہتا ہے وہ ڈرا سر تو اٹھائے۔ ہم اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کے حق دار ہیں۔ حبیب اللہ ابن مسلمہ صحابی نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے معاویہ کی تقریر کا جواب کیوں نہیں دیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں جواب میں اسے یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم سے زیادہ حقدار خلافت وہ ہے جو تم سے اور تمہارے باپ سے جنگیں لڑتا رہا۔ پھر میں ڈرا کہ کہیں ایسا کہنے سے جماعت میں پھوٹ نہ پڑ جائے اور خون ریزی نہ ہو اور لوگ میرا مطلب کچھ اور نہ سمجھ لیں۔ میں نے جنت کی نعمتیں جو اللہ نے تیار کر رکھی ہیں، ان کا خیال کیا۔ حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم بچ گئے اور محفوظ رہے۔

(بخاری کتاب المغازی باب غزوة الخندق وهي الاحزاب)

امیر معاویہ نے لوگوں سے خوف و رشوت کے ذریعہ بیعت لی۔ یمن کے مشہور سلفی عالم شیخ مقبلی جو ہجرت کر کے مکہ آ گئے تھے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ حکومت کے لالچی تھے اور اس کیلئے ہر کمر و فریب روا رکھا اور یزید کی بیعت سے آخری کیل بھی ٹھونک دیا۔ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے اجتہاد کیا اور نیک نیتی سے غلطی کھا گیا ایسا کہنے والے لوگ یا تو جاہل ہیں یا گمراہ ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ میں تجھ کو اپنے اس عقیدہ پر گواہ بناتا ہوں۔ (العلم والشیخ، ص 238)

صحابہ نے بیعت معاویہ بطور تقیہ کی تھی

بانی تبلیغی جماعت مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ کے بیٹے مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ نے امام طحاوی رحمہ اللہ کی کتاب معانی الآثار کی شرح امانی الاحبار کے نام سے لکھی ہے۔ اس کی ج 4، ص 252 پر وہ لکھتے ہیں:

”تقیہ کوئی انہونی بات نہیں اور نہ اس سے دین میں کوئی خرابی آتی ہے تقیہ کا

جو معنی امام طحاوی رحمہ اللہ نے لیا وہ دین میں حرام نہیں بلکہ کئی موقعوں پر جائز

ہوتا ہے۔ کیا اس معترض (اہل حدیث عالم) کو معلوم نہیں کہ حضرت عبداللہ بن

عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاص ساتھیوں میں سے تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ان اصحاب میں سے تھے جو امیر معاویہ کو بہت غلط جانتے تھے، اس لیے بغض رکھتے تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں امیر معاویہ سے جنگیں لڑتے رہے، مگر بعد میں انہوں نے تقیہ کے طور پر امیر معاویہ کی بیعت کر لی۔ زیادہ صحابہ نے ڈر کے مارے اور کچھ نے راضی ہو کر بیعت کی۔ اور اسی طرح اس کے بیٹے یزید کی بیعت بھی تقیہ کے طور پر کی تھی۔“

بخاری کتاب الاکراه کے شروع میں ہی امام بخاری لکھتے ہیں کہ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ نے کہا: ”تقیہ قیامت تک قائم رہے گا۔“

امیر معاویہ کی فضیلت

ان کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ بخاری کی شرح فتح الباری ج: 7، ص: 104 پر لکھتے ہیں:

”ابن ابی عاصم نے ایک پورا رسالہ امیر معاویہ کی شان پر لکھا۔ ثعلب کے غلام ابو عمر نے بھی ایسا ہی رسالہ لکھا اور ابو بکر نقاش نے بھی لکھا۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے موضوعات (من گھڑت روایات) پر جو کتاب لکھی اس میں ایسی روایات ذکر کے امام اسحاق بن راہویہ محدث رحمہ اللہ کا قول نقل کر دیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے۔“

پھر امام ابن حجر رحمہ اللہ نے امام نسائی رحمہ اللہ کی وفات کا قصہ بھی لکھا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں کتاب ”خصائص علی رضی اللہ عنہ“ لکھی تو شام کے لوگوں نے امیر معاویہ کی شان بھی پوچھی۔ امام نے جواب دیا کہ ان کی شان میں کوئی حدیث ثابت نہیں البتہ ایک بدعا ثابت ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے۔ پھر شامیوں نے امام کو اتنا مارا کہ ان کے خبیث پل دیئے اور پیٹ پھاڑ دیا جس سے امام نسائی رحمہ اللہ شہید ہو گئے۔

ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”معلوم ہوتا ہے امام نسائی نے بھی اپنے استاد اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کے قول پر اعتماد کیا۔“

مشہور اہل حدیث عالم مولانا عبدالرحمن مبارکپوری نے ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی ج: 4، ص: 354-355 پر یہی لکھا کہ امیر معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ عبید اللہ امرتسری نے اپنی کتاب ارجح المطالب کے ص: 581 پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے حوالہ سے یہی قول لکھا۔ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب موضوعات کبیر (بڑے جھوٹ) اردو کے ص: 566 اور عربی کے ص: 106 پر امام اسحاق بن راہویہ کے حوالہ سے یہی قول لکھا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اللآلی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ ج: 1، ص: 424 پر یہی لکھا ہے۔

شیخ محمد بن احمد سفارینی اپنی کتاب لواضع الانوار البہیہ و سواطع الاسرار الاثریہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے صاحبزادے عبداللہ کا قول نقل کرتے ہیں:

”انہوں نے کہا میں نے اپنے والد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے علی رضی اللہ عنہ و معاویہ کے بارے میں سوال کیا تو کہنے لگے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ علی رضی اللہ عنہ کے دشمن بہت تھے۔ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ میں تلاش کیا مگر نہ کر سکے تو یہ لوگ ایک ایسے شخص (معاویہ) کی طرف متوجہ ہوئے جس نے علی رضی اللہ عنہ سے جنگ و جدال کیا تھا اور ان دشمنان علی رضی اللہ عنہ نے عیب امیر معاویہ کی تعریف بڑھا چڑھا کر کی جو علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک چال تھی۔

(لواضع الانوار ج: 2، ص: 339)

امیر معاویہ کی سیاست

مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ البلاغ ج: 6، ص: 55 پر لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ کی سیاست یہ تھی کہ مال و دولت کے چھینٹوں سے گرم دلوں کو ٹھنڈا کیا جائے۔

اُولیاتِ امیر معاویہ یا بدعاتِ امیر معاویہ

ان کے دور میں مندرجہ ذیل بدعات شروع ہوئیں۔

(1) موروٹی حکومت

مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”بنی امیہ کی سب سے پہلی بدعت اور اسلام و مسلمین پر ان کا اولین ظلم یہ تھا کہ نظام حکومت اسلامیہ کا تختہ یکسر الٹ دیا اور خلافت راشدہ جمہوریہ صحیحہ کی جگہ مستبدہ (ڈکٹیٹر شپ) و ملک عضو کی بنیاد ڈالی۔

(الہلال کی فائل کی ج: 2، ص: 6)

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ سے بار بار اصرار کیا کہ حکمران کا انتخاب امت پر چھوڑ دے جو سنت نبوی ہے۔ امیر معاویہ نے کہا کوئی اور تجویز دو تو انہوں نے کہا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرح کر کہ اپنے خاندان سے باہر امت کا کوئی نیک آدمی ولی عہد نامزد کر دے۔ امیر معاویہ نے کہا یہ بھی منظور نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح کمیٹی بناوے، امیر معاویہ نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور صورت؟ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا اور کوئی صورت نہیں تو امیر معاویہ نے کہا میں ان سب کو ٹھیک کر دوں گا۔ پھر انہوں نے خوف و لالچ سے سب کو ٹھیک کر دیا۔

امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء ج: 3، ص: 158 پر لکھتے ہیں:

”کاش امیر معاویہ اپنے بیٹے کے حق میں وصیت نہ کرتے اور امت کو اپنی مرضی کا حکمران چنے کیلئے چھوڑ جاتے۔ اس کتاب کی ج: 4، ص: 44 پر امام

لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اگر یہ بری سنت جاری نہ ہوتی کہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا دیا (بعد میں یہ تماشا نہ ہوتا کہ بڑے بڑے بد معاش حکومت پر آ گئے) تو شوریٰ ہوتی۔

علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”الخلافة الاحیاء العظمیٰ“ میں لکھتے ہیں: ”تصنیف و تالیف کا دور اس وقت آیا جب امیر معاویہ کی ایجاد کی ہوئی دو بدعتوں کے باعث خلافت نے ملوکیت کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اول یہ کہ حکومت کو عصیت کی قوت کے تابع کر دیا اور دوم یہ کہ خلافت کو میراث بنا دیا۔“ (کتاب مذکور کے اردو ترجمہ کا ص: 121)

امام ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”الکامل“ میں لکھتے ہیں:

”معاویہ وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے اسلام میں اپنے بیٹے کیلئے بیعت لی۔“

حدیث میں آتا ہے کہ میری سنت کو بنو امیہ کا ایک آدمی بدلے گا۔ یہ حدیث صحیح الجامع الصغیر ج: 1، ص: 504، نمبر 2582 پر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے، علامہ البانی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ج: 4، ص: 329-330 حدیث نمبر 1749 پر درج ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں ص: 330 پر لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ نے شوریٰ کو وراثت میں بدل دیا۔

(2) اسلام میں سب سے پہلی بغاوت

امام سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”اکثر علماء کا یہ مسلک ہے کہ اَوَّلَ مَنْ بَغَىٰ فِی الْاِسْلَامِ معاویہ یعنی اسلام میں سب سے پہلے بغاوت معاویہ نے کی، (شرح مقاصد تفتازانی بحوالہ ارجح المطالب ص: 578، عبید اللہ امرتسری) لہذا صلح حسن علیہ السلام کے بعد معاویہ کے امام ہونے میں اختلاف ہے۔ (ارجح المطالب ص: 582)

(3) پہلا بادشاہ

صحیح حدیث میں فرمایا گیا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک ہے پھر ملک عضو (کاٹ کھانے والی بادشاہت) ہے۔

(سلسلة الاحادیث الصحیحة البانی ج: 1، ص: 520، حدیث نمبر 459، ابو داؤد حدیث نمبر 4646، ابن حبان حدیث نمبر 1535، سیر اعلام النبلاء ذہبی ج: 4، ص: 79، الجواب الصحیح امام ابن تیمیہ ج: 4، ص: 138)

ترمذی ابو اب الفتن باب ماجاء فی الخلافة میں سعید بن جمہان حضرت سفینہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت میں خلافت 30 برس تک ہے پھر بادشاہت ہے۔ پھر سفینہ رضی اللہ عنہا نے کہا خلافت گن لے خلافت ابو بکر و عمر و عثمان، علی رضی اللہ عنہم کو پھر ہم نے گنا اور پایا 30 سال، کہا سعید رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے سفینہ رضی اللہ عنہا سے کہا بنی امیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے کہا سفینہ نے یہ بنو زرقاء جھوٹ بولتے ہیں، وہ بادشاہ ہیں بلکہ بدترین بادشاہ! (تاریخ الخلفاء سیوطی بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ بحوالہ ارجح المطالب ص: 583-584)

سنن ابوداؤد کی شرح عون المعبود ج: 4، ص: 342 پر اہل حدیث عالم مولانا شمس الحق عظیم آبادی لکھتے ہیں:

”بنو امیہ کے حاکم چاہے زبردستی خلیفہ بن گئے لیکن وہ قطعاً اس کے اہل نہ تھے بلکہ وہ ظالم حکمران تھے۔ وہ خلیفہ راشد نہیں بلکہ ظالم بادشاہ تھے۔

آگے لکھتے ہیں کہ امام مناوی رضی اللہ عنہ نے کہا:

”خلافت ختم ہونے کے بعد یعنی 30 سال کے بعد بادشاہت ہوگی کیونکہ خلیفہ کا نام صرف ان کیلئے جو سنت نبوی پر چلتے رہے اور مخالف سنت نبوی بادشاہ تھے، خلیفہ نہ تھے۔ ہاں ان بادشاہوں کو خلیفہ کہہ دیتے ہیں کیونکہ ایک

کے بعد دوسرا جو آیا۔“

امام ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری ج: 12، ص: 392 پر لکھتے ہیں:

”حدیث میں ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہے اس سے مراد خلافت نبوت ہے اور معاویہ اور بعد والے بادشاہوں کے طریقہ پر تھے چاہے ان کا نام خلیفہ رکھو۔ معاویہ اور بعد میں آنے والوں کو خلیفہ صرف لغوی معنوں میں کہتے ہیں مگر ان کی سیرت ملوکانہ تھی۔“

مولانا عبدالرحمن مبارکپوری رحمہ اللہ اہل حدیث عالم ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی ج: 3، ص: 230 پر لکھتے ہیں:

”حضرت سفینہ صحابیہ رضی اللہ عنہا نے کہا معاویہ پہلا بادشاہ ہے۔ خلافت نبوت سے مراد خلافت کاملہ لی جاتی ہے اور وہ صرف 15 اشخاص میں منحصر ہے (یعنی سیدنا حسن علیہ السلام تک) لہذا جب حدیث میں 12 خلفاء کا ذکر آئے تو وہ اس کے خلاف نہیں ہے کیونکہ اس حدیث میں مطلق حکمرانوں کی بات ہے۔“

ملا علی قاری رحمہ اللہ مشکوٰۃ کی شرح مرقاة میں ج: 10، ص: 124 پر لکھتے ہیں:

”معاویہ خلیفہ نہیں بادشاہ تھے، ان کو کسی امام اور عالم نے خلیفہ نہیں کہا۔“

یہی بات شاہ ولی اللہ نے حجة البالغہ ج: 2، ص: 212 پر لکھی ہے۔

عشرہ مبشرہ میں شامل سعد بن ابی وقاص نے امیر معاویہ کو بادشاہ کہہ کر سلام کیا (اکامل ابن اثیر ج: 3، ص: 405) شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تحفۃ انشاء عشریہ ص: 363 باب درامامت میں امیر معاویہ کو اسلام میں پہلا بادشاہ لکھتے ہیں۔

امیر معاویہ نے خود کہا کہ انا اول المسلموک (میں مسلمانوں میں پہلا بادشاہ ہوں، الامتعیاب امام ابن عبد البر ج: 1، ص: 254، البدایہ والنہایہ، ابن کثیر ج: 8، ص: 135)

امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے بقول سنت یہی ہے کہ ان کو خلیفہ کی بجائے بادشاہ کہا جائے کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا میرے بعد خلافت 30 سال ہے پھر

بادشاہت ہے اور یہ مدت ربیع الاول 41ھ میں ختم ہوگئی جبکہ حسن علیہ السلام

معاویہ کے حق میں دست بردار ہو گئے۔ (البدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 16)

(4) نماز عید کی اذان و اقامت

عید کی اذان و اقامت امیر معاویہ نے شروع کی

(ترمذی کی شرح تحفة الاحوذی ج: 1، ص: 375، بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ) امام ابن حزم المحلی ج: 5، ص: 85-86، امام ابن عبد البر، التمهید لما فی المؤطا فی المعانی والا سانید ج: 10، ص: 244، امام سیوطی، تاریخ الخلفاء اردو، ص: 248

(5) نماز عید کا خطبہ نماز سے پہلے شروع کر دیا۔

مروان گورنر مدینہ صحابی حضرت ابوسعید خدری نے پہلے خطبہ سے منع کیا تو اس نے کہا چھوٹ گئی وہ سنت جو تم جانتے ہو۔ (مسلم کتاب صلوٰۃ العیدین عن ابی سعیدؓ الخدری)

(6) سیدنا علی علیہ السلام پر لعنت کرانا

ابو عبد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نے کہا تمہارے منبروں پر رسول اللہ ﷺ کو گالیاں دی جاتی ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ علی علیہ السلام اور اس سے محبت کرنے والوں پر لعنت کیونکہ میں جانتی ہوں کہ حضور ﷺ سب سے زیادہ علی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔

(سلسلة الاحادیث الصحیحة البانی ج: 7، حصہ 2 حدیث نمبر 3332، مسند ابو یعلیٰ ج: 12، ص: 444-445، طبرانی فی المعجم الاوسط ج: 6، ص: 389، حدیث نمبر 5228، المعجم الصغیر ص: 199 ہندیہ، المعجم الکبیر ج: 23، ص: 323، حدیث نمبر 738)

امام ابن حزم رحمہ اللہ محلی ج: 5، ص: 86 پر لکھتے ہیں کہ بنو امیہ خطبہ عید میں حضرت علی علیہ السلام پر لعنت کرتے تھے۔

ابو عبد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نے کہا تمہاری موجودگی میں رسول اللہ ﷺ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں نے نبی ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس نے علی علیہ السلام کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔

(مسند احمد حدیث نمبر 27284، ج: 12، ص: 112 اردو)

اس موضوع پر تفصیلی بحث حضرت علی علیہ السلام کے دور کے حالات میں گزر چکی ہے۔ امیر معاویہ سیدنا علی علیہ السلام کی دشمنی میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ حضرت علی علیہ السلام کو گالی نہ دینے والے سے جواب طلبی کرتے تھے۔

(مسلم کتاب الفضائل باب من فضائل علی علیہ السلام ابن ابی طالب، ترمذی ابواب المناقب باب مناقب علی علیہ السلام ابن ابی طالب)

یہ رواج بنو امیہ میں اتنا زیادہ پھیل گیا تھا کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اور امام نسائی رضی اللہ عنہ کی موت کی وجہ بن گیا اور ان کو حب علی علیہ السلام کے الزام میں قتل کر دیا گیا۔ امیر معاویہ کی شروع کردہ اس بری بدعت کا ذکر امام طبری رضی اللہ عنہ نے تاریخ ج: 4، ص: 188 امام ابن الاثیر نے الکامل ج: 3، ص: 234، ج: 4، ص: 154 امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 289، ج: 9، ص: 80 پر بھی کیا ہے۔

(7) دین و سیاست الگ الگ کر دیئے

امیر معاویہ اسلام میں وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے دین و سیاست کو الگ کر دیا۔

(8) لاش کا سر کاٹنا

امام ابو داؤد رحمہ اللہ اور ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضور ﷺ اور خلفاء راشدین نے کسی لاش کا سر نہیں کٹوایا۔ جنگ بدر میں ابو جہل کا سر کاٹنے کی باتیں محض جعلی ہیں۔ امام بیہقی اپنی سنن میں لکھتے ہیں:

”ایک عیسائی پادری جنگ میں مارا گیا۔ مسلمان کمانڈر نے اس کا سر کاٹ کر

ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھجوایا۔ آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا آئندہ یہ

حرکت نہ کرنا۔“ (بحوالہ الميسوط امام سرخسی رحمہ اللہ ج: 10، ص: 131)

معاویہ کے حکم سے عمرو بن حق صحابی کا کاٹا گیا اور شہر شہر پھرایا گیا۔ پوری

سلطنت میں پھرانے کے بعد ان کی بیوی کی گود میں لاکر پھینک دیا گیا جو کہ

امیر معاویہ نے قید کی ہوئی تھی۔ اس کا نام آمنہ بن شریک تھا۔ اس نے سر کو

چوہا اور اپنے سینہ سے لگا کر کہا ان لوگوں نے زندگی میں تجھے مجھ سے جدا رکھا اور اب تیرا سرا کر یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں تجھ سے نفرت کرتی ہوں لیکن تو اب بھی میرا محبوب ہے۔ تم راہ خدا میں شہید ہوئے۔

(امام ابن اثیر اسد الغابہ ج: 4، ص: 101، امام ابن حجر، التلخیص الحیجر ج: 4، ص: 107-108، طبقات ابن سعد ج: 6، ص: 25، الاستیعاب ج: 2، ص: 440، تہذیب ج: 8، ص: 24) امیر معاویہ نے کفر کا رواج شروع کیا اور یہی ان کے بیٹے یزید نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا۔

اسلام میں سب سے پہلا سر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا کاٹا گیا جو جنگ صفین میں شریک تھے۔ سر کاٹ کر امیر معاویہ کے پاس لایا گیا اور دو آدمی اس سر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، ہر ایک کہتا تھا کہ عمار رضی اللہ عنہ کو میں نے قتل کیا ہے۔

(مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 6538-6929، طبقات ابن سعد ج: 3، ص: 253)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ مصر میں حضرت علی علیہ السلام کے گورنر تھے۔ جب امیر معاویہ کا قبضہ مصر پر ہوا تو انہیں گرفتار کر کے قتل کیا گیا پھر ان کی لاش مردہ گدھے کی کھال میں رکھ کر جلائی گئی۔

(الاستیعاب ج: 1، ص: 235، طبری ج: 4، ص: 79، ابن اثیر، الکامل ج: 3، ص: 180، ابن خلدون تکرار ج: 2، ص: 182)

امیر معاویہ کا جاری کردہ یہ طریقہ بعد میں بھی قائم رہا اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، معصب بن زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات کے سر بنو امیہ کے دور میں کاٹے گئے۔

(9) سونا، چاندی، ریشم اور درندوں کی کھالوں کا استعمال

امیر معاویہ کے گھر میں سونا چاندی مردوں کے استعمال میں جوتے تھے، درندوں کی کھالیں بطور نشست اور ریشم بطور لباس استعمال ہوتا تھا، ان تمام باتوں سے رسول کریم ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ ان کاموں کے منع ہونے اور ان کے گھر میں ہونے کا اعتراف امیر معاویہ کو بھی تھا جیسا کہ حضرت

مقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ سے مکالمہ سے ثابت ہوتا ہے۔

(ابو داؤد، کتاب اللباس باب فی جلود النمر باب نمبر 263، مسند احمد روایت نمبر 17321 ج: 7، ص: 141)

(10) مسلمانوں کو غلام بنانا

امیر معاویہ کے گورنر ہنس بن ابی ارقطاط نے حضرت علی علیہ السلام کے زیر انتظام علاقہ ہمدان پر معاویہ کے حکم سے حملہ کیا اور جنگ میں پکڑی جانے والی مسلمان لونڈیاں بنالیں جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔

(امام ابن عبد البر، الاستیعاب ج: 1، ص: 65)

امیر معاویہ نے گورنروں کو بے لگام چھوڑا ہوا تھا۔ جب کوئی ان کے ظلم کی فریاد لے کر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا تو اسے کہا جاتا کہ میرے گورنروں سے قصاص لینے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔

(الکامل ابن اثیر ج: 3، ص: 248، البدایہ والنہایہ، ابن کثیر ج: 8، ص: 71، طبری ج: 4، ص: 223، امام ابن اثیر اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ ج: 1، ص: 181، پر لکھتے ہیں کہ یہ پہلی عورتیں تھیں جو اسلام میں لونڈیاں بنائی گئیں۔

(11) پانی بند کرنا سنت معاویہ ہے

جنگ صفین کیلئے معاویہ کا لشکر پہلے پہنچ چکا تھا اور انہوں نے فرات کے پانی پر قبضہ کر لیا اور علی علیہ السلام کی فوج کا پانی بند کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی فوج نے لڑ کر پانی کا قبضہ لیا اور سیدنا علی علیہ السلام نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اپنی ضرورت بھر پانی لیتے رہو اور مخالف لشکر کو بھی فائدہ اٹھانے کی اجازت دو۔

(طبری ج: 3، ص: 568-569، الکامل ابن اثیر ج: 3، ص: 145-146، ابن خلدون تکملہ تاریخ ابن خلدون ج: 2، ص: 170)

امیر معاویہ کے ”سعادۃ مند“ بیٹے یزید نے دوسری باتوں کی طرح اپنے والد کی یہ سنت بھی برقرار رکھی اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کا کر بلا میں پانی بند کر دیا۔ اس بارے میں

حدیث ملاحظہ ہو کہ پانی بند کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہے۔

بخاری کتاب الاحکام باب من بايع رجلاً لا يبيع له الا للدنيا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین آدمیوں سے بات تک نہ کرے گا نہ انکو گناہوں سے پاک کرے گا بلکہ ان کو دکھ کی مار پڑے گی۔ ایک تو وہ شخص جس کے پاس راستے میں قالتو پانی ہو اور وہ مسافر کو نہ دے، دوسرے وہ شخص جو محض دنیا کمانے کی خاطر کی امام کی بیعت کرے کہ اگر وہ اسے مال دے تو بیعت پوری کرے ورنہ نہ پوری کرے، تیسرے وہ شخص جو عصر کی نماز کے بعد سامان فروخت کرنے جائے اور اللہ کی جھوٹی قسم کھائے کہ اس کی یہ قیمت مجھے ملتی تھی مگر میں نے نہ بیجا اور اس کی قسم کے اعتبار پر کوئی وہ سامان خرید لے حالانکہ وہ جھوٹا ہو اور اس کو اتنی قیمت نہیں ملتی تھی۔

اس حدیث کے تحت مولانا وحید الزماں نے سیدنا حسین علیہ السلام کا پانی بند کرنے کا ذکر کر کے لکھا کہ ان مردودوں کو آنحضرت ﷺ کا بھی خیال نہ آیا کہ آپ علیہ السلام کی جوتیوں کے طفیل سے اس درجہ کو پہنچے کہ حکومت اور سرداری ملی۔

(12) پیشگی زکوٰۃ لینا شروع کر دی

ابن شہاب نے کہا سب سے پہلے معاویہ نے عطیات میں سے پیشگی زکوٰۃ کاٹی۔

(موطا امام مالک کتاب الزکاة باب الزکوٰۃ فی العین من الذهب والورق)

علامہ وحید الزماں اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

”یعنی تنخواہ کی تقسیم کے وقت لے لیتے، یہ امر خلفائے راشدین سے منقول

نہیں ہے اور خلاف ہے حدیث کے اور اجماع صحابہ کے اس واسطے اس پر عمل نہیں ہوا۔“

اس پر تبصرہ کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ علیہ السلام موطا کی شرح المصطفیٰ ص: 207 پر لکھتے

ہیں کہ سالانہ دماہانہ عطیات پر کسی کو دیتے وقت ہی زکوٰۃ وصول کرنا بدعت ہے۔

(13) جمعہ کا خطبہ بیٹھ کر

شاہ ولی اللہ علیہ السلام لکھتے ہیں:

”طاہس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ، ابو بکر رضی اللہ عنہ،

عثمان رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور سب سے پہلے معاویہ نے منبر پر بیٹھ

کر خطبہ دیا۔

(ازالۃ الخفاء ج: 2، ص: 199)

مسلم شریف کتاب الجمعہ میں روایت ہے:

”حضرت کعب بن عجرہ مسجد میں داخل ہوئے تو ابن ام الحکم بیٹھے ہوئے

خطبہ جمعہ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا اس غبیث کو دیکھو کہ بیٹھ کر خطبہ پڑھتا

ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”جب دیکھتے ہیں کسی تجارت یا کھیل کو تو اس کی

طرف دوڑ جاتے ہیں اور تجھ کو کھڑا ہو چھوڑ جاتے ہیں۔“ (سورہ جمعہ)

(14) بیت الخلاء قبلہ رخ بنانا

ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے قبلہ کی طرف منہ یا

پیٹھ کرنے سے منع فرمایا۔ مگر شام میں بیت الخلاء قبلہ رخ بنے ہوئے تھے۔

(بخاری کتاب الصلوٰۃ باب قبلہ اهل المدينة اهل الشام، مسلم کتاب الطہارۃ باب استقبال القبلة)

(15) کو تو ال کا عہدہ

بخاری شریف کتاب الاحکام باب ماتحت حاکم قصاص کا حکم دے

سکتا ہے میں پہلی حدیث کی شرح میں علامہ وحید الزماں لکھتے ہیں:

”کو تو ال کا عہدہ خلافت راشدہ کے دور تک نہ تھا یہ بنی امیہ کی ایجاد ہے اور انہی

کا اثر اس عہدے میں آ گیا کہ کو تو ال اکثر ظالم، سفاک اور بے رحم ہوتا ہے۔“

(16) مقصورہ میں نماز پڑھنا

مسلم کتاب الجمعہ کی آخری روایت میں سائب سے روایت ہے کہ میں نے معاویہ

کے ساتھ جمعہ پڑھا مقصورہ میں۔

(17) حج تمتع سے منع کرنا

سب سے پہلے جس نے حج تمتع سے منع کیا وہ معاویہ ہیں۔

(مسند احمد کی شرح الفتح الربانی ج: 11، ص: 158، ترمذی کتاب الحج باب ماجاء فی التمتع عن ابن عباس رضی اللہ عنہ)

(18) بیعت لیتے وقت قسم لینا

امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بیعت لیتے وقت قسم لینے کا طریقہ امیر معاویہ نے ایجاد کیا اور عبدالملک بن مروان نے طلاق اور عتاق کی بھی قسم لینا شروع کر دی۔

(تاریخ الخلفاء سیوطی اردو ص: 248)

(19) نیزوں پر قرآن کھڑا کرنا

جنگ میں قرآن کھڑا کرنا سنت مطہرہ میں نہیں آیا نہ سنت خلفائے راشدین میں بلکہ اس بدعت کا پہلا کرنے والا معاویہ تھا۔ پھر عمرو بن عاص کی چالاک کی کو حدیث و تاریخ کی کتابیں پڑھنے والا جانتا ہی ہے۔

(سید نور الحسن خان رحمہ اللہ ابن نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ عرف الحادی ص: 197-198 باب در بیان قتال اہل البغی)

سنتوں میں تبدیلی

آپ پیچھے اولیات امیر معاویہ کی پہلی بدعت موروثی حکومت کے تحت یہ حدیث ملاحظہ کر چکے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ”میری سنت کو سب سے پہلے بنو امیہ کا ایک آدمی بدلے گا۔ آپ دیکھتے جائیں کہ ایک ایک سنت کیسے بدلی گئی۔“

(1) نماز میں تبدیلی

”پھر ان کے بعد ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے۔“ (سورہ حجر: 19: 59)

امیر معاویہ کے دور میں نماز کا جو برا حال ہوا وہ نسانی کتاب الامامة باب الصلوٰۃ مع آئمة الجور میں حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ امیر معاویہ کا گورنر زیاد بن ابیہ نماز لیٹ کر کے پڑھاتا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ ہمارے پاس عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ آئے میں نے ان کیلئے کرسی بچھائی، وہ بیٹھ گئے۔ میں نے کہا زیاد نماز لیٹ کر کے پڑھتا ہے۔ انہوں نے حیرت سے ہونٹ چبائے اور میری ران پر اس طرح ہاتھ مارا تھا، جیسے میں نے تیری ران پر مارا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جیسے تم نے مجھ سے پوچھا ویسے ہی میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا تھا تو آپ ﷺ نے اسی طرح میری ران پر ہاتھ مارا تھا جیسے میں نے تیری ران پر مارا ہے۔ فرمایا میں نے ابوذر رضی اللہ عنہ سے یہی پوچھا تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ تم وقت پر نماز پڑھ لینا۔ جب ظالم حاکم لیٹ کر کے نماز پڑھائیں تو ان کے پیچھے بھی پڑھ لینا اور یہ نہ کہنا کہ میں تو پڑھ چکا اب نہیں پڑھوں گا۔

اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابوالحسن سندھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ظالم حاکموں کے پیچھے نماز پڑھنے کا جواز ثابت ہوتا ہے کیونکہ نماز کو تاخیر سے پڑھنا صرف ظالم حاکموں کا کام ہے۔

(حاشیہ نسائی، علامہ سندھی ج: 2، ص: 76)

امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اسد الغابہ میں حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کے حالات ج: 1، ص: 385 پر لکھتے ہیں کہ ان کے قتل کا سبب بھی زیادہ نماز دیر سے پڑھانے پر کنگریاں مار کر ٹوکنا تھا۔

صحیح بخاری کتاب مواقیات الصلاة، باب تضييع الصلاة عن وقتها میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی احادیث میں بنو امیہ کے دور میں نماز کی بربادی پر روشنی پڑتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصلوة باب اتمام التكبير سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو امیہ نے اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنا بھی چھوڑ دیا تھا۔

امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں ج: 1، ص: 56 پر لکھتے ہیں:

”ہمارے شیخ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی قومہ اور تعدہ، نماز کے دونوں حصے بنو امیہ کے حاکموں نے بدل دیئے تھے اور اللہ اکبر کہنا چھوڑ دیا تھا اور نماز میں شدید تاخیر کرتے تھے۔“

امام ابن حجر فتح الباری شرح بخاری ج: 2، ص: 14 پر اور مولانا عبدالرحمن مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ الاخوان فی شرح ترمذی ج: 1، ص: 157 پر لکھتے ہیں:

”بنو امیہ کے دور میں لوگ بیٹھے بیٹھے اشارہ سے نماز پڑھ لیتے تھے تاکہ اٹھ کر پڑھنے کی صورت میں گردن نہ اتار دی جائے۔“

ترمذی ابو اب الصلوة باب ما جاء في تعجيل الصلاة اذا اخرها الامام میں سیدنا ابی ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو مار ڈالیں گے تو تم وقت پر پڑھ لینا۔ اگر تم نے وقت پر پڑھ لی تو امام کے ساتھ نفل ہو جائے گی اور اگر نہیں پڑھی تو تم اپنی نماز کی حفاظت کر چکے۔“

یہی روایت ابو داؤد کتاب الصلوة باب اذا اخر الامام الصلوة عن الوقت میں بھی آئی ہے۔

حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ نے مصر کے اموی حاکم عقبہ بن عامر کو مغرب کی نماز دیر سے پڑھانے پر کھڑے ہو کر کہا بھلا یہ کیا نماز ہے اے عقبہ؟ اس نے کہا ہم مصروف تھے آپ نے فرمایا کیا تو نے نہیں سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میری امت میں ہمیشہ بہتری رہے گی جب تک مغرب میں دیر نہ کریں گے۔

(ابو داؤد کتاب الصلوة باب وقت المغرب)

ایسے حاکموں کے متعلق نبوی پیش گوئی بھی تھی مثلاً ابو داؤد کتاب الصلوة باب اذا اخر الامام الصلوة عن الوقت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور قیسہ بن وقاص سے روایت ہیں ایسے حاکموں کو نماز لیت کرنے کا گناہ ہوگا، مقتدیوں کو نہ ہوگا۔ جیسا کہ مذکورہ احادیث اور ایک دوسری حدیث کتاب الصلوة ابو داؤد باب فی جماع الامامة و فضلها میں بیان فرمایا گیا۔

بنو امیہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اتنی چڑھتی کہ سنت کے مطابق جمعہ کی نماز میں سورتیں پڑھنا بھی ان کو پسند نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مروان کے قائم مقام گورنر کی حیثیت میں جمعہ میں سنت کے مطابق سورت جمعہ اور سورہ منافقون پڑھیں تو ایک نے اٹھ کر کہا آپ نے وہ سورتیں پڑھیں جو علی رضی اللہ عنہ کو فہم میں پڑھتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سورتیں پڑھتے دیکھا تھا۔ (صحیح مسلم کتاب الجہاد)

یہ یاد رہے کہ مومنوں میں سے ہر نیک و بد کے پیچھے نماز جائز ہے (ملا علی قاری شرح الفقہ الکبری ص: 91) عقیدہ طحاویہ میں امام طحاوی لکھتے ہیں کہ حج و جہاد مسلمانوں کے حکمران

کے ماتحت قیامت تک جاری رہیں گے خواہ نیک ہوں یا بدان کاموں کو کوئی چیز باطل نہیں کرتی اور نہ ان کا سلسلہ منقطع کر سکتی ہے۔

(ابن ابی العز الحنفی، شرح الطحاویہ ص: 322)

نماز قاسق اماموں کے پیچھے بھی ان کے فسق کے باوجود جائز ہوگی۔

(احکام القرآن امام ابو بکر جصاص حنفی ج: 1، ص: 80-81، المبسوط امام

سر حسی بیہ ج: 10، ص: 130)

ظالم حاکم سے وظیفہ لیا جاسکتا ہے۔ امام حسن بصری بیہ اور سعید بن

حبیر بیہ ظالم حاکموں سے وظیفہ لیتے تھے۔ لیکن ان کو جائز حاکم تسلیم نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو فاجر کہتے تھے۔

(احکام القرآن ابو بکر جصاص ج: 1، ص: 71)

یہی معاملہ اس سے پہلے لوگ معاویہ کے ساتھ کرتے تھے کہ نہ اس سے محبت کرتے، بلکہ اس سے براءت کرتے مگر وظیفہ لیتے تھے۔

(2) حج میں تبدیلی

حضرت سعید بن جبیر بیہ سے روایت ہے کہ میں عرفات میں عبداللہ بن عباس بیہ کے ساتھ تھا۔ انہوں نے کہا کیا وجہ ہے حج میں لبیک کی آواز نہیں آتی۔ میں نے کہا لوگ معاویہ سے ڈرتے ہیں۔ (انہوں نے لبیک کہنے سے منع کیا ہے) یہ سن کر ابن عباس بیہ اپنے خیمے سے نکلے اور لبیک اللہم لبیک کہا۔ اور کہا کہ لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کی دشمنی میں سنت نبوی کو چھوڑ دیا۔

(نسائی کتاب الحج باب التلبیہ بعرفہ)

امام کعبہ محبت الدین طبری نے اپنی کتاب ”القری لقاصد ام القری ص: 365 پر لکھا ہے:

”ابن عباس بیہ نے کہا اللہ بنی فلاں پر لعنت کرے (یعنی بنی امیہ پر)

انہوں نے حج کے دن کی زینت مٹادی۔ حج کے دن کی زینت لبیک

پکارتا ہے۔“

مولانا شبیر احمد عثمانی بیہ دیوبندی صحیح مسلم کی شرح فتح الملہم ج: 3، ص: 300-301

پر حضرت عمران بن حصین بیہ کی روایت کی شرح میں لکھتے ہیں:

”وہ 52ھ میں فوت ہوئے یہ امیر معاویہ کا دور تھا۔ یہ زیاد کی طرف سے قاضی بھی رہے اور بعد میں مستعفی ہو گئے۔ جب عمران بن حصین بیہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے مطرف بیہ کو بلایا اور فرمایا میں تجھے چند حدیثیں سنانے لگا ہوں جن سے تم، اگر زندہ رہے اور بعد والے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر میں مرض سے بچ گیا تو یہ حدیث کسی کو نہ بتانا (دور معاویہ کا جبر ملاحظہ ہو) اگر میں مر گیا تو بے شک بیان کر دینا۔ وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج تمتع کی آیت اتری۔ ہم نے ان کے ساتھ حج تمتع کیا۔ یاد رکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ پھر کتاب اللہ میں کوئی آیت اس کو منسوخ کرنے والی نہیں اتری اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ فرمایا۔ اب لوگوں نے اپنی مرضی سے اس کو منع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک اس سے نہ روکا۔ روایت مسلم کتاب الحج باب جواز التمتع میں ہے۔

”سعد بن ابی وقاص بیہ سے حج تمتع کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج تمتع کیا تھا، اس وقت معاویہ کے مکانات میں کافر تھا۔“ (فتح البانی شرح مسند احمد، ج: 11، ص: 159)

حج کیلئے حضرت عثمان بیہ جب مکہ آئے تو انہوں نے پوری نماز پڑھی۔ جب مکہ آئے تو قصر پڑھی۔ جب حج سے واپس آ کر منیٰ میں ٹھہرے تو پوری پڑھنا شروع کر دی۔ امیر معاویہ حج کیلئے مکہ آئے تو قصر نماز یعنی دو رکعت ظہر پڑھائی پھر دارلندوہ چلے گئے تو مروان اور عثمان بیہ کا بیٹا عمرو بن عثمان اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا معاویہ! تو نے اپنے چچا کے بیٹے عثمان پر وہ داغ لگایا ہے جو کوئی نہیں لگا سکا۔ معاویہ نے کہا میں نے ایسا کیا کیا؟ کہنے لگے

مجھے معلوم نہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کبھی پوری نماز پڑھتے تھے۔ معاویہ نے کہا تمہارا بیڑہ غرق ہو، جو میں نے کیا دین تو یہی تھا۔ میں حضور ﷺ ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہاں قصر نماز پڑھتا رہا ہوں۔ وہ دونوں کہنے لگے تیرے چچا زاد بھائی نے پوری پڑھی اور تیرا ان کے طریقہ کے خلاف کام کرنا لوگوں کیلئے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف سند بن گیا ہے۔ پھر معاویہ نے اگلی نماز یعنی عصر کی نماز پڑھائی تو پوری پڑھائی۔ اس طرح سیاست کی دہلیز پر دین کو قربان کر دیا۔ (الفتح الربانی شرح مسند احمد ج: 5، ص: 106، امام عبد الرحمن البنا رحمہ اللہ)

امام ابن حزم لکھتے ہیں:

”معاویہ نے حج میں سنت کو نظر انداز کیا۔“ (المکمل ج: 5، ص: 86)

ترمذی کی شرح تھمة الاحوذی ج: 2، ص: 82 پر مولانا عبد الرحمن مبارکپوری اہل حدیث عالم لکھتے ہیں کہ معاویہ نے حج تمتع کی ممانعت کر دی تھی۔ سب سے پہلے جس نے حج تمتع سے منع کیا وہ معاویہ ہیں۔

یہی بات الفتح الربانی ج: 11، ص: 158، ترمذی کتاب الحج باب ماجاء فی التمتع، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ میں ہے۔

حالانکہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ 2/196 میں حج تمتع کی اجازت دی گئی اور احادیث میں بھی اس کی اجازت دی گئی اور منع نہ فرمایا گیا۔

(3) کفار کو عہدے دینا

امیر معاویہ کے عیسائی وزیر و درباری

(1) یوحنا۔ وزیر تعلیم

(2) ابن اثال۔ شاہی طبیب

(3) سرجون بن منصور رمی عیسائی، مشیر اعلیٰ۔ اسی کے کہنے پر ابن زیاد کو یزید نے گورنر بنایا تھا۔

(4) ابن اخطل۔ درباری شاعر (الہدایہ والتہایہ ج: 8، ص: 158) سرجون کو بعد میں یزید نے

پرنسپل سیکرٹری بنالیا اور وصیت معاویہ کے مطابق، بڑے سرجون کا پاپ کی طرح ادب کرتا تھا۔ (5) زکوٰۃ کے محکمہ کے افسر عیسائی مقرر کئے گئے۔ امام ابو عبیدہ کتاب الاموال ص: 569 روایت نمبر 1792 کے تحت لکھتے ہیں۔ کہ امیر معاویہ نے کافروں کو سرکاری ملازم رکھا جو کہ اسلام میں منع ہے۔ جب عیسائی زکوٰۃ کے محکمہ کے افسر بنا دیئے گئے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اب حکومت کو زکوٰۃ نہ دو۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حساب کتاب کے ماہر ایک عیسائی منشی کو ملازم رکھنے کی اجازت چاہی تو انہوں نے منع کر دیا اور قرآن کا حوالہ دے کر کہا اللہ نے مسلمانوں کو اس سے بے نیاز کر دیا ہے۔ کہ وہ غیر مسلموں سے مدد کے طالب ہوں۔ (تفسیر قرطبی ج: 4، ص: 179)

سورہ آل عمران 3/118 میں خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ مومن کو کسی غیر مسلم کو اپنا راز دار نہ بنانا مگر معاویہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو چھوڑ کر عیسائی اپنی حکومت کے وزیر اور مشیر مقرر کئے۔

(4) زکوٰۃ کی بربادی

امیر معاویہ کے دور میں زکوٰۃ بھی بربادی سے نہ بچ سکی اور اس کے معاملات میں بھی بے اعتدالیاں شروع ہو گئیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سلطان کیا کر رہا ہے کیا اس کو زکوٰۃ دیں؟ وہ اپنی خوشبوؤں اور کپڑوں پر زکوٰۃ خرچ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا حضور ﷺ کا فرمان ہے: ”ظالم حاکموں کو زکوٰۃ دے دو۔ چاہے وہ اس سے شراب پیئے تم بری ہو جاؤ گے، گناہ ان کو ہو گا۔“ (سنن کبریٰ ج: 4، ص: 115، بیہقی، مسند احمد)

امام شوکانی رحمہ اللہ نیل اوطار ج: 4، ص: 165 اور امام ابو عبیدہ رحمہ اللہ التوتنی 224 ھ اپنی کتاب الاموال (Law of Taxation) ص: 568، روایت نمبر 1789، کے تحت زکوٰۃ کے ابواب میں لکھتے ہیں کہ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے سعد بن ابی وقاص، ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا (یاد رہے سعد بن ابی وقاص اور ابو

نمبر 568-570-1811-1798-789 پر لکھا ہے۔

امیر معاویہ نے سرکاری عطیات سالانہ و ماہانہ پر پیشگی زکوٰۃ لینا شروع کر دی

جو کہ بدعت ہے اور یہ سب سے پہلے امیر معاویہ نے شروع کی

(موطا امام مالک کتاب الزکاة باب الزکاة فی العین من الذهب والورق، شاہ

ولی اللہ، المصنفی شرح موطا ص: 207)

(5) جمعہ وعیدین میں تبدیلی

امام ابن حزم رحمہ اللہ اٹھلی ج: 5، ص: 85 پر لکھتے ہیں:

”بنو امیہ نے یہ بدعات شروع کیں، نمازیٹ کر کے پڑھنا، عید کی اذان و

اقامت، عید کا خطبہ نماز سے پہلے شروع کیا۔ امام ص: 86 پر بنو امیہ کا یہ

بہانہ لکھتے ہیں کہ لوگ عید کی نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں اور ہمارا خطبہ نہیں

سننے۔ ابن حزم فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ حضرت علی علیہ السلام پر لعنت کرتے اس

لئے مسلمان چلے جاتے تھے اور یہی مسلمانوں کیلئے درست تھا اگرچہ عید کے

خطبہ کیلئے بیٹھنا لازم بھی نہیں تھا۔“

ابن حزم کے استاد امام ابن عبدالبر اپنی کتاب ”التمہید“ ج: 10، ص: 246 پر لکھتے ہیں:

”صحیح قول یہ ہے کہ عید کیلئے سب سے پہلے جس نے اذان شروع کی وہ

معاویہ ہے اور اسی نے عید کا خطبہ عید کی نماز سے پہلے شروع کیا۔“

مسلم شریف کتاب صلوٰۃ العیدین میں حدیث نمبر 9 میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ

بیان کرتے ہیں:

”میں مروان بن حکم گورنر مدینہ کو عید کی نماز کی طرف کھینچتا تھا اور مجھ سے

ہاتھ چھڑا کر منبر کی طرف خطبہ دینے کیلئے جارہا تھا۔ میں نے پوچھا نماز عید کا

پہلے پڑھنا کہاں گیا؟ اس نے کہا اے ابوسعید رضی اللہ عنہ! ترک کر دی گئی وہ سنت

جو تم جانتے ہو۔ میں نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا، قسم ہے اس کی جس کے قبضہ

ہریرہ، دونوں معاویہ کے عہد میں فوت ہوئے) کہ بادشاہ جو کچھ زکوٰۃ کے ساتھ کر رہا ہے، وہ

آپ کے سامنے ہے، کیا میں اس کو زکوٰۃ دوں؟ چاروں نے فتویٰ دیا کہ اس کو زکوٰۃ دو۔

روایت نمبر 1797 کے تحت کتاب الاموال میں لکھا ہے:

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ (ان حالات میں) زکوٰۃ کن کو دی جائے، انہوں نے

کہا حاکموں کو دو چاہے وہ اپنے دسترخوان پر کتوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں۔ روایت

نمبر 1811 کے تحت لکھتے ہیں:

”راوی نے سعید بن جبیر سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں پوچھا،

انہوں نے کہا ان حاکموں کو دے دو۔ جب حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ محفل

سے اٹھ کر گئے تو پوچھنے والا بھی ان کے پیچھے پیچھے گیا اور کہا آپ نے مجھے

فتویٰ دیا کہ ان حاکموں کو زکوٰۃ دے دو جبکہ وہ زکوٰۃ سے یہ کرتے ہیں۔

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا جن کے بارے میں اللہ کا حکم ہے، ان مصروفوں پر

خرچ کر۔ تم نے مجھ سے بھرے مجمع میں پوچھا تھا جہاں بنو امیہ کے جاسوس

بھی ہوتے ہیں، تو میں نے وہ فتویٰ دیا تھا۔“

امام ابوعبید ص: 569 پر الاموال میں لکھتے ہیں:

”راوی نے کہا میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ زکوٰۃ ان حاکموں کو دیں؟

کہنے لگے ہاں! میں نے کہا اب تو عیسائی زکوٰۃ کے محکمہ میں حاکم مقرر

کر دیئے گئے ہیں۔ (راوی کہتا ہے کہ زیاد کے دور میں کفار کو عہدے دیئے

گئے)۔ پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اب زکوٰۃ ان حاکموں کو نہ دو۔“

روایت نمبر 1792 کے تحت کتاب الاموال میں لکھا ہے کہ امیر معاویہ نے

کافروں کو حکومت کا ملازم رکھا جو کہ اسلام میں منع ہے۔

ابی عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب الاموال میں ظالم حاکم کو زکوٰۃ دینے کی مثال

کے طور پر امیر معاویہ کی حکومت کو زکوٰۃ دینے کا ذکر کیا ہے جو کہ روایت

میں میری جان ہے تم اس سے بہتر کام نہیں کر سکتے جو میرے علم میں ہے یعنی سنت۔ غرض میں نے تین باریہ بات کہی تب مڑا۔ یہ روایت مسلم کتاب الایمان باب کون النہی عن المنکر من الایمان وان الایمان یزید و ینقص میں بھی ہے۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مروان نے عید گاہ میں خلاف سنت، منبر کا بھی اہتمام کیا تھا۔ اہل حدیث عالم مولانا عبدالرحمن مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی ج: 1، ص: 375 پر مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ عید کی اذان معاویہ نے شروع کی۔ حالانکہ حدیث کی کتابیں اور امت کا عمل اس پر گواہ ہے کہ عیدین کی نماز اذان و اقامت کے بغیر ہے۔ نمونہ کے طور پر ابوداؤد باب نمبر 401، ترک الاذان فی العید ملاحظہ ہو۔

(6) برائی کا حکم دینا

صحیح مسلم کتاب الامارۃ باب وجوب الوفاء بالبیعة الخلیفۃ الاول فلاؤل میں عبدالرحمن بن عبد رب الکعبہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں:

”وہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے اور انہوں نے ایک لمبی روایت بیان کی جس میں راوی ابن عبد رب الکعبہ نے ان سے کہا تمہارے چچا کے بیٹے معاویہ ہم کو حکم کرتے ہیں ایک دوسرے کا مال ناحق کھانے کا اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کا جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو! امت کھاؤ اپنے مال ناحق مگر رضامندی سے تجارت کے ذریعہ اور مت قتل کرو اپنی جانوں کو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمرو بن عاص تھوڑی دیر تک چپ رہے پھر کہا معاویہ کی اطاعت کرو اس کام میں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور جب وہ خدا کی پافرمائی کا حکم دے تو نہ مانو۔“

(7) سودی سودا کرنا

امیر معاویہ نے سودی سودا کیا یعنی چاندی کے بدلے زیادہ چاندی لینے کا تو حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ بن صامت نے منع کیا۔ یہ سن کر لوگوں نے اپنے روپے واپس لے لے کر جب معاویہ کو خبر ملی تو تقریر کی کہ لوگ وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں جن کو ہم نے نہیں سنا حالانکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہے اور پاس حاضر رہے۔ پھر عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم تو سنی ہوئی حدیث ضروری بیان کریں گے اگرچہ معاویہ کو برا معلوم ہو۔ یہ حدیث صحیح مسلم کتاب المساقات والمزارعت میں ابو قلابہ سے آئی ہے اور باب الرباء میں بھی درج ہے۔

یہی روایت نسائی کتاب البیوع باب بیع الشعیر بالشعیر میں بھی آئی ہے جو حضرت عبادہ بن صامت سے ہے اور اسی کتاب کے باب بیع الذهب بالذهب میں عطاء رضی اللہ عنہ بن یسار سے آئی ہے۔

موطا امام مالک کتاب البیوع باب بیع الذهب بالورق عینا وتبرا میں عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”معاویہ بن ابی سفیان نے ایک برتن پانی پینے کا سونے یا چاندی کا اس کے وزن سے زیادہ سونے یا چاندی کے بدلے بیچا تو ابودرداء رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتے تھے مگر برابر بیچنا درست رکھتے تھے۔ معاویہ نے کہا میرے نزدیک کوئی قباحت نہیں ہے۔ ابودرداء رضی اللہ عنہ نے کہا بھلا کون میرا عذر قبول کرے گا اگر میں معاویہ کو اس کا بدلہ دوں کہ میں تو اس سے حدیث نبوی بیان کرتا ہوں اور وہ مجھ سے اپنی رائے بیان کرتا ہے۔ میں اب تمہارے ملک میں نہ رہوں گا۔ پھر وہ مدینہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے اور ان سے یہ قصہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاویہ کو لکھا پھر ایسی خرید و فروخت نہ کریں مگر برابر تول کر۔“

(8) صدقہ فطر میں تبدیلی

صحیح مسلم کتاب الزکاة باب زکاة الفطر میں دو روایات ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا جب معاویہ نے نصف صاع گندم کا مقرر کیا ایک صاع کھجور کے برابر تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے انکار کیا اور کہا میں تو وہی دوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتا تھا، ایک صاع کھجور یا انگور یا پیڑ۔ یہی روایت ابوداؤد کتاب الزکاة باب نمبر 542 کم یوڈی فی صدقہ الفطر میں بھی آئی ہے۔

(9) حدیث کا مذاق اڑانا

مسند احمد کی روایت نمبر 11864 میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

”ایک مرتبہ میں نے معاویہ سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انصار رضی اللہ عنہم کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ معاویہ نے پوچھا پھر تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر کا حکم دیا تھا، معاویہ نے کہا پھر صبر کرو۔“

بالکل یہی واقعہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء ذکر معاویہ میں لکھا ہے: وہ مزید لکھتے ہیں کہ جب اس بات کی خبر عبدالرحمن بن حسان رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے شعر کہے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ

”خبردار! معاویہ بن حرب کو ہمارا کلام پہنچا دو۔ ہم صبر کرتے ہیں اور تم کو مہلت دیتے ہیں یوم قیامت اور انصاف کے دن تک کی۔“

(10) مال غنیمت کی تقسیم میں تبدیلی

مال غنیمت کی تقسیم کے معاملہ میں بھی معاویہ نے کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح احکام کی خلاف ورزی کی۔ کتاب و سنت کی رو سے پورے مال غنیمت کا پانچواں حصہ بیت المال میں داخل ہونا چاہیے اور باقی

چار حصے اس فوج میں تقسیم کئے جانے چاہئیں جو لڑائی میں شریک ہوئی ہو۔ لیکن امیر معاویہ نے حکم دیا کہ مال غنیمت میں سے سونا چاندی ان کیلئے الگ نکال لیا جائے، پھر باقی مال شرعی قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے (طبقات ابن سعد ج: 7، ص: 28-29، طبری ج: 4، ص: 187، الاستیعاب امام ابن عبد البر ج: 1، ص: 118، الکامل ابن الیر ج: 3، ص: 233، البدایہ والنہایہ، امام ابن کثیر ج: 8، ص: 29)

ایک صحابی حضرت حکم بن عمرو غفاری رضی اللہ عنہ کو ایک جہاد میں بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ زیاد نے ان کو معاویہ کا یہ حکم لکھ کر بھیجا کہ سونا چاندی مجھے بھجوادار باقی مال غنیمت لشکر میں تقسیم کرد۔ اس صحابی نے زیاد کو لکھا کہ اللہ کی کتاب معاویہ کے حکم سے مقدم ہے جس کے مطابق 1/5 حصہ بیت المال اور باقی 4/5 حصہ لشکر میں تقسیم ہوگا۔ اور ساتھ ہی لکھا کیا معاویہ نے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا کہ لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق (مخلوق کا وہ حکم نہیں ماننا جس میں رب کی نافرمانی ہو)۔ اس کے بعد اس صحابی نے لشکر میں مال غنیمت قرآن کے مطابق تقسیم کر دیا۔ اس پر معاویہ نے آدمی بھیج کر اس صحابی کو گرفتار کر لیا اور وہ جیل میں ہی فوت ہو گئے۔ قرآن پر عمل کا یہ پھل ان کو معاویہ کی طرف سے ملا ہے۔

(البدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 67-73-176)

یہ واقعہ مستدرک حاکم ج: 3، ص: 442-443 پر لکھا ہوا ہے اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص مستدرک میں بھی اس کو لکھا ہے۔

(11) چوری کے مال کے بارے میں حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بوجھ کر خلاف ورزی کرنا

نسائی کتاب البیوع باب ایک شخص مال بیچے پھر اس کا مالک کوئی اور نکلے اور

سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ج: 2، حدیث نمبر 609، ص: 164 تا 167 پر علامہ

البانی ایک حدیث مع تبصرہ لائے ہیں جس میں لکھتے ہیں:

”یمامہ کے علاقہ کے گورنر حضرت اسید بن ظہیر کو مروان نے لکھا کہ معاویہ کا حکم آیا ہے کہ اگر کسی سے چوری کا مال خریدا ہوا ملے تو اس سے مال واپس لے لو اور اسے معاوضہ بھی نہ دو۔ حالانکہ حضور ﷺ کا حکم ہے اگر وہ شخص چوروں کا مال خریدنے میں بدنام نہیں ہے تو پھر اس کو معاوضہ دے کر اس سے چوری کا مال واپس لے لو ورنہ اپنا چور تلاش کرو۔ لیکن معاویہ نے اس کے خلاف حکم دیا کہ ایسے شخص سے مال چھین لو اور معاوضہ بھی نہ دو۔“

یمامہ کے صحابی گورنر نے یہ خط ملنے کے بعد مروان کو لکھا:

”یہ حکم خلاف شرع ہے اور حکم نبوی لکھ کر کہا کہ خلفائے راشدین اسی کے مطابق فیصلے کرتے رہے۔ تو مروان نے یہ بات لکھ کر معاویہ کو بھیج دی۔ پھر معاویہ نے جواب میں لکھا کہ اے مروان تو اور یمامہ کا گورنر مجھ پر حاکم نہیں ہو بلکہ میں حاکم ہوں۔ میں نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔ مروان نے معاویہ کا جواب یمامہ کے گورنر کو بھیجوا دیا۔ اس گورنر نے جواب دیا میں جب تک اس عہدہ پر ہوں۔ معاویہ کا یہ حکم نہیں مانوں گا۔“

اس پر علامہ البانی رحمہ اللہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا اگر حاکم

وقت غلط حکم دے تو افسرانکار کر دیں۔

(12) معاویہ کا کعبہ کے چاروں کونوں کو چومنا

صحیح بخاری کتاب النساک باب دونوں یمانی رکنوں کے سوا کونوں کو نہ چومنا میں ابو

الشعراء سے روایت ہے:

”معاویہ کعبہ کے چاروں کونوں کو چومتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے شامی اور

عراقی کونوں کو چومنے سے منع کیا تو معاویہ نے کہا کعبہ کی کوئی چیز نہیں چھوڑی

جاسکتی۔ یہی روایت ترمذی ابو اب الحج باب ماجاء فی استلام

الحجر والركن الیمانی دون ماسوا ہما میں بھی آئی ہے۔“

(13) اہل روم سے صلح کی مدت ختم ہونے سے پہلے حملہ کی تیاری کرنا

ترمذی ابواب الجہاد باب ما جاء فی الغدر میں سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ معاویہ اور اہل روم کے درمیان صلح تھی۔ معاویہ نے اس ارادہ سے لشکر کو کوچ کا حکم دیا کہ جب صلح کی مدت ختم ہو تو اچانک رومیوں پر حملہ کر دیں۔ پھر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما نے معاویہ سے یہ بات پر سوار آئے اور کہا اللہ اکبر، تم پر عہد کی پابندی لازم ہے نہ کہ وعدہ خلافی۔ معاویہ نے یہ بات کہنے کا سبب پوچھا تو کہا کہ میں نے رسول ﷺ سے سنا کہ فرماتے تھے جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو نہ معاہدہ توڑے اور نہ اس میں تبدیلی کرے یہاں تک کہ مدت معاہدہ گزر جائے یا وقت سے پہلے اس معاہدہ کو دوسرے فرقے کو باقاعدہ اطلاع دے کر علانیہ ختم کر دے کہ دونوں برابر کی پوزیشن پر ہو جائیں یہ سن کر معاویہ لشکر کو واپس لے کر لوٹے۔

دین میں تبدیلی کی رفتار بعد میں اور تیز ہو گئی اور عبدالملک بن مروان نے ابن زبیرؓ کے مکہ پر قبضہ کے بعد لوگوں کو کعبہ جانے سے روک دیا اور بیت المقدس میں مقام صخرہ کو قبلہ بنادیا اور لوگوں کو کعبہ کے حج اور قربانی سے منع کر دیا اور کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ (الہدایہ والنہایہ، امام ابن کثیر رحمہ اللہ، ج: 8، ص: 301-302)

امیر معاویہ کو بددعائے نبوی

صحیح مسلم کتاب التبر الصلہ والا د ب باب من لعنہ النبی و لیس

ہوا ہلا لہا میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دو دفعہ روایت ہے:

”میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اتنے میں رسول اللہ ﷺ تشریف

لائے۔ میں ایک دروازہ کے پیچھے چھپ گیا۔ آپؐ نے ہاتھ سے مجھے تھپکا

اور فرمایا معاویہ کو بلا کے لا، میں گیا پھر لوٹ کر آیا اور میں نے کہا وہ کھانا کھاتے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا جا اور معاویہ کو بلا لا، میں پھر لوٹ آیا اور کہا وہ کھانا کھاتے ہیں، آپ نے فرمایا: ”خدا اس کا پیٹ نہ بھرے۔“

کاتب وحی ہونا

صحیح مسلم کتاب الفضائل باب من فضائل ابی سفیان صخر ابن حرب میں عبد اللہ بن عباس سے روایت میں یہ بھی بیان ہے کہ ابوسفیان نے خود حضور سے درخواست کی تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب رکھ لیجئے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں:

”معاویہ کے کاتب وحی ہونے میں محدثین کا اختلاف ہے، بعض کا کہنا ہے کہ وہ صرف خطوط لکھا کرتے تھے، وحی نہ لکھتے تھے جیسا کہ جامع الاصول

اور موبہ الدنیہ میں لکھا ہے۔“ (ارج المطالب ص: 582)

کاتب وحی ہونا کیونکہ کوئی خاص فضیلت نہیں بلکہ بعض کاتب وحی تو مرتد تک ہو چکے مثلاً عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح، جس کے بارے میں فتح مکہ کے دن اعلان تھا کہ کعبہ کے پردوں سے بھی چمٹا ہوا ہو تو قتل کر دیا جائے، (نسائی کتاب المحاربة باب الحكم فی المرتد، روایت نمبر 4073 اور 4075) اور صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین و احکامہم میں انس بن مالک سے ایک مرتد کاتب وحی کے برے انجام کے بارے میں روایت ہے کہ جو قوم بنی نجار میں سے تھے۔

شراب پینا

مسند احمد میں مسند الانصار روایت نمبر 23329 پر مجمع الزوائد از امام بیہقی

ج: 5، ص: 45 اور الفتح الربانی شرح و تبویب مسند احمد از امام عبد الرحمن

البناء، ج: 17، ص: 115 باب ما جاء فی برکة اللبن و شربه و حله میں یہ روایت

آئی ہے کہ عبد اللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اور میرے والد معاویہ کے پاس

گئے۔ انہوں نے ہمیں دسترخوان پر بٹھایا، پھر کھانا پیش کیا جو ہم نے کھایا پھر پینے کیلئے لائی گئی جو معاویہ نے پی پھر میرے والد کو برتن پکڑا دیا تو وہ کہنے لگے جب سے رسول اللہ ﷺ نے اس کو حرام قرار دے دیا تب سے میں نے کبھی نہیں پی۔ پھر معاویہ نے کہا میں قریش کا خوبصورت ترین نوجوان تھا۔ اور سب سے عمدہ دانتوں والا تھا، مجھے دودھ یا اچھی باتیں کرنے والے انسانوں کے علاوہ ”اس“ سے بڑھ کر کسی چیز لذت محسوس نہیں ہوتی تھی۔

امام بیہقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”معاویہ کے کلام میں کوئی شے ایسی تھی جو میں نے چھوڑ دی۔“

(ج: 5، ص: 48 مجمع الزوائد)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی معاویہ کے بارے میں رائے

آپ نے اہل شوریٰ سے فرمایا میرے بعد اے لوگو! پس میں گروہ بندی سے بچو اور اگر تم نے ایسا کیا تو سمجھ رکھو معاویہ شام میں موجود ہے۔

(ابن حجر الاصابہ ج: 3، ص: 414، ج: 4، ص: 65)

جبکہ ناصبی محمود احمد عباسی لکھتا ہے کہ معاویہ سرداری کی صفت میں چاروں خلفاء راشدین سے بڑھ کر تھے۔ (نفحات، عباسی ج: 2، ص: 23-24)

لوگوں کو ساتھی بنانے کے لئے رشوت دینا

عقیل بن ابی طالب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مال مانگا تو انہوں نے بیت المال سے ناحق دینے سے انکار کیا۔ وہ ناراض ہو کر معاویہ سے مل گئے تو معاویہ نے ایک لاکھ درہم دے کر کہا برسر منبر یہ اعلان کر دو کہ علی رضی اللہ عنہ نے تم کو کیا دیا اور میں نے کیا دیا، عقیل نے منبر پر چڑھ کر کہا میں نے علی رضی اللہ عنہ سے وہ چیز مانگی جو ان کے دین کو نقصان پہنچاتی تھی انہوں نے دین کو عزیز رکھا جبکہ معاویہ نے وہی چیز دین کو پس پشت ڈال کر مجھے دے دی۔

(تاریخ الخلفاء امام سیوطی اردو ص: 252-253 باب معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان)

آپ یزید کی ولی عہدی کے باب میں بھی پڑھیں گے کہ امیر معاویہ نے

لوگوں کو رام کرنے کے لئے لاکھوں روپے فی کس پیش کئے اور بطور گورنر حضرت علی علیہ السلام سے جنگوں میں کتنا خرچ کیا۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بطور گورنر ان کی تنخواہ 80 دینار ماہانہ مقرر کی تھی۔ پھر یہ لاکھوں کہاں سے آگئے؟ (البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر ج: 7 ص: 124)

حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو ایک لاکھ درہم بھیجے تو انہوں نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ کیا میں اپنے دین کو دنیا کے عوض بیچ دوں؟

(ابن کثیر البدایہ والنہایہ ج: 8 ص: 88-89)

سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ کو معاویہ کی شکایت پر مدینہ بلایا گیا

زید بن وہب کہتے ہیں کہ میں ربذہ میں سے گزرا وہاں مجھ کو ابوذر رضی اللہ عنہ ملے۔ میں نے پوچھا آپ اس جگہ کیوں رہنے لگے۔ انہوں نے کہا میں شام گیا تھا اور میرا معاویہ سے اس آیت کے بارے میں اختلاف ہو گیا الذین یکنزون الذهب والفضہ ولا یفقرونها فی سبیل اللہ (جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو اس دن کے دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ (سورہ توبہ: 34/9)

معاویہ کہنے لگے یہ آیت اہل کتاب کے حق میں اتاری ہے میں نے کہا نہیں ہم مسلمانوں کے بارے میں بھی ہے اور اہل کتاب کے حق میں بھی ہے۔ مجھ میں اور ان میں ہوا جو ہوا۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو میری شکایت لکھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھے لکھا تم مدینے چلے آؤ۔ میں مدینہ آیا تو لوگ میرے پاس جمع ہونے لگے جیسے انہوں نے مجھ کو اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا اگر چاہو تو مدینہ سے باہر کہیں قریب چلے جاؤ۔ میں اس وجہ سے یہاں (جنگل) میں پڑا ہوا ہوں۔ اگر مجھ پر ایک حبشی تو میں بات سنوں گا اور اس کا کہا مانوں گا۔

(بخاری کتاب الزکاة باب ما ایدی زکاتہ فلینس بکنز، سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ)

سے دوسری روایت احنف بن قیس اس باب میں بیان کرتے ہیں اور یہ روایت بخاری کتاب التفسیر، سورہ براءۃ (توبہ) زیر آیت مندرجہ بالا زید بن وہب سے مروی ہے۔

معاویہ۔ خال المؤمنین

امیر معاویہ کو رسول کریم ﷺ کا برادر نسبتی ہونے کی وجہ سے خال المؤمنین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے جو ام المؤمنین تھیں لہذا معاویہ مؤمنین کے ماموں ہوئے۔ ناہمی اس پہلو کو بہت اجاگر کرتے ہیں مگر جو اور خال المؤمنین تھے ان سے ناہمی دشمنی رکھتے ہیں یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ جو حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے۔

معاویہ فقیہہ کے معنی

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت معاویہ کے کسی مسئلہ اجتہادیہ کی تصدیق نہیں فرمائی کہ ان کا اجتہاد معتبر و مفتی بہ ہو سکے اور جس نے معاویہ کو مجتہد کہا تو اس نے بھی درست کہا اس واسطے کہ حضرت معاویہ نے اخیر عمر میں احادیث کثیرہ دیگر صحابہ کبار سے سنیں اور اس وجہ سے بعض مسائل فقہ میں دخل دیتے تھے اور یہی مراد ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس قول سے کہ ائمہ فقیہہ (وہ فقیہہ ہیں) فتاویٰ عزیزی مترجم ص: 218)

اس کے بعد ذرا آگے شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس وقت آپ کا (معاویہ کا) اجتہاد اس درجہ کا نہ تھا کہ آپ اہل حل و عقد میں شمار ہو سکتے اور علاوہ اس کے خلافت علی علیہ السلام کرم اللہ وجہہ کی تحقیق کے نزدیک نص سے ثابت ہے۔

شاہ صاحب کے قول کا مدعا یہ ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کی خلافت نص سے ثابت ہے تو اس خلافت سے انحراف و بغاوت کو اجتہاد کس طرح کہا جاسکتا ہے؟

معاویہ حلیم تھے

امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے علی ابن المدائنی بحوالہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ لکھا کہ علی علیہ السلام میں کوئی عیب نہ تھا اور معاویہ میں کوئی خوبی نہ تھی۔ قاضی شریک رحمہ اللہ متوفی 177ھ مہدی باللہ کے زمانہ میں بغداد کے قاضی تھے۔ ان سے کسی نے کہا کہ معاویہ بہت حلیم تھے۔ قاضی شریک نے کہا جو شخص حق سے نادان بن جائے اور علی علیہ السلام سے جنگ کرے وہ حلیم نہیں ہو سکتا۔

(ارجح المطالب ص: 592، بحوالہ عمرو بن مظفر الوردی فی کتابہ نعمۃ المختصر فی اخبار البشر، البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 141)

ابوسفیان کا کردار

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”ابوسفیان نے اور کچھ دوسرے لوگوں نے چاہا تھا کہ جاہلیت کے طریقے کے مطابق امامت بنو عبد مناف میں ہو مگر علی علیہ السلام، عثمان رضی اللہ عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے علم و تدین کی بنا پر اس خواہش کی حوصلہ افزائی نہ کی۔ (منہاج السنہ ج: 1، ص: 161، ج: 2، ص: 169، ج: 4، ص: 123)

اسی کتاب میں امام لکھتے ہیں کہ ابوسفیان میں جاہلیت عرب کے بقایا موجود تھے جن کی بنا پر وہ اپنے قبیلہ کے سوا دوسرے شخص کا امیر بننا پسند نہیں کرتے تھے۔

(منہاج السنہ ج: 3، ص: 179)

بعد میں آنے والے حکمرانوں کے متعلق نبوی پیش گوئی

حضرت کعب رضی اللہ عنہ بن عجرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے کعب بن عجرہ میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ان حکمرانوں سے جو میرے بعد ہوں گے، جو ان کے دروازے پر گیا اور ان کے جھوٹ کو سچ کہا اور ظلم میں ان کی مدد کی تو وہ میرا نہیں ہے اور میں اس کا نہیں اور وہ میرے

پاس کبھی بھی حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا۔ اور جو ان کے پاس گیا یا نہ گیا مگر ان کے جھوٹ کو سچ نہ کہا اور ظلم میں ان کی مدد نہ کی تو وہ میرا ہے اور میں اس کا جلد ہی وہ میرے پاس حوض پر آئے گا اے کعب رضی اللہ عنہ بن عجرہ نماز و دلیل ہے روزہ ڈھال ہے اور صدقہ بجھاتا ہے گناہوں کو جیسے بجھاتا ہے پانی آگ کو اور اے کعب رضی اللہ عنہ بن عجرہ نہیں بڑھتا ہے گوشت حرام سے مگر آگ اس کے حق میں لائق تر ہے۔

(ترمذی ابواب الصلوٰۃ باب ما ذکر فی فضل الصلوٰۃ) (نسائی کتاب البیعت باب من لم یعن امیراً علی الظلم)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ساٹھ سال بعد حکمرانوں کے جانشین ایسے ہوں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے۔ جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور قرآن کی تلاوت تین طرح کے لوگوں کرتے ہیں، مومن، منافق اور فاجر راوی حدیث بشر کہتے ہیں کہ میں نے ولید بن قیس سے پوچھا کہ یہ تین طرح کے لوگ کیسے ہیں انہوں نے کہا منافق اس کا منکر ہوتا ہے، فاجر اس کے ذریعے کھاتا ہے اور مومن اس پر ایمان رکھتا ہے۔“

(مسند احمد روایت نمبر 11360، مسند ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ)

حسین علیہ السلام نے 20 سال تک فری پینڈ کیوں دیا

سیدنا امام حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام نے بیس سال تک امیر معاویہ کو فری پینڈ اس لیے دیا اور کوئی اقدام نہیں اٹھایا تا کہ قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پر جو پردہ انہوں نے اپنی کاروائیوں پر ڈالا ہو تھا وہ ہٹ جائے اور یہ لوگ سمجھتے تھے یہ بھی صحابی ہے لہذا درست مطالبہ کرتے ہیں، اس کو بنگا ہونے دو۔ وہ ظلم کرے، زکوٰۃ لوٹے، نماز تباہ کرے، حج برباد کرے، پھر امت کو پتہ چلے کہ علی علیہ السلام اور ان کی اولاد تخت کیلئے معاویہ سے نہیں لڑے تھے بلکہ دین کے خلاف

اموی رد عمل سے جنگ لڑتے تھے کیونکہ بنو امیہ اس کام کو برباد کرنا چاہتے تھے جو رسول اللہ ﷺ نے دین کیلئے کیا۔

انداز حکمرانی

ظالم حکمران جبر سے عوام کو چپ کر دیتے ہیں اور بعد میں ان کی خاموشی کو اجتماع سکوتی کا نام دے دیتے ہیں کہ خاموش اکثریت ہمارے ساتھ ہے حالانکہ عوام دل میں ان ظالموں پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں مگر طاقت کے سامنے بے بس ہوتے ہیں۔ ان کی بے بسی کا مذاق اڑاتے ہوئے حکمران کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔

امام ابن عبدالبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کیوں ناکام ہوئے اور امیر معاویہ ان کے مقابلہ میں کیوں کامیاب ہوئے، وجہ بیت المال کے دروازے اپنے ساتھیوں پر کھولنا تھی، یہ حکمران کے پاس عوام کی امانت تھی جسے لٹانا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ علی علیہ السلام کے بھتیجے حسین علیہ السلام کے بہنوئی اور شوہر زینب عبداللہ ابن جعفر طیار رحمہ اللہ کو بھی ایک لاکھ درہم دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور بعد میں یزید نے دولاکھ دینے شروع کر دیئے۔

علامہ رشید رضا مہری رحمہ اللہ صاحب تفسیر العنار اپنی کتاب الخلافۃ والامامۃ العظمیٰ (اردو) ص: 46-47-62 پر لکھتے ہیں:

”امیر معاویہ نے اپنے فاسق بیٹے کیلئے قوت و رشوت سے بیعت لی اور ص: 116 پر لکھتے ہیں کہ معاویہ نے طاقت ور لوگوں پر تغلب کے دروازے کھولے یعنی زبردستی کرنے کی راہ دکھائی۔ وہ ص: 121 پر لکھتے ہیں کہ معاویہ کی ایجاد کی ہوئی دو بدعتوں کے باعث خلافت نے ملوکیت کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ایک یہ کہ عصبیت کو قوت کے تابع کر دیا دوسرے یہ کہ خلافت کو میراث بنا دیا۔ علامہ ص: 49 اور ص: 64 پر لکھتے ہیں کہ استنبول (ترکی) میں ایک جرمن عالم نے شریف مکہ سے کہا تھا کہ ہمارے لیے تو مناسب ہے کہ ہم اپنی عبادت گاہوں میں معاویہ کا سونے کا مجسمہ نصب

کریں اس لیے کہ اگر وہ اقتدار خلافت کو شریعت کے اصل طریقہ سے نہ ہٹائے، جس پر خلفائے راشدین نے عمل کیا تو عرب ہمارے تمام ممالک پر قابض ہو جاتے اور ان کو عربی اسلامی مملکت بنا لیتے۔

مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے الہلال کی ج: 7، ص: 525 پر اوائل عہد اموی کی اسلامی ذہنیت کے نام سے ایک مضمون میں لکھتے ہیں:

”یہ وہ وقت تھا جب خلافت راشدہ کا دور حکومت ختم ہو چکا تھا اور امیر معاویہ رومی دایرانی جاہ و جلال سے تحت خلافت کو روشناس کرا چکے تھے۔“

خود طلسم قیصر و کسری شکست
خود سر تخت ملوکیت نشست
از ملوکیت نگاہ گرد و دگر
عقل و ہوش و رسم و راہ گرد و دگر

جب بسر بصرہ پہنچا اور معاویہ نے بسر کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ ان کے مخالفین کو قتل کرے اور ان کی بیعت کرنے والوں کو زندہ رہنے دے تو بسر نے منبر پر چڑھ کر علی علیہ السلام کا ذکر برے الفاظ میں کیا اور ان کو گالیاں دیں، برا بھلا کہا پھر کہنے لگا لوگو! تمہیں خدا کی قسم کیا میں نے سچ کہا۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تم بہت بڑی ذات کی قسم دلا رہے ہو خدا کی قسم تم نے سچ کہا نہ سچی کا کام کیا۔ بسر نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کو مارنے کا حکم دیا حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ (البلاذری الساب الاشراف ج: 1، ص: 492)

امیر معاویہ نے فوجی کمانڈر بسر بن ابی ارقطاط کو حجاز و یمن کو حضرت علی علیہ السلام کے قبضہ سے نکالنے کے لئے بھیجا تھا اور پھر ہمدان پر قبضہ کرنے کیلئے مامور کیا تھا۔ اس شخص نے یمن میں حضرت علی علیہ السلام کے گورنر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبید اللہ بن عباس کے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کر

قتل کر دیا۔ ان بچوں کی ماں اس صدمے سے دیوانی ہو گئی۔

(الاستیعاب امام ابن عبد البر ج: 1 ص: 65، امام طبری ج: 4 ص: 107، امام ابن اثیر، الکامل ج: 3 ص: 193، امام ابن کثیر ج: 8 ص: 90، امام شوکانی، نیل الاوطار ج: 7 ص: 145)

اس شخص نے جنگ میں پکڑی گئی مسلمان عورتوں کو لوٹ لیا بنالیا۔
(الاستیعاب ج: 1 ص: 65) اور ایسا اسلام میں پہلی بار ہوا۔

امام ابن حجر اس بسر بن ابی ارقطاط کے بارے میں لکھتے ہیں:

”اس نے مکہ، مدینہ اور یمن میں جو کچھ کیا اس کا بیان ممکن نہیں۔“

(تہذیب التہذیب ج: 1 ص: 435-436)

اس بسر نے جب معاویہ کی بیعت کیلئے اصرار کیا تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ معاویہ کی بیعت، بیعت ضلالت ہے۔

(البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر ج: 7 ص: 352)

محدث یحییٰ ابن معین اور محدث دارقطنی فرماتے ہیں:

”بسر بن ابی ارقطاط برا آدمی تھا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں کہ بسر نے نبی علیہ السلام سے کچھ نہیں سنا۔ اس نے یمن میں مسلمان عورتوں کو لوٹ لیا بنالیا جنہیں برسر عام فروخت کر دیا گیا۔“

(تہذیب التہذیب ج: 1 ص: 435)

امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”بسر معاویہ کی طرف سے حجاز و یمن کا گورنر بنا اور برے افعال کا مرتکب ہوا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ الاصابہ میں لکھتے ہیں کہ معاویہ نے بسر کو یمن اور حجاز کی طرف 40 ہھ کے شروع میں بھیجا اور حکم دیا کہ جن لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام کا مطیع دیکھے تو اپنی تاخت و تاراج کرے اور اس نے ایسا ہی کیا۔“
(سیر اعلام النبلاء ج: 3 ص: 274)

امیر معاویہ کے ایک اور فوجی کمانڈر سفیان بن عوف نے جو صحابی بھی تھا،

معاویہ کے حکم پر حضرت علی علیہ السلام کے زیر انتظام علاقوں میں لوٹ مار کی، قتل عام کیا اور مسلمان قیدیوں کو خلاف شرع غلام بنایا۔

(امام ذہبی، سیر اعلام النبلاء ج: 4 ص: 210، تذکرہ القرطبی ص: 125)

معاویہ کے حکم پر عبداللہ بن عمرو بن الحضرمی بصرے میں بغاوت کرانے کے لئے آیا اور بدترین انجام سے دوچار ہوا۔

(ابن حجر، فتح الباری ج: 13 ص: 28)

معاویہ کے دور میں ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی موت پر اسرار حالات میں مکہ کے قریب بخشی پہاڑ میں ہوئی۔ وہ یزید کی ولی عہدی کے مخالف تھے اور جان بچانے کیلئے مدینہ سے مکہ اور پھر دس میل دور بخشی پہاڑ پر چلے گئے تھے۔ ان کی موت پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھنا ہوا گوشت نہ کھانے کی قسم کھائی۔ (شرح نہج البلاغہ از ابن ابی الحدید ج: 6 ص: 33)

بخاری کتاب المناقب، مناقب الانصار باب ایام الجاہلیہ میں قیس

ابن ابی حازم سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”لوگ تب تک ٹھیک رہیں گے جب تک ان کے امام یعنی حاکم ٹھیک رہیں گے۔“

امیر معاویہ کے اسی انداز حکمرانی کے پیش نظر امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کے ایک خط کے جواب میں لکھا تھا کہ خدا کے سامنے پیش کرنے کیلئے میرے پاس تیرے خلاف بغاوت نہ کرنے کا کوئی عذر بھائی نہیں دیتا۔

(امام ابن کثیر رحمہ اللہ، البدایہ والنہایہ ج: 8 ص: 175، سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی رحمہ اللہ ج: 4 ص: 150)

ترمذی ابواب الفتن باب ماجاء فی اهل الشام میں قُرۃ سے روایت ہے:

”فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جب شام کے لوگ بگڑ جائیں تو تم میں خیر

باقی نہیں رہے گی۔ تم میں ایک گروہ مدد کیا گیا (طائفہ منصورہ) ہمیشہ رہے

گا۔ جو ان کی مدد چھوڑ دے گا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری نے کہا علی ابن المدینی محدث رحمہ اللہ نے کہا وہ گروہ اصحاب حدیث ہیں۔“

”امیر معاویہ نے اپنے گورنروں کو قانون سے بالاتر قرار دیا اور ان کی زیادتیوں پر شرعی احکام کے مطابق کارروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا گورنر عبداللہ بن عمرو غیلان بصرے میں منبر پر خطبہ دے رہا تھا کہ ایک شخص نے دوران خطبہ اس کو کنکر مار دیا۔ اس پر عبداللہ نے اس کو گرفتار کرایا اور اس کا ہاتھ کٹوا دیا۔ حالانکہ شرعی قانون کی رو سے یہ ایسا جرم نہ تھا جس پر ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ (گمان غالب ہے کہ گورنر اس وقت حضرت علی علیہ السلام پر لعنت کر رہا ہو گا جب اس کو کنکری ماری گئی) جب معاویہ کے پاس مقدمہ پیش کیا گیا تو اس نے کہا ہاتھ کی دیت تو میں بیت المال سے ادا کر دوں گا مگر میرے گورنروں سے قصاص لینے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔“

(امام ابن اثیر: الکامل ج: 3 ص: 248، امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ ج: 8 ص: 71) امام ابن جریر طبری تاریخ طبری ج: 4 ص: 223

معاویہ نے زیاد کو بھائی بنانے کے بعد بصرے کے ساتھ کوفہ کا بھی گورنر مقرر کیا۔ وہ پہلی مرتبہ خطبہ دینے کیلئے کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑا ہوا تو کچھ لوگوں نے اس پر کنکر پھینکے۔ اس نے مسجد کے دروازے بند کرادیے اور کنکر پھینکنے والے تمام لوگوں کو جنگی تعداد 30 سے 80 تک بیان کی جاتی ہے، گرفتار کر کے اسی وقت ان کے ہاتھ کٹوا دیئے۔

(امام ابن جریر طبری، تاریخ طبری ج: 4 ص: 175، امام ابن اثیر ج: 3 ص: 228)

اس واقعہ کا بھی امیر معاویہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔

ابن خلدون جو بنو امیہ اور ان کے گورنروں کی زیادتیوں کو ہلکا کر کے دکھانے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے بھی اپنی تاریخ ج: 3 ص: 8 پر لکھا ہے:

”زیاد عشاء کی نماز کے کچھ دیر بعد تک لوگوں کو چلنے پھرنے کی مہلت دیتا تھا،

اس کے بعد اس کی پولیس جسے پانی تھی، قتل کر دیتی تھی یعنی سارا سال کرنفو نافذ رہتا تھا۔ پھر لکھتے ہیں کہ زیاد پہلا شخص ہے جس نے تلوار برہنہ کر لی، لوگوں کو محض گمان کی بنا پر پکڑا، مواخذہ کیا اور محض شبہ پر سزا سنیں دیں۔“

امام ذہبی رحمہ اللہ زیاد کے بارے میں لکھتے ہیں:

”وہ ہر شخص کیلئے حجاج سے بھی زیادہ خونخوار تھا جو اس کی خواہش نفس کا مخالف ہوتا۔“

(سیر اعلام النبلاء ج: 3 ص: 326)

امام ابن عبدالبر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”معاویہ نے جب زیاد کو عراق کا گورنر بنایا تو اس نے درشتی اور بد خلقی کا مظاہر کیا۔“

(الاستیعاب ج: 1 ص: 355)

حامیوں سے وقت گزاری کیلئے جھوٹے وعدے کرنا اور مخالفوں کو مختلف حربوں سے الجھائے رکھنا بھی امیر معاویہ کا طریقہ تھا۔ بنو امیہ کے حامی مورخ ابن خلدون لکھتے ہیں:

”پھر امیر معاویہ نے مصر کی جانب کارروائی کا ارادہ کیا کیونکہ مصر کے خراج سے وہ اپنی جنگوں میں مالی امداد کی توقع رکھتے تھے۔ پس امیر معاویہ نے کہا صحیح رائے یہ ہوگی کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حامیوں کو تحریری وعدے دیتے ہیں اور دشمن (علی علیہ السلام) سے کبھی صلح کی بات چیت پر خط و کتابت کریں اور کبھی انہیں ڈرائیں۔ اس کے بعد جنگ کا آغاز کریں۔“

(تاریخ ابن خلدون ج: 2 ص: 181)

یاد رہے کہ یہ ساری منصوبہ بندی معاویہ نے بطور گورنر مرکزی حکومت کے خلاف ناجائز بغاوت کیلئے کی تھی۔

امیر معاویہ کے دور پر سلیمان بن صرد رضی اللہ عنہ صحابی کا جامع تبصرہ

سلیمان بن صرد الخزاز رضی اللہ عنہ صحابی تھے۔ ان کے بارے میں امام ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ وہ جلیل، نبیل، فاضل صحابی تھے۔ انہوں نے معاویہ کی وفات کے بعد

امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا جس میں لکھتے ہیں کہ ”آپ کے مخالف کی کمر خدانی تو زدی اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ وہ ڈکثیر، دین کا مخالف، جس نے امت پر تلوار کے زور پر قبضہ کیا، امت سے سب کچھ چھین کر خود مالک بن گیا، امت کا خزانہ غصب کر لیا، امت خوش نہیں تھی مگر سر پر سوار ہو گیا، امت کے نیک آدمیوں کو قتل کیا، بدترین لوگوں کو ترجیح دی، اللہ کا مال بیت المال اپنے ساتھیوں اور بد معاشوں میں بانٹا، جیسے قوم شہود دنیا سے دفع ہوئی اسی طرح وہ بھی دنیا سے دور ہوا۔“
(امام ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 164)

استحقاق زیاد

دور معاویہ میں امیر معاویہ کی طرف سے شریعت کے جو حکم علانیہ توڑے گئے ان میں سے ایک بڑا واقعہ زیاد بن عبید کو زیاد بن ابی سفیان بنانا ہے۔

(ذہبی، سیر اعلام النبلاء، ج: 4، ص: 265-266)

فرمان رسول ﷺ ہے کہ زنا سے نسب ثابت نہیں ہوتا یعنی بیٹا اس کا جس کے بستر پر پیدا ہوا اور زانی کیلئے پتھر ہیں۔

زیاد پہلے حضرت علی علیہ السلام کا حامی تھا۔ یہ بڑا قابل آدمی تھا۔ معاویہ نے اس کو اپنے ساتھ ملانے کے لئے خلاف شرع اپنا بھائی بنالیا۔ باقاعدہ مجلس ہوئی جس میں ابوسفیان اور زیاد کی ماں سمیہ کے زنا کی گواہیاں لی گئیں حالانکہ ابوسفیان خود بھی کہتے تو نسب ثابت نہ ہوتا۔ وہ بیٹا اپنے باپ عبید غلام کا ہی شمار ہوتا اور اس مجلس سے پہلے وہ اسی کا بیٹا کہلاتا تھا۔

مسلم کتاب الحج باب فضل المدینہ و دعاء النبی ﷺ فیہا بالبرکۃ و بیان تحریمہا و تحریم صیدھا و بیان حدود حر مہا میں ابراہیم تیمی نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ سیدنا علی علیہ السلام نے رسول کریم ﷺ کے فرمان مدینہ کے بارے میں سنائے اور یہ بھی کہا کہ جس نے اپنے باپ کے علاوہ خود کو کسی اور کا بیٹا ٹھہرایا اپنے آقا کے سوا کسی اور کا غلام قرار دیا تو اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور سب لوگوں کی

لعنت ہے اور قیامت کے دن ایسے آدمی سے نہ فرض نہ سنت قبول کئے جائیں گے۔ ایسی ہی روایت ترمذی ابواب الوصایا باب ماجاء لا وصیۃ لوارث میں بھی آئی ہے۔
امام شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”اس دور میں معاویہ کے ڈر سے لوگوں نے زیاد کو ابوسفیان کا بیٹا کہا مگر اب نہ کوئی کہتا ہے نہ کہہ سکتا ہے، اگر کوئی کہے گا تو حرام کرے گا۔“

وہ نیل الاوطار ج: 5، ص: 114 پر لکھتے ہیں:

”جب معاویہ کا زمانہ آیا تو اس بات پر بھری مجلس میں گواہیاں لی گئیں کہ زیاد ابوسفیان کا بیٹا ہے۔ یہ صحیح حدیث کے خلاف کیا جس میں فرمایا گیا کہ بیٹا اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا اور زانی کیلئے پتھر ہیں۔ یہ سب دنیاوی غرض کیلئے کیا گیا۔“

اس کام کی وجہ سے معاویہ کی اتنی بدنامی ہوئی کہ شاعروں نے نظمیں لکھیں جن میں سے یزید بن مفرغ کے دو شعر امام شوکانی رحمہ اللہ نے لکھے ہیں:

ان کا ترجمہ یہ ہے ابوسفیان حرب کے بیٹے معاویہ کو میرا پیغام پہنچا دو، میں یہی شاعر ہوں اگر کوئی یہ گواہی دے کہ تیرا باپ پاک دامن تھا تو تو ناراض ہوتا ہے اور اگر کوئی یہ گواہی دے کہ تیرا باپ زانی تھا تو تو خوش ہوتا ہے۔“

امام شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”اب تمام علماء متفق ہیں کہ کوئی زیاد کو ابوسفیان کا بیٹا نہ کہے۔ اس کو کسی شخص نے جو زیاد بن ابی سفیان کہا تو وہ بنو امیہ کے ڈر سے کہا تھا یعنی تقیہ کیا تھا۔“

امام شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوطار ج: 5، ص: 114 پر ایک روایت کے تحت زیاد کے بارے میں لکھتے ہیں: ”اس روایت میں ذکر ہے کہ زیاد بن ابی سفیان عاتشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتا ہے۔ ایسی روایات جن میں زیاد کی ولدیت ابوسفیان کا ذکر ہے، بنو امیہ کے دور میں روایت ہوئیں اور بعد میں علماء اسے زیاد ابن ابیہ لکھنا شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے

لوگ زیاد بن عبید کہتے تھے۔ معاویہ کے دور میں ایک گروہ کی گواہی پر معاویہ نے اسے اپنا بھائی بنالیا۔ اس کام میں معاویہ نے حدیث صحیح کی مخالفت کی جس میں فرمایا گیا کہ بیٹا اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا اور زانی کیلئے پتھر ہیں۔ یہ دنیوی غرض کیلئے تھا۔“

جب معاویہ نے زیاد کو بھائی بنالیا تو یونس بن عبید ثقفی کھڑے ہوئے اور کہا اے معاویہ! تجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بیٹا اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا اور زانی کیلئے پتھر ہیں۔ تو نے دین الٹ کر رکھ دیا اور سنت رسول ﷺ کی مخالفت کی اور کتاب اللہ کے خلاف کیا اور ابوسفیان کے زنا کی گواہی ابومریم شراب فروش سے لے کر زیاد کو اپنا بھائی بنالیا؟

یہ سن کر معاویہ نے کہا یونس چپ ہو جا! ورنہ تیرا سراپے اڑا دوں گا کہ بہت دور جا کر گرے گا۔ پھر یونس بن عبید کے ٹوکنے کے باوجود معاویہ نے زیاد کو بھائی بنانے کا فیصلہ جاری کر دیا۔

مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے فتح الملہم شرح مسلم ج: 1 ص: 175 میں یہ سارا واقعہ بحوالہ شرح ابی اکمال الکمال لکھا ہے۔

بخاری کتاب البیوع باب شراء المملوك من الحربی وھبته وعتقه میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے:

”سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زمعہ نے ایک لڑکے کے بارے میں جھگڑا کیا۔ سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ! یہ میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا بیٹا ہے اس نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ یہ اس کا بیٹا ہے۔ آپ اس کی صورت دیکھئے عتبہ سے کیسی ملتی ہے۔ عبد بن زمعہ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! یہ میرا بھائی ہے میرے باپ کی لونڈی نے اس کو جنا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے لڑکے کی طرف نظر کی تو وہ صاف عتبہ کے مشابہ معلوم ہوا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عبد! یہ تجھے ملے گا۔ لڑکا اس کا ہے

جس کے بستر پر پیدا ہوا اور زانی کیلئے پتھر ہیں اور ام المومنین سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تم اس لڑکے سے پردہ کیا کرو۔ پھر سودہ رضی اللہ عنہا نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ یہ روایت بخاری کتاب الاحکام باب من قضی لہ بحق اخیه فلا یأخذہ میں بھی آئی ہے یہی روایت نسائی کتاب الطلاق باب الحاق الولد بالفراش میں بھی آئی ہے۔

زیاد کی موت کے بعد معاویہ نے صحابہ کے ہوتے ہوئے ابن زیاد جیسے چھوکرے کو گورنر مقرر کیا۔ (فتح الباری ج: 13 ص: 127-128)

بخاری کتاب المناقب باب نسبة الیمن الی اسماعیل علیہ السلام میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے دوسرے شخص کو جان بوجھ کر اپنا باپ بنایا وہ کافر ہو گیا اور جو شخص اپنے آپ کو دوسری قوم کا بتائے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔“

بخاری کتاب الفرائض باب من ادعی الی غیر ابیہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رسول کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں:

”آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو کوئی اپنے اصل باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ بتائے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہو گئی۔ ابو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے یہ حدیث ابو بکرہ صحابی سے بیان کی تو انہوں نے کہا میرے کانوں نے بھی یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے سنی اور اس کو یاد رکھا۔ مسلم کتاب الایمان باب من ادعی الی غیر ابیہ فقد کفر میں ابوذر رضی اللہ عنہ غفاری سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص خود کو کسی اور کا بیٹا بتائے حالانکہ وہ جانتا بھی ہے کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ (یعنی جان بوجھ کر ایسا کرے) تو وہ کافر ہو گیا اور جس شخص نے اس

چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے اور جو شخص کسی کو کافر کہہ کر بلائے یا خدا کا دشمن کہہ کر بلائے، اور وہ شخص جس کو ایسے نام سے پکارا ایسا نہ ہو، تو کفر کہنے والے کی طرف پلٹ آئے گا۔“

اس حدیث سے اگلی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے پاؤں سے نفرت مت کرو، جو شخص اپنے باپ سے نفرت کرے گا وہ کافر ہو گیا۔“

اس سے اگلی روایت میں ابو عثمان کہتے ہیں:

”جب زیاد کا دعویٰ کیا گیا تو میں ابوبکرہ سے ملا (وہ زیاد کے ماں جائے بھائی تھے) اور میں نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے سعد بن ابی وقاص سے سنا وہ کہتے تھے میرے کانوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ ﷺ فرماتے تھے جس نے اسلام میں آ کر اپنے باپ کے سوا کسی کو باپ بنایا تو جنت اس پر حرام ہے۔ ابوبکرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے خود سنا ہے رسول اللہ ﷺ سے۔“ یہ روایت مسند احمد میں بھی آئی ہے۔

اس سے اگلی روایت سعد بن ابی وقاص اور ابوبکرہ رضی اللہ عنہ دونوں سے ہے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے سنا اور دل نے یاد رکھا۔ آپ ﷺ فرماتے تھے جو شخص اپنے باپ کے سوا کسی کو باپ بنائے تو اس پر جنت حرام ہے۔

الاحبار الطوال میں ابو حنیفہ دینوری رضی اللہ عنہ زیاد بن ابیہ کے عنوان کے تحت ابتداء

میں لکھتے ہیں:

”زیاد پہلے ابن عبید کے نام سے مشہور تھا۔ پھر زیاد معاویہ کے پاس گیا اور اس کے حالات سازگار تھے، یہاں تک کہ معاویہ نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے بیان کیا کہ وہ ابوسفیان کا بیٹا ہے اور ابو مریم سلولی جو جاہلیت میں طائف کا شراب فروش تھا اس نے گواہی دی کہ ابوسفیان نے

سمیہ سے مباشرت کی اور بنو مصطلق کے ایک دوسرے شخص یزید نے گواہی دی کہ اس نے ابوسفیان کو کہتے سنا کہ زیاد اس کے نطفے سے ہے جو اس نے سمیہ کے پیٹ میں ڈالا۔ پس معاویہ کا دعویٰ زیاد کے بارے میں مکمل ہو گیا اور پھر جو ہونا تھا، سو ہوا۔“

ابو عثمان نہدی سے مسلم کی روایت کی تشریح میں امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں، مولانا شبیر احمد عثمانی فتح الہام میں اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ بذل النجود شرح ابی داؤد میں یہی قصہ لکھ کر حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ کا اس استلحاق سے انکار اور اس پر سخت ناراضگی ظاہر کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ابوبکرہ رضی اللہ عنہ زیاد کے ماں شریک بھائی تھے اور مخلص صحابی تھے۔ انہوں نے زیاد کی اس حرکت کے بعد اس سے کبھی کلام نہیں کیا۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ استلحاق زیاد کے بارے میں تحفہ اثنا عشریہ میں لکھتے ہیں کہ معاویہ نے زیاد کو اپنی طرف مائل کرنے میں حد سے زائد کوشش کی کیونکہ وہ بہت مدبر، شجاع و وزیرک سردار تھا جس کے ساتھ ایک جمعیت کثیر تھی اور بادشاہوں کو اس قسم کے آدمی کی ضرورت ہوا ہی کرتی ہے۔ اب ابن زیاد، نطفہ تحقیق کی شرارت دیکھتے کہ معاویہ کی رفاقت میں پہلا فعل جو اس سے سرزد ہوا، حضرت امیر علیہ السلام کی اولاد کی عداوت تھی۔

(تحفہ اثنا عشریہ اردو، ص: 483-486)

مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”یہ ایک مشہور تفصیل طلب واقعہ ہے۔ عام ناظرین کیلئے اس قدر لکھ دیتا ہوں کہ سمیہ جاہلیت کی ایک زانیہ اور فاحشہ عورت تھی۔ ابوسفیان اس کے پاس رہا کرتا تھا اور اس سے زیاد پیدا ہوا۔ لیکن غرض سیاسیہ سے (معاویہ نے) پھر اس کا استلحاق پیدا کیا اور اس کو اپنا بھائی قرار دیا۔ اس کیلئے ایک خاص مجلس شوریٰ منعقد ہوئی جس میں گواہوں کے اظہار کیلئے ازاں جملہ

ایک گواہ ابو مریم الفجار بھی تھا جس نے ابوسفیان کیلئے سنیہ کو مہیا کیا تھا۔
بالآخر ایسی شہادت سے زیادہ بھی شرمایا گیا۔

(مکالات ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ ص: 149-150)

ایسا ہی مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی سیاسی زندگی ص: 192-193، قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی نے تاریخ ملت ج: 3، ص: 22، مولانا سعید احمد فاضل دیوبند نے کتاب مسلمانوں کا عروج و زوال ص: 50 پر لکھا ہے۔

امام ابن عبدالبر رحمہ اللہ (الاستیعاب ج: 1، ص: 196 ابن الاثیر نے اکامل میں ج: 3، ص: 7-8 پر زیادہ کو بھائی بنانے کا واقعہ لکھا ہے۔

استحقاق زیادہ کو امیر معاویہ بھی غلط جانتے تھے

حافظ نور الدین ہیثمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد و منبع الفوائد ج: 5، ص: 14 باب الولد للفراس میں مسند ابی یعلیٰ کے حوالہ سے نقل کیا ہے:

”نصر بن حجاج اور خالد بن ولید کے لڑکے خالد کے درمیان ایک بچے کے بارے میں تنازعہ تھا۔ خالد کہتے تھے کہ یہ بچہ ان کے غلام عبداللہ کا لڑکا ہے، جس کے بستر پر یہ پیدا ہوا جبکہ نصر بن حجاج کا کہنا تھا کہ ان کے بھائی کی وصیت کے مطابق یہ اس کے نطفے سے ہے۔ یہ جھگڑا امیر معاویہ کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے کہا یہ بچہ اس کا ہے جس کے گھر میں پیدا ہوا۔ اس پر نصر بن حجاج نے کہا تو پھر زیادہ کو بھائی بنانے کا تمہارا فیصلہ کہاں گیا اے معاویہ! تو معاویہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ ﷺ کا فیصلہ معاویہ کے فیصلے سے بہتر ہے۔“

یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ استحقاق زیادہ کا فیصلہ امیر معاویہ کے نزدیک بھی غلط تھا۔

استحقاق کو زیادہ بھی دوزخیوں والا کام سمجھتا تھا

محدث ابن عساکر تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں:

”زیادہ نے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کیا تم دیکھتے نہیں کہ امیر المؤمنین میرے استحقاق کا ارادہ رکھتے ہیں حالانکہ میں عید کے بستر پر پیدا ہوا اور اس سے مشابہت رکھتا ہوں اور تم جانتے ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے سے انتساب کیا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔“ (تاریخ دمشق ابن عساکر ج: 5، ص: 409)

پھر محدث ابن عساکر محدث ابن یحییٰ اور سعید بن المسیب رحمہ اللہ کے اقوال نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابن یحییٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے فیصلوں میں سے جو پہلا فیصلہ رد کیا گیا وہ زیادہ کے بارے میں ہے اور سعید بن مسیب نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے فیصلوں میں سے اولین فیصلہ جسے علانیہ رد کیا گیا وہ معاویہ نے زیادہ کے معاملہ میں کیا۔ مؤرخ ابوالفداء دمشقی اپنی تاریخ ج: 2، ص: 98-99 پر لکھتے ہیں:

”سنیہ حارث بن کلدہ ثقفی طیب کی کنیز تھی جسے اس نے اپنے ایک رومی غلام عبید نامی سے بیاہ دیا تھا اور زیادہ عبید کے گھر میں پیدا ہوا اور شرعاً اس کی اولاد تھا۔ آگے لکھتے ہیں کہ ابو مریم شراب فروش نے استحقاق کے وقت اس طرح گواہی دی کہ خود زیادہ کو شرم آگئی، اس نے ابو مریم کو خاموش کر دیا اور کہا ذرا ٹھہر، تجھے گواہی کیلئے طلب کیا گیا ہے نہ کہ گالیاں دینے کیلئے۔“

اس کے بعد ابوالفداء لکھتے ہیں:

”امیر معاویہ نے زیادہ کا استحقاق کر لیا اور یہ پہلا واقعہ ہے جس میں علانیہ شریعت کی مخالفت کی گئی کیونکہ نبی ﷺ کا صریح ارشاد ہے کہ بچہ اسی کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا اور زانی کیلئے پتھر ہیں۔ لوگوں نے اس فیصلے کو بڑا حادثہ سمجھا اور اس پر احتجاج کیا بالخصوص بنو امیہ نے کیونکہ اس طرح رومی غلام عبید کا بیٹا زیادہ بنو امیہ کا فرد بن گیا۔

امام ابن حجر رحمہ اللہ الاصابہ میں زیادہ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

”جب بنو امیہ کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تو پھر اسے زیاد بن ابیہ اور زیاد بن سمیہ کہا جانے لگا، اس نے اپنے باپ عبید کو ایک ہزار درہم دے کر آزاد کرایا تھا۔“

اب آخر میں مولانا رشید احمد گنگوہی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ ملاحظہ فرمائیں۔

ترمذی ابواب المناقب میں باب مناقب حسین رضی اللہ عنہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت حسین علیہ السلام کا سر مبارک ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو اس شقی و خبیث نے آپ علیہ السلام کے چہرے اور ناک پر چھری سے کچوکا دیا۔ اس حدیث کی شرح میں مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں، ابن زیاد کی اس حرکت پر تعجب نہیں کیونکہ اس کا باپ زیاد ولد الزنا تھا، معاویہ نے اس کا احتیاق کیا، اسی لیے اسے زیاد بن ابیہ کہا جاتا ہے۔“

(الکوکب، الدرر، المادات مولانا رشید احمد گنگوہی، مرتب مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی ج 2، ص 437)

امیر معاویہ کے چار افعال مہلکہ

امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاویہ کے چار افعال ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی ارتکاب کرے تو وہ اس کے حق میں مہلک ہو۔

- 1- ایک ان کا امت پر تلوار سونت لینا اور مشورے کے بغیر حکومت پر قبضہ کر لینا جبکہ صحابہ رضی اللہ عنہم موجود تھے۔
- 2- دوسرے ان کا اپنے بیٹے یزید کو جانشین بنانا حالانکہ وہ شرابی اور نشہ باز تھا، ریشم پہنتا اور طنبورے بجاتا تھا۔
- 3- تیسرے ان کا زیادہ کو بھائی بنانا حالانکہ حکم نبوی تھا کہ اولاد اس کی جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا ورنہ زانی کیلئے پتھر ہیں۔
- 4- چوتھے حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دینا۔

(امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ ج 8: ص 130، امام ابن کثیر اکمل ج 3: ص 242)

حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ صحابی اور ان کے ساتھیوں کا قتل

یہ خوں چکاں قصہ پڑھنے سے پہلے ایک حدیث ملاحظہ ہو۔ نسائی کتاب

المحاربہ باب تحریم الدم میں ابودریس روایت کرتے ہیں:

”میں نے معاویہ سے سنا، وہ خطبہ دے رہے تھے، اور انہوں نے بہت کم حدیثیں روایت کی ہیں، وہ کہتے تھے میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں فرماتے تھے، ہر ایک گناہ اللہ بخش دے گا مگر جو مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے یا کافر ہو کر مرے۔“

حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کو 51ھ میں معاویہ کے حکم سے قتل کیا گیا، وہ ایک عابد زاہد صحابی اور صلحائے امت میں ایک اونچے مرتبے کے شخص تھے۔ امیر معاویہ کے زمانے میں جب منبروں پر خطبوں میں علانیہ حضرت علی علیہ السلام پر لعنت اور سب کا سلسلہ شروع ہوا تو عام مسلمانوں کے دل ہر جگہ ہی اس سے زخمی ہو رہے تھے مگر لوگ خون کا گھونٹ پی کر رہ جاتے تھے۔ کوفہ میں حجر بن عدی رضی اللہ عنہ سے مبرنہ ہو سکا اور انہوں نے جواب میں حضرت علی علیہ السلام کی تعریف اور معاویہ کی مذمت شروع کر دی مغیرہ بن شعبہ جب تک کوفہ کے گورنر رہے۔ وہ ان کے ساتھ رعایت برتتے رہے۔ ان کے بعد جب زیاد کی گورنری میں بصرہ کے ساتھ کوفہ بھی شامل ہو گیا تو زیاد اور حضرت حجر رضی اللہ عنہ کے درمیان کشمکش برپا ہو گئی۔ زیاد خطبے میں حضرت علی علیہ السلام کو گالیاں دیتا تھا اور یہ اٹھ کر اس کا جواب دینے لگتے تھے۔ اس دوران ایک مرتبہ انہوں نے زیاد کو نماز جمعہ لیٹ کرانے پر بھی ٹوکا۔ آخر کار زیاد نے انہیں اور ان کے بارہ ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف بہت سے لوگوں کی شہادتیں اس فرد جرم پر لیں کہ انہوں نے ایک گروہ بنا لیا ہے، خلیفہ کو علانیہ گالیاں

دیتے ہیں، امیر المومنین کے خلاف لڑنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ خلافت آل ابی طالب کے سوا کسی کیلئے درست نہیں، انہوں نے شہر میں فساد برپا کیا اور امیر المومنین کے عامل کو نکال باہر کیا، یہ ابو تراب (حضرت علی علیہ السلام) کی حمایت کرتے ہیں ان پر رحمت بھیجتے ہیں اور ان کے مخالفین سے اظہار برأت کرتے ہیں۔

ان جھوٹی گواہیوں میں سے ایک گواہی قاضی شریعہ کی بھی ثبت کی گئی مگر انہوں نے ایک الگ خط میں معاویہ کو لکھ بھیجا کہ میں نے سنا ہے آپ کے پاس حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو شہادتیں بھیجی گئی ہیں، ان میں ایک میری شہادت بھی ہے۔ میری اصل گواہی حجر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمیشہ حج و عمرہ کرتے رہتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، ان کا خون اور مال حرام ہے، آپ چاہیں تو ان کو قتل کر دیں ورنہ معاف کر دیں۔

یہ طرم معاویہ کے پاس بھیجے گئے اور انہوں نے ان کے قتل کا حکم دے دیا، قتل سے پہلے جلادوں نے ان سے کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم علی علیہ السلام سے براءت کا اظہار کرو اور ان پر لعنت بھیجو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے ورنہ قتل کر دیا جائے، حضرت حجر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے انکار کر دیا۔ حضرت حجر رضی اللہ عنہ نے کہا میں منہ سے وہ بات نہیں نکال سکتا جو رب کو ناراض کرے۔

آخر کار وہ اور ان کے ساتھی قتل کر دیئے گئے۔ ان میں سے ایک صاحب عبدالرحمن بن حسان رضی اللہ عنہ کو معاویہ نے زیاد کے پاس واپس بھیج دیا اور اس کو لکھا کہ انہیں بدترین طریقے سے قتل کرو۔ چنانچہ زیاد نے انہیں زندہ دفن کر دیا۔ اس کے دو سال بعد زیاد بھی 53ھ میں مر گیا۔

(امام ابن جریر، تاریخ، ج: 4، ص: 190 تا 207، امام ابن عبدالبر، الاستیعاب، ج: 1، ص: 135، امام ابن اثیر، الکامل، ج: 3، ص: 234 تا 242، امام ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ج: 8،

ص: 50-55، سیر اعلام النبلاء امام ذہبی ج: 4، ص: 246)

امام ابن اثیر نے اسد الغابہ ج: 1، ص: 385 پر حضرت حجر بن عدی کے حالات میں یہی قصہ لکھا ہے۔

حضرت حجر فضلاء صحابہ میں سے تھے۔ جنگ صفین میں، ہونکہ کے کمانڈر اور نہروان میں بائیں طرف کے کمانڈر تھے۔

ان لوگوں کو مرج عذرا کے جنگل میں قتل کیا گیا۔ وہ علاقہ حضرت حجر رضی اللہ عنہ نے ہی فتح کیا تھا اور انہوں نے پہلی دفعہ تکبیر کی۔ قتل سے پہلے انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اور فرمایا کہ قتل کے بعد میری بیڑیاں، کپڑے وغیرہ نہ اتارنا۔ میں قیامت کے دن معاویہ سے اسی حال میں بل صراط پر ملوں گا۔

امام ابن سیرین رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سزائے موت کا قیدی قتل سے پہلے دو رکعت پڑھ سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ امت کے دو چوٹی کے آدمیوں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور حجر بن عدی رضی اللہ عنہ نے اپنے قتل سے پہلے دو رکعت پڑھی لہذا یہ درست ہے۔

(متدرک حاکم ج: 3، ص: 470، زاد المعاد ج: 2، ص: 109)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس قتل کی اطلاع ملی تو وہ شدت غم سے اٹھ کھڑے ہوئے اور رونے لگے۔ (ابن کثیر، البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 65)

امیر معاویہ کے گورنر خراسان ربیع ابن زیاد کو جب حجر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے قتل کی اطلاع ملی تو انہوں نے کہا خدایا اگر تیرے علم میں میرے اندر کچھ خیر باقی ہے تو مجھے دنیا سے اٹھالے۔ ان کی دعا فوراً قبول ہوئی۔

(البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 66، الاستیعاب ج: 1، ص: 135، طبری، ج: 4، ص: 208، تاریخ ابن خلدون، ج: 3، ص: 13)

امام ابن حزم رضی اللہ عنہ کی چند تصانیف کا مجموعہ جوامع السیرۃ کے نام سے احمد شاکر، احسان عباس اور ڈاکٹر ناصر الدین الاسد نے تحقیق و نظر ثانی کے بعد شائع کیا ہے اس کتاب میں ایک رسالہ اسماء الخلفاء والاۃ و ذکر مددہم کے نام سے شامل ہے۔ اس

کے صفحہ 356 پر معاویہ کے حالات صرف پانچ سطروں میں بیان کئے گئے ہیں جس میں ابن حزم رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”معاویہ کے عہد میں قسطنطنیہ کا محاصرہ ہوا اور حجر بن عدی بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو باندھ کر دمشق کے مضافات میں قتل کیا گیا اور اسلام میں یہ امر رخنہ اور کمزوری کا باعث ہے کہ جس صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کی ذات اقدس کو دیکھا ہو اسے ارتداد یا شادی کے بعد زنا کے جرم کے بغیر قتل کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان حضرات کے قتل پر جو کچھ فرمایا وہ تاریخ میں محفوظ ہے۔“

اس قتل پر معاویہ کا اظہار ندامت

امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے:

”جب معاویہ کی موت کا وقت قریب تھا تو حالت غیر میں کہہ رہے تھے

”اے حجر رضی اللہ عنہ تیری ملاقات کا دن بہت طویل ہوگا۔“

سیر اعلام النبلاء، ج: 3، ص: 307 میں امام ذہبی نے لکھا:

”امیر معاویہ اپنے اس فعل پر نادم تھے۔“

قتل حجر بن عدی بن عدی آمنہ کی نظر میں

شمس الائمہ سرخسی حنفی المبسوط، باب الصلوٰۃ علی الشہید میں لکھتے ہیں:

”جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جنگ صفین میں شہید ہونے لگے تو فرمایا کہ میرا خون نہ دھونا اور میرے کپڑے نہ اتارنا، میں اسی حال میں معاویہ سے قیامت والے دن ملاقات کروں گا اور حجر رضی اللہ عنہ بن عدی سے بھی ایسا ہی منقول ہے۔“

امام آگے چل کر باب الخوارج ج: 10، ص: 131 پر لکھتے ہیں:

”جو لوگ اہل عدل میں سے قتل ہوں تو ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو شہداء کے ساتھ ہوتا ہے یعنی غسل دیئے بغیر ان کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے مقتول ساتھیوں سے یہی کیا تھا، اور عمار رضی اللہ عنہ بن یاسر رضی اللہ عنہ، حجر رضی اللہ عنہ بن عدی اور زید بن صوحان رضی اللہ عنہ نے شہید ہوتے وقت یہی وصیت کی تھی۔“

امام ابوالحسن ماوردی اپنی کتاب الاحکام السلطانیہ ص: 56، پر باغیوں سے جنگ کی بحث کے تحت لکھتے ہیں:

”باغیوں کو تنبیہ کی جاسکتی ہے مگر قتل نہیں کیا جاسکتا۔“

فصل التعزیر میں لکھتے ہیں:

”تعزیر کے ذریعے خون بہانا جائز نہیں۔“

قاضی ابو یعلیٰ محمد بن الحسین الفراء اپنی کتاب ”الاحکام

السلطانیہ باب قتال اہل البغی ص: 39 پر لکھتے ہیں:

”مسلمان باغیوں میں سے جو قیدی بنائے جائیں گے وہ قتل نہیں کئے

جائیں گے اور حربی کافروں اور مرتدوں کے قیدی قتل کئے جائیں گے۔“

امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم کتاب الزکاة باب مؤلفۃ القلوب میں اس پر

اجماع نقل کیا ہے کہ خوارج اور باغیوں کے قیدیوں کا قتل جائز نہیں ہے۔

امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ص: 51 کے حوادث میں اسی سال حجر بن عدی اور

ان کے ساتھی معاویہ کے حکم سے عذراء کے مقام پر قتل ہوئے۔ حجر رضی اللہ

صحابی ہیں جو ایک وفد میں آنحضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ

ایک عبادت گزار انسان تھے جنہوں نے جہاد میں شرکت کی۔“

(العبر فی خبر من غیر، ج: 1، ص: 57)

استاد عبدالوہاب رحمہ اللہ التجار جنہوں نے تاریخ اکامل ابن اثیر کے نسخہ کی تصحیح دہندہ کی ہے وہ اس کتاب کی ج: 3، ص: 241 پر حاشیہ میں لکھتے ہیں:

”حضرت ابن حجر رحمہ اللہ اور ان کے ساتھی جو سیاسی اغراض کے باعث قتل ہوئے۔ وہ اپنے قول و عمل میں معاویہ کی نسبت زیادہ برسر حق تھے۔ وہ اپنے دین کے معاملے میں مدافعت کی بجائے صراحت سے کام لیتے تھے جس پر ان کا خون بہایا گیا۔“

مولانا مناظر احسن گیلانی دیوبندی تدوین حدیث ص: 423 پر لکھتے ہیں:

”حضرت حجر رحمہ اللہ کی جلالت شان کا اندازہ اسی سے کیجئے کہ کوفہ سے شام گرفتار کر کے بھیجے گئے اور یہ خبر مدینہ پہنچی تو حضرت عائشہ رحمہ اللہ نے اسی وقت امیر معاویہ کے پاس قاصد دوڑایا کہ حجر رحمہ اللہ کو قتل نہ کرنا لیکن قاصد اس وقت پہنچا جب وہ شہید ہو چکے تھے۔“

مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ اپنی کتاب ”سیرت عائشہ“ ج: 1، ص: 150-151 پر حضرت عائشہ رحمہ اللہ کے تاثرات اس قتل کے بارے میں یوں لکھتے ہیں:

”مسروق تابعی راوی ہیں کہ حضرت عائشہ رحمہ اللہ فرماتی تھیں کہ خدا کی قسم اگر معاویہ کو معلوم ہوتا کہ اہل کوفہ میں کچھ بھی جرات اور خودداری باقی ہے تو وہ کبھی حجر رحمہ اللہ کو ان کے سامنے پکڑوا کر شام میں قتل نہ کرتا۔ لیکن اس جگر خوارہ ہند کے بیٹے نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ اب لوگ اٹھ گئے۔“

حضرت حجر رحمہ اللہ بن عدی کا مرتبہ

امام حاکم نے مستدرک حاکم ج: 3 میں صحابہ کے حالات بیان کرتے ہوئے ص: 468 پر ایک باب کا عنوان قائم کیا۔ حجر بن عدی رحمہ اللہ کے مناقب جو کہ حضرت محمد ﷺ کے راہب (درویش صفت) صحابی تھے۔

امام ذہبی رحمہ اللہ کی تلخیص مستدرک حاکم میں بھی یہی عنوان موجود ہے۔ امام ابن کثیر

نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ امام ابن عبدالبر ”الاستیعاب“ میں فرماتے ہیں کہ حجر رحمہ اللہ صاحب فضیلت صحابہ میں سے تھے۔ ان عسا کر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حجر رحمہ اللہ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسی طرح مرزبانی کا یہ قول بھی منقول ہے کہ حجر بن عدی اپنے بھائی ہانی بن عدی کے ساتھ وفد کی صورت میں خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تھے۔

پھر ابن کثیر رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ کے حوالے سے یحییٰ بن سلیمان کا قول نقل کرتے ہیں کہ حجر رحمہ اللہ بن عدی مستجاب الدعوات اور افضل اصحاب النبی میں سے تھے۔ الاستیعاب میں ابن نافع سے منقول ہے کہ وہ حضرت حجر رحمہ اللہ کو رجل من اصحاب النبی ﷺ قرار دیتے ہوئے ان سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اس قول پر فرمایا:

”افسوس اور خرابی ہے اس کیلئے (یعنی معاویہ) جس نے حجر رحمہ اللہ اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا۔“ (امام ابن عبدالبر الاستیعاب ج: 1، ص: 357)

امام ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ میں امام حاکم کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت حجر رحمہ اللہ اور ان کے بھائی حضرت ہانی رحمہ اللہ وفد کی صورت میں نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے تھے۔ پھر ابن حجر رحمہ اللہ نے ابو بکر بن حفص کا قول نقل کیا ہے جس کے مطابق حضرت حجر رحمہ اللہ صحابی تھے اور ان سے روایت کردہ حدیث لکھی ہے۔

امام ابن اثیر رحمہ اللہ نے اسد الغابہ میں لکھا کہ حضرت حجر رحمہ اللہ کا لقب حجر الخیر (نیکی کرنے والا یا نیکو کار حجر) مشہور تھا اور آپ اپنے بھائی کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تھے اور فاضل صحابی اور اعیان صحابہ میں شمار کئے جاتے تھے۔ قتل کے وقت وہ اتنے بوڑھے تھے کہ جم کر سواری پر بغیر سہارے کے نہ بیٹھ سکتے تھے۔

حضرت حجر رحمہ اللہ بن عدی کا جرم

کسی حکمران کی حکومت کو خوش دلی سے تسلیم نہ کرنا اور کسی اور کو اس کے مقابلہ میں

زیادہ مستحق حکمرانی سمجھنا شرعاً بغاوت کے جرم کے تحت نہیں آتا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ نے پوری زندگی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہ کی اور وہ انصار رضی اللہ عنہ کو مستحق خلافت سمجھتے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دوسرا تاریخی واقعہ معاویہ کے والد ابوسفیان کا لکھا ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی اور ابوسفیان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ قریش کے سب سے چھوٹے قبیلے نے خلافت پر قبضہ کر لیا، اے علی رضی اللہ عنہ، اگر تم پسند کرو تو خدا کی قسم میں اس وادی کو پیادوں اور سواروں سے بھر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ تم ہمیشہ اسلام اور اہل اسلام کے دشمن بنے رہے مگر اس سے اسلام اور مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکا۔ ہماری رائے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ منصب خلافت کے اہل ہیں۔

یہ واقعہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج النہ میں کئی بار نقل کیا اور دوسری کتابوں میں بھی نقل ہوتا آ رہا ہے۔ اگر کسی کو حکمران کے خلاف اکسانا جرم ہے تو یہ جرم معاویہ کے ابا جان ابوسفیان پہلے ہی کر چکے ہیں، پھر حضرت حجر رضی اللہ عنہ پر اتنا غصہ کیوں؟

مزید یہ کہ حنفی مسلک کے شمس المآثر سرخسی رحمہ اللہ المصنوع ج: 10، ص: 125 پر فرماتے ہیں:

”حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدود سلطنت میں رہ کر خارجی ان کو گالیاں دیتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو کوئی سزا نہ دی۔ اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ حکمران کو گالی دینا موجب تعزیر نہیں ہے۔“

حضرت حجر رضی اللہ عنہ کے خلاف یکطرفہ گواہیاں لے کر امیر معاویہ نے سزائے موت سنائی اور ان کو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع نہ دیا گیا۔ ان کے خلاف زیادہ زبردستی گواہیاں کیسے لیں ان کا ذکر امام ابن جریر نے اپنی تاریخ میں ج: 4، ص: 200 پر کیا ہے۔“

اسی کتاب میں ج: 4، ص: 303 پر امام لکھتے ہیں: ”جب سارے ملزم مرتج عذراء کے مقام پر قید کر دیئے گئے تو انہیں وہاں یزید بن حبیبہ کے ذریعے معلوم ہوا کہ انہیں سزائے موت ملنے والی ہے۔ اس پر حضرت حجر رضی اللہ عنہ نے یزید سے کہا کہ وہ معاویہ سے جا کر

کہیں کہ ہم اپنی بیعت پر قائم ہیں اور ہمارے خلاف گواہی دشمنی و تہمت پر مبنی ہے۔ یزید نے پیغام بھیجوا یا مگر معاویہ نے جواب دیا کہ زیاد ہمارے نزدیک حجر رضی اللہ عنہ سے زیادہ سچا ہے۔“ جب معاویہ سے ملزم پیش کرنے کی بات کی گئی تو انہوں نے کہا میں ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ (امام ذہبی، سیر اعلام النبلاء)

جب معاویہ سے حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو حجر نے کہا ہم بیعت پر قائم ہیں لیکن معاویہ نے پھر بھی ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ (الاصابہ، ابن حجر، ج: 1، ص: 329، نمبر شمار 1624) حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کا اصل جرم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت تھا اور یہی ان کے قتل کا سبب تھا۔ (مستدرک حاکم، ج: 3، ص: 470)

یزید کی ولی عہدی

امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی کیلئے خوف اور لالچ کے ذرائع سے بیعت لے کر اس امکان کا خاتمہ کر دیا کہ خلافت علی منہاج النبوة کبھی بحال ہو سکے۔
بیعت یزید اور عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم
یزید کو جب ولی عہد نامزد کیا تو اس وقت اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے علاوہ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص بھی زندہ تھے۔

(شرح مسلم از علامہ ابی مائک، ج: 2، ص: 261)

امام ذہبی اور ابن کثیر رحمہما اللہ لکھتے ہیں:

”بیعت یزید کی طرح زبردستی کسی کی بیعت نہیں لی گئی“

(البدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 86، سیر اعلام النبلاء، ج: 3، ص: 148-149)

یہ بات تمام محدثین نے لکھی ہے کہ یزید شرابی اور تارک نماز تھا۔

(امام ذہبی رحمہ اللہ، سیر اعلام النبلاء، ج: 4، ص: 318)

جبکہ شراب ام النجاشی ہے۔

(صحیح الجامع الصغیر، ج: 1، ص: 632، حدیث: 3344، سلسلة الاحادیث)

(الصحيحه، ج: 4، حدیث: 1854)

حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یزید ولی بھی ہوتا تو بھی اس کو خلیفہ نامزد کرنا غلط ہوتا کیونکہ اس سے امت میں اس بری رسم نے جنم لیا کہ ہر مرنے والا اپنے بیٹوں کو ولی عہد بنادے۔
(امام ذہبی رحمہ اللہ، سیر اعلام النبلاء، ج: 3، ص: 318)

امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کاش امیر معاویہ اپنے بیٹے یزید کیلئے ولی عہدی کا اعلان نہ کرتے اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امت کو اختیار دے دیتے۔ یزید کو ولی عہد بنانے کے عمل سے امام حسین علیہ السلام دکھ سے بھر گئے کہ معاویہ نے اپنے بیٹے کیلئے زبردستی بیعت لی لہذا امام حسین علیہ السلام اس کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار ہو گئے۔

(سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی رحمہ اللہ، ج: 3، ص: 291-292)

علامہ وحید الزماں بخاری کتاب الجناز باب ماجاء فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی آخری حدیث کی شرح میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وصیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے بیٹے عبد اللہ کا خلافت میں کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہی ایک کام دیکھ لو اور اس کو معاویہ کے کام سے ملاؤ کہ انہوں نے مرتے وقت زبردستی اپنے ناخلف بیٹے یزید سے بیعت کرادی تو دونوں میں زمیں آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ جو لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر طعن کرتے ہیں ان کو یہ کاروائی دیکھ کر شرمنا چاہئے۔

علامہ وحید الزماں رحمہ اللہ کتاب التفسیر، سورہ احقاف باب والذی قال لو الولدیه اف لکما میں بیان شدہ حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں ”افسوس کہ معاویہ کو اپنی آخر عمر میں حقانیت کا کچھ خیال نہ ہوا اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اور دوسرے اہل استحقاق کے زندہ ہوتے ہوئے بھی اپنے نالائق بیٹے یزید کو خلافت دینا چاہی اور اس پر طرہ یہ کیا کہ ایسی خود غرضی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سے مقدس حضرات کا طریقہ قرار دیا۔“

یزید کی ولی عہدی کے بارے میں خود امیر معاویہ کی رائے امام ذہبی رحمہ اللہ نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب منہاج السنہ کی تلخیص المشقی کے نام سے کی ہے۔ اس میں معاویہ کے عنوان کے تحت امام نے لکھا کہ امیر معاویہ نے یزید سے کہا ”مجھے سب سے زیادہ اس کام (یعنی ولی عہدی) کا خوف ہے، جو تیرے معاملہ میں ہوا۔“

دور یزید کے بارے میں نبوی پیش گوئی

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے ساٹھ سال بعد حکمرانوں کے جانشین ایسے ہوں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے۔ ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور قرآن کی تلاوت تین طرح کے لوگ کرتے ہیں، مومن، منافق اور فاجر راوی حدیث بشیر کہتے ہیں کہ میں نے ولید سے پوچھا کہ تین لوگ کیسے ہیں۔ انہوں نے کہا منافق تو اس کا منکر ہوتا ہے، فاجر اس کے ذریعے کھاتا ہے اور مومن اس پر ایمان رکھتا ہے۔

(مسند احمد حدیث نمبر 11360)

مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شہید کربلا میں خلافت اسلامیہ پر ایک حادثہ عظیمہ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ

”بالآخر بیعت یزید کا قصد کر لیا جاتا ہے اور اسلام پر یہ پہلا حادثہ عظیم ہے کہ خلافت نبوت ملوکیت میں منتقل ہوتی ہے۔“ آگے لکھتے ہیں کہ یزید کے ذاتی حالات بھی اس کی اجازت نہ دیتے تھے کہ اس کو تمام ممالک اسلامیہ کا خلیفہ مان لیا جائے۔

دیوبندی عالم مولانا عبید اللہ انور فرماتے ہیں کہ خلفاء راشدین کی سنت یہ ہے کہ مسلمانوں کی مجلس شوریٰ خلیفہ منتخب کرے مگر امیر معاویہ نے قیصر و کسریٰ کی سنت کے مطابق بادشاہت کا سلسلہ قائم کر دیا، اس واسطے آپ (حضرت حسین علیہ السلام) اصولاً اس کاروائی کے خلاف تھے۔ یزید ذاتی طور پر بھی اس قابل نہ تھا۔

(خدام الدین مورخہ 22 جون 1962ء ص: 9)

مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے افراط سے کام

لیا اور کہا کہ جب یزید بالا اتفاق تمام مسلمانوں کا رہبر بن گیا تو اس کی اطاعت امام حسین علیہ السلام پر واجب تھی لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ مسلمانوں کا اتفاق اس کی امارت پر کب ہوا تھا، صحابی اور اولاد صحابہ کی ایک جماعت اس کی اطاعت سے خارج تھی اور جنہوں نے اس کی اطاعت قبول کی تھی جب ان کو یزید کی شراب خوری اور ترک صلوٰۃ اور زنا اور محارم کے ساتھ حرام کاری کی حالت معلوم ہوئی تو مدینہ منورہ میں واپس آ کر انہوں نے بیعت کو فسخ کر دیا۔

(فتاویٰ مولانا عبدالحی ص: 79)

مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رئیس کا تقرر اگر بشكل انتخاب نہ ہو تو وہ مسلمانوں کے نزدیک امام اسلام نہیں ہو سکتا بلکہ قیصر و کسریٰ سمجھا جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشہور حدیث میں اسی قسم کی حکومت کو ملک عضو فرمایا ہے۔

(مقالات الہلال ص: 114)

کہا جاتا ہے کہ یزید کی ولی عہد کی تجویز کی ابتداء مغیرہ بن شعبہ کی طرف سے ہوئی۔ معاویہ انہیں کوفہ کی گورنری سے معزول کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ کو اس بات کی خبر مل گئی۔ وہ فوراً کوفہ سے دمشق پہنچے اور یزید سے مل کر کہا ”صحابہ کے اکابر اور قریش کے بڑے لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ امیر المومنین تمہارے لیے بیعت لے لینے میں تاثر کیوں کر رہے ہیں۔“ یزید نے اس بات کا ذکر اپنے والد سے کیا۔ انہوں نے مغیرہ کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا بات ہے جو تم نے یزید سے کہی؟ مغیرہ نے جواب دیا: ”امیر المومنین آپ دیکھ چکے ہیں کہ قتل عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد کیسے کیسے اختلافات اور خون خرابے ہوئے۔ اب بہتر یہ ہے کہ آپ یزید کو اپنی زندگی ہی میں ولی عہد مقرر کر کے۔ بیعت لے لیں تاکہ اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو اختلاف برپا نہ ہو۔“ امیر معاویہ نے پوچھا کہ اس کام کو پورا کرنے کی ذمہ داری کون لے گا؟ مغیرہ نے کہا اہل کوفہ کو میں سنبھال لوں گا اور اہل بصرہ کو زیادہ اس کے بعد اور کوئی مخالفت کرنے والا نہیں۔ مغیرہ بن

شعبہ نے معاویہ کے پاس سے باہر نکل کر کہا کہ معاویہ کا پاؤں ایسی دلدل میں پھنسا آیا ہوں جہاں سے وہ قیامت تک نہیں نکل سکتے۔ (تاریخ الخلفاء، ص: 255، اردو، امام سیوطی) مگر یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ یزید کو ولی عہد بنانے کا خیال امیر معاویہ کا اپنا تھا۔ اس کے باوجود اس روایت کے آخری فقرے کی صداقت بالکل واضح ہے اور یزید کی ولی عہدی تا قیامت معاویہ کے گلے کا بار بن گئی۔

یہ بات کر کے مغیرہ بن شعبہ کو فے آئے اور دس آدمیوں کو تیس ہزار درہم دے کر اس بات پر راضی کیا کہ ایک وفد کی صورت میں معاویہ کے پاس جائیں اور یزید کی ولی عہدی کیلئے ان سے کہیں۔ یہ وفد مغیرہ بن شعبہ کے بیٹے موسیٰ بن مغیرہ کی سرکردگی میں دمشق گیا اور اس نے اپنا کام پورا کیا۔ بعد میں امیر معاویہ نے موسیٰ کو الگ بلا کر پوچھا: ”تمہارے باپ نے ان سے کتنے میں ان کا دین خریدا ہے؟ تو موسیٰ نے کہا میں ہزار درہم میں۔ امیر معاویہ نے کہا ”تب تو ان کا دین ان کی نگاہ میں بہت ہلکا ہے۔“

یزید کی ولی عہدی کیلئے ابتدائی تحریک کسی صحیح جذبے کی بنیاد پر نہیں ہوئی بلکہ ایک گورنر نے اپنے ذاتی مفاد یعنی نوکری بچانے کیلئے وقت کے حکمران کے ذاتی مفاد سے اپیل کر کے اس تجویز کو جنم دیا۔

یہ قصہ امام ابن اثیر رحمہ اللہ نے الکامل ج: 3، ص: 249، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 179، ابن خلدون نے تاریخ ج: 3، ص: 15-16 پر لکھا ہے۔

امام سیوطی اپنی کتاب تاریخ الخلفاء، اردو، ص: 252 باب معاویہ بن ابی سفیان میں عرب کے چار عقل مند کے ترجمہ کے تحت لکھتے ہیں۔

قبیصہ بن جابر کہتے ہیں کہ میں مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ ہی رہا ہوں۔ ان کا حال یہ ہے کہ اگر کسی شہر کے آٹھ دروازے ہوں اور ہر ایک دروازے سے کوئی شخص مکر کئے بغیر نہ نکل سکتا ہو تو یہ آٹھوں دروازوں سے بڑی آسانی سے گزر سکتے ہیں۔

اس کے بعد یہ تجویز زیادہ بھجوائی گئی جس نے اس کی چند مشوروں کے ساتھ تائید کی۔ اور معاویہ کو یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں۔ (حوالہ ایضاً) امیر معاویہ نے اپنی موت سے چار سال پہلے ہی لوگوں کو یزید کی ولی عہدی کیلئے تیار کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن ایک وفدان سے ملنے آیا تو ایک شامی یزید بن مہثع نے دربار میں تلوار لہرا کر وفد سے کہا ہمارے امیر المؤمنین معاویہ ہیں اور ان کے بعد یہ یزید ہے اور جو نہ مانے اس کیلئے تلوار ہے۔ اس پر امیر معاویہ نے اسے کہا بیٹھ جا تو سید الخطباء ہے۔ مسند ابویعلیٰ پر حاشیہ اہل حدیث عالم مولانا ارشاد الحق اثری نے لکھا ہے۔ اس کی روایت نمبر 7138، ج: 6 میں مندرجہ ذیل واقعہ بیان ہوا ہے، جس کے راویوں کو اثری صاحب نے ثقہ لکھا ہے۔

امیر معاویہ نے گورنر مدینہ کو لکھا کہ مدینہ سے وفد بھیجو۔ اس نے عمرو بن حزم انصاری رحمہ اللہ کو وفد کا سردار بنا کر بھیجوا دیا۔ جب دمشق پہنچ کر وفد نے ملاقات کی اجازت مانگی تو امیر معاویہ نے تجاہل عارفانہ سے پوچھا یہ عمرو کس لئے آیا ہے؟ (حالانکہ خود بلایا گیا تھا) معاویہ نے کہا اگر وہ رقم مانگتا ہے تو دو، میں اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ (معاویہ نے یہ ان سب اصحاب کو ذلیل کرنے کیلئے کہا تا کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ وہ دور بدل گیا جب تمہاری عزت ہوتی تھی)۔ عمرو بن حزم رحمہ اللہ نے فرمایا میں رقم لینے نہیں بات کرنے آیا ہوں۔ معاویہ نے ایک دن فجر کے وقت ملاقات کیلئے بلالیا۔ ملاقات میں عمرو بن حزم رحمہ اللہ نے کہا معاویہ! یزید کو کسی چیز کی کمی نہیں۔ قریش کے خاندان سے ہے، مال بھی اس کے پاس بہت ہے، میں تیرے پاس اس لئے آیا ہوں کہ تجھے بتاؤں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو رعیت دیتا ہے تو قیامت کے دن اس سے پوچھے گا کہ تم نے رعایا سے کیا برتاؤ کیا؟ تو جس کو خلیفہ بنانے لگا ہے، اس کا حال ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ میں تجھے اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ امت محمدیہ پر کس کو حکمران بنا کر جا رہا ہے۔ (یاد رہے اس وقت عشرہ مبشرہ میں سے سعد بن ابی وقاص رحمہ اللہ زندہ تھے)۔ اس وقت سخت سردی

کا موسم تھا مگر بات سن کر معاویہ کو پسند آ گیا اور سانس تیز ہو گئیں۔ تین بار پسینہ پونچھنے کے بعد امیر معاویہ نے کہا تو خیر خواہ آدمی ہے۔ تو نے اپنے خیال سے جو درست سمجھا کہا۔ بات یہ ہے کہ اور صحابہ کے بھی بیٹے ہی باقی رہ گئے ہیں اور میرا بھی بیٹا ہے۔ میرا بیٹا ان سے بہتر ہے۔ تو ان باتوں کو چھوڑ اور مانگ جو مانگتا ہے۔ عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ نے کہا میری کوئی حاجت نہیں ان کے بھائی نے کہا چھوڑ عمرو! ہم مدینہ سے اونٹوں کے جگر جلا کر یہاں شام میں چند باتیں سنا نے نہیں آئے، ہمیں کچھ لینے دے۔ اس طرح بھائی بک گیا۔ عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تو یہی بات کرنے آیا تھا۔ امیر معاویہ نے کہا عمرو کے بھائی کو رقم دے دو اور عمرو کیلئے بھی ویسی ہی تھیلی لاؤ۔

اس طرح معاویہ نے ایک طرف ڈنڈے اور دوسری طرف پیسے کے زور سے یزید کی بیعت لی۔

یزید کی بیعت کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی رائے یزید کی بیعت گنتی کے چند صحابہ نے کی تھی۔ ان کا موقف امام ابن عبدالبر نے ”التمہید ج: 16، ص: 354-355، پر بیان کیا ہے۔

وہب بن کیسان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ صحابی رضی اللہ عنہ سے سنا کہ جب مسلم بن عقبہ (مسرف بن عقبہ) مدینہ آیا تو مختلف قبیلے آ کر بیعت کرنا شروع ہوئے۔ قبیلہ بنو سلمہ نے بھی بیعت کر لی مگر میں نہ گیا۔ مسلم بن عقبہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیعت پر اصرار کیا اور قتل کی دھمکی دی۔ قبیلہ والوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اس کے مطالبہ کا ذکر کیا۔ حضرت جابر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور ان سے مشورہ مانگا۔ ام المومنین نے کہا خدا کی قسم یہ بیعت ضلالت ہے (مگر اسی کے بیعت) مگر میں نے مجبوراً اپنے بھتیجے عبد اللہ کو بھی بیعت کا مشورہ دیا ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس بات سے میں سمجھا وہ اپنے بھتیجے کی اور میری جان

بچانا چاہ رہی ہیں لہذا میں گیا اور میں نے بیعت کر لی۔ اگر بیعت کرنا ہی سب کچھ ہو تو لوگوں نے تو مختار ثقفی کی بھی بیعت کی تھی جیسا کہ التہمید ج: 16، ص: 355 پر لکھا ہے۔

ساک بن حرب کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک آدمی جس نے مختار ثقفی کی بیعت کی تھی، پوچھا کہ ہم نے اس آدمی (مختار) کی بیعت کی ہے۔ اس میں کوئی نقصان تو نہیں؟ ساک بن حرب نے کہا جیسے اس پتھر کی بیعت ہے، ویسے ہی اس مختار کی بیعت ہے یعنی بے اثر ہے کیونکہ یہ زبردستی کی بیعت ہے، بیعت تو دل میں ہوتی ہے۔ اگر تو دل سے اس بات کا منکر ہو جو وہ حکمران کہہ رہا ہے تو ایسی بیعت کا کوئی حرج نہیں۔

مصر کے مشہور سلفی عالم علامہ سید رشید رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ (صاحب تفسیر المنار) اپنی کتاب الخلافۃ الامامۃ العظمیٰ میں ص: 46-47 پر لکھتے ہیں:

یزید کیلئے معاویہ کی طرف سے نامزدگی کو بھلا کوئی صاحب عقل اور اہل علم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عمل پر قیاس کر سکتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مصلحت اور حق و عدل کے پیش نظر اہل حل و عقد کے مشورہ اور رضا مندی کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو نامزد فرمایا تھا۔ اور فاسق و فاجر یزید کی نامزدگی کیلئے ایک طرف قوت و طاقت سے کام لیا گیا تو دوسری طرف بڑے بڑے لوگوں کو عہدوں کی رشوت کے ذریعہ راضی کرنے کی کوشش کی گئی اس کے بعد بری بدعات یکے بعد دیگرے ظہور میں آتی رہیں۔ اہل جو روح نے طاقت حاصل کر لی اور امامت کو اولاد رشتہ داروں کیلئے دیگر مال و متاع کی طرح وراثت اور ترکہ بنا دیا۔ حالانکہ یہ طریقہ کار تعصب پر مبنی ہے جو ہدایت قرآنی اور سنت اسلام کے منافی ہے۔

علامہ رشید رضا ص: 61 پر لکھتے ہیں:

مسلمانوں کا سب سے زیادہ نقصان اس مسئلہ نے کیا ہے جو علماء نے اپنا لیا کہ حکومت پر زبردستی قبضہ کرنے والے کی اطاعت شرعاً فرض ہے اور جو اس سے روگردانی کرے گا وہ مجرم ہوگا۔ جو اصل الاصول تھا کہ حکومت حاصل کرنے کے لئے کوئی کوشش نہ کرے، اس اصول کی بجائے یہ کلیہ بنالیا کہ مغلوب بھی شرعی حاکم ہے۔ بادشاہت کو اپنے خاندان میں محصور کر دینے کیلئے جب باغیوں کی اپنی اولاد میں سے کسی کی نامزدگی اور تعین کا حق شرعی بنادیا گیا۔ تو حضرت ابو بکرؓ کے عمرؓ کو نامزد کرنے اور معاویہ کے یزید کو نامزد کرنے میں کوئی فرق محسوس نہیں کیا گیا جبکہ ایک نے اپنے فاسق بیٹے یزید کو مسلمانوں کی رائے کے برعکس جانشین مقرر کیا تو دوسرے (یعنی ابو بکرؓ) نے ارباب حل و عقد سے مشورہ اور ان کی رضا جوئی کے بعد بے شمار فضائل کے حامل امام عادل عمرؓ کو اپنا جانشین منتخب کیا تھا۔

وہ آگے ص: 62 پر لکھتے ہیں:

”معاویہ نے ایسے فاسق بیٹے یزید کیلئے طاقت اور رشوت کے ذریعے بیعت لی تو حجاز ہی وہ سرزمین تھی جہاں انہیں قولاً یا عملاً مقابلہ کرنا پڑا۔“

بنو امیہ کا یہ جرم معاف نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے اسلامی حکومت کا بنیادی اصول ہی بدل دیا۔ وہ اصول مشورے سے خلیفہ کا انتخاب بذریعہ اہل حل و عقد تھا۔ اس اصول کی بجائے بنو امیہ نے نیا اصول بنایا کہ طاقت ہی حق ہے یعنی (MIGHT IS RIGHT)، بنو امیہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرعی اصول کو برباد کر دیا اور ان کے بعد آنے والوں نے ان کی پیروی کی۔ مولانا عبدالحی لکھنوی اپنی کتاب التعلیق الممجد ج: 3 ص: 259 پر لکھتے ہیں:

”معاویہ نے عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کو ایک لاکھ درہم بھیجے جو انہوں نے واپس کر دیے اور کہا میں اپنا دین دنیا کے عوض نہیں بیچ سکتا۔“

امام بخاری کے استاد خلیفہ بن خیاط کی تاریخ چھپ گئی ہے۔ وہ ص: 214-215 پر لکھتے ہیں:

ہم سے وہب نے اس سے ابی الحرب نافع نے بیان کیا کہ معاویہ نے عبداللہ بن عمرؓ کے بارے میں خطبہ دیا اور کہا خدا کی قسم، یا تو عبداللہ بن عمرؓ یزید کی بیعت کرے ورنہ ضرور بالضرور میں اسے قتل کر دوں گا۔ عبداللہ بن عمرؓ کے بیٹے عبداللہ تین دن کا سفر کر کے مکہ گئے اور بتایا کہ معاویہ نے یہ اعلان کیا ہے۔ جب ابن عمرؓ نے سنا تو بہت روئے۔ یہی خبر عبداللہ بن صفوان صحابیؓ کو ملی۔ وہ ابن عمرؓ سے ملے اور پوچھا کیا معاویہ نے ایسا کہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، ابن صفوانؓ نے پوچھا کیا تمہارا معاویہ سے جنگ کا ارادہ ہے؟ ابن عمرؓ نے کہا صبر بہتر ہے۔ ابن صفوانؓ نے کہا تم جنگ کرو نہ کرو، اگر معاویہ نے تمہیں قتل کرنے کی کوشش کی تو میں اس سے جنگ کر دوں گا۔ جب معاویہ کے آئے تو ابن صفوانؓ نے ان سے مل کر پوچھا کہ تم کہتے ہو اگر ابن عمرؓ نے میرے بیٹے کی بیعت نہ کی تو تم اسے قتل کر دو گے۔ معاویہ مکر گئے اور کہا میں ابن عمرؓ کو قتل کروں گا؟ خدا کی قسم میں انہیں قتل نہیں کر دوں گا۔

زیاد کی وفات (53ھ) کے بعد جب امیر معاویہ نے یزید کو ولی عہد بنانے کا فیصلہ کر لیا تو با اثر لوگوں کی رائے ہموار کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس سلسلہ میں انہوں نے عبداللہ بن عمرؓ کو ایک لاکھ درہم بھیجے اور یزید کی بیعت کیلئے راضی کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ روپیہ اس مقصد کیلئے بھیجا گیا تھا، پھر تو میرا دین بڑا ہی سستا ہو گیا۔“ یہ کہہ کر انہوں نے روپیہ لینے سے انکار کر دیا۔

(ابن حجرؒ: فتح الباری، کتاب الفتن ج: 13، ص: 70، ابن اثیرؒ: الکامل ج: 3، ص: 250، ابن کثیرؒ، البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 89، امام نووی شارح مسلم فی تہذیب الاسماء و اللغات، سیر اعلام النبلاء، ذہبی، ج: 3، ص: 158)

اسی طرح دوسرے چوٹی کے آدمی حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کو بھی بیعت یزید پر راضی کرنے کیلئے ایک لاکھ درہم بھیجے جو انہوں نے واپس کر دیے اور فرمایا میں اپنا

دین دنیا کے عوض نہیں بیچ سکتا۔

پھر امیر معاویہ نے مدینہ کے گورنر مروان بن الحکم کو لکھا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی ہی میں جانشین مقرر کر دوں، لوگوں سے پوچھو کہ جانشین مقرر کرنے کے معاملہ میں وہ کیا کہتے ہیں۔ مروان کو پھر لکھا کہ میں نے جانشینی کیلئے یزید کو منتخب کیا ہے۔ مروان نے پھر یہ معاملہ اہل مدینہ کے سامنے رکھ دیا اور مسجد نبویؐ میں تقریر کرتے ہوئے کہا ”امیر المؤمنین نے تمہارے لیے مناسب آدمی تلاش کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی اور اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو جانشین بنایا ہے۔ یہ بہت اچھی رائے ہے جو اللہ نے ان کو بھائی ہے۔ اگر وہ اس کو جانشین مقرر کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ابو بکرؓ و عمرؓ نے بھی جانشین مقرر کئے تھے۔

اس پر حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ اٹھے اور انہوں نے کہا:

”اے مروان! تم جھوٹ بولتے ہو اور معاویہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ تم نے ہرگز امت محمدیہؐ کی بھلائی نہیں سوچی۔ تم اسے قیصریت بنانا چاہتے ہو کہ ایک قیصر مرا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا آ گیا۔ یہ سنت ابو بکرؓ و عمرؓ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد میں سے کسی کو جانشین نہیں بنایا تھا۔“

مروان نے کہا پھر اس شخص کو یہی ہے وہ جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا:

”اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا اے تم پر! تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے اٹھایا جاؤں گا حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ دونوں خدا کی جناب میں فریاد کرتے تھے کہ تم نے ہم کو کم ایمان لا۔ خدا کا وعدہ سچا ہے۔ تو کہنے لگا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔“

(الاحقاف: 17/44)

”حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ نے بھاگ کر حضرت عائشہؓ کے حجرے میں پناہ لے لی۔ حضرت عائشہؓ بولیں کہ مروان نے جھوٹ کہا! ہمارے خاندان کے کسی

فرد کے بارے میں یہ آیت نہیں آئی ہے بلکہ ایک اور شخص کے بارے میں آئی ہے جس کا نام میں چاہوں تو بتا سکتی ہوں۔ البتہ مروان کے باپ پر رسول اللہ ﷺ نے لعنت کی تھی جبکہ مروان ابھی اس کی صلب میں تھا۔

”اس موقع پر مروان نے منبر سے اتر کر ام المؤمنین عائشہؓ سے سخت

کلامی کی اور انہوں نے اس کو ویسے ہی جواب دیئے تو آخر واپس چلا گیا۔“

(فتح الباری، ج: 8، ص: 577)

اس مجلس میں حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کی طرح حضرت حسین بن علیؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے بھی یزید کی ولی عہدی ماننے سے انکار کر دیا۔ (تفسیر ابن کثیر، ج: 4، ص: 159، زیر آیت ہذا، امام ابن حجر، فتح الباری، ج: 8، ص: 516-517، حدیث نمبر 4827)

اس واقعہ کا مختصر ذکر بخاری کتاب التفسیر، تفسیر سورہ احقاف میں ہے۔ امام ابن حجر نے فتح الباری ج: 8 میں حدیث نمبر 4827 کے تحت اس کی تفصیلات نسائی، اسماعیلی، ابن المنذر، ابویعلیٰ اور ابن ابی حاتم سے نقل کیں۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ابن ابی حاتم اور نسائی کے حوالہ سے اس کی بعض تفصیلات کو نقل کیا ہے۔

(مزید تشریح کے لئے ملاحظہ ہو، الاستیعاب ج: 2، ص: 393، البدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 89، الکامل

ابن اثیر ج: 3، ص: 250)

امام ابن اثیرؒ لکھتے ہیں:

”بعض روایات کی رو سے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کا انتقال 53ھ

میں ہو چکا تھا۔ اس لیے اگر یہ صحیح ہے تو وہ اس موقع پر موجود نہیں ہو سکتے۔“

لیکن حدیث کی معتبر روایات اس کے خلاف ہیں اور البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر

بتاتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کا انتقال 58ھ میں ہوا ہے۔

اس واقعہ کے بعد وہ مکہ چلے گئے تھے پھر وہاں بھی امان نہ پا کر مکہ سے دس

میل دور حبشی پہاڑ پر چلے گئے جہاں ان کی موت پر سر حالات میں ہوئی اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک مدت تک خیال رہا کہ عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے۔ (متدرک حاکم ج: 3، ص: 476)

اسی زمانہ میں امیر معاویہ نے مختلف علاقوں سے وفود بھی طلب کئے اور یہ معاملہ ان کے سامنے رکھا۔ لوگ جواب میں خوشامداندہ تقریریں کرتے رہے مگر حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ امیر معاویہ نے کہا ”ابو بکر، تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم سچ کہیں تو آپ کا ڈر ہے، جھوٹ بولیں تو خدا کا ڈر ہے۔ آپ یزید کے شب و روز، خلوت و جلوت، آمد و رفت، ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، اگر آپ اس کو اللہ اور اس امت کیلئے واقعی پسندیدہ جانتے ہیں تو اس کے بارے میں کسی سے مشورہ نہ کیجئے اور اگر آپ کے علم میں وہ اس سے مختلف ہے تو آخرت کو جاتے ہوئے دنیا اس کے حوالے کر کے نہ جائیے۔ رہے ہم تو ہمارا کام تو بس یہ ہے جو حکم ملے اس پر سمعنا اور اطعنا کہہ دیں۔

(الکامل ابن اثیر ج: 3، ص: 250-251، البدایہ والنہایہ ابن کثیر ج: 8، ص: 80)

عراق، شام اور دوسرے علاقوں سے بیعت لینے کے بعد امیر معاویہ خود حجاز گئے کیونکہ وہاں کا معاملہ سب سے اہم تھا اور دنیائے اسلام کی وہ بااثر شخصیات جن سے مزاحمت کا اندیشہ تھا وہیں رہتی تھیں۔ مدینے کے باہر حضرت حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ ان سے ملے۔ امیر معاویہ نے ان سے ایسا درشت برتاؤ کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مکے چلے گئے۔ اس طرح مدینے کا معاملہ آسان ہو گیا۔ پھر امیر معاویہ نے مکے کا رخ کیا اور ان چاروں اصحاب کو خود شہر کے باہر بلا کر ان سے ملے۔ اس مرتبہ ان سے برتاؤ اس سے برعکس تھا۔ جو مدینے کے باہر ان سے کیا تھا۔ ان پر بڑی مہربانیاں کیں۔ انہیں اپنے ساتھ لئے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ پھر تحفے میں بلا کر انہیں یزید کی بیعت پر راضی کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تجویز پیش کی کہ آپ تین کاموں سے ایک کام کیجئے یا تو نبی ﷺ کی طرح کسی کو جانشین نہ

بنائیے۔ لوگ خود اسی طرح کسی کو خلیفہ بنالیں گے جس طرح انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا۔ یا پھر وہ طریقہ اختیار کیجئے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہ اپنی جانشینی کیلئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص کو مقرر کیا جن کے ساتھ ان کا کوئی دور کارشتہ بھی نہ تھا۔ یا پھر وہ طریقہ اختیار کیجئے، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا کہ چھ آدمیوں کی شوریٰ تجویز کی اور اس میں ان کی اولاد میں سے کوئی شامل نہ تھا۔

امیر معاویہ نے باقی حضرات سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے۔ اس پر امیر معاویہ نے کہا ”اب تک میں تم لوگوں سے درگزر کرتا رہا ہوں۔ اب میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی نے میری بات کے جواب میں ایک لفظ بھی کہا تو دوسری بات اس کی زبان سے نکلنے کی نوبت نہ آئے گی، تلوار اس کے سر پر پہلے پڑ چکی ہوگی۔

پھر اپنے باڈی گارڈ دستے کے افسر کو بلا کر حکم دیا کہ ان میں سے ہر آدمی پر ایک ایک آدمی مقرر کر دو اور اسے تاکید کر دو کہ ان میں سے جو بھی میری بات کی تردید یا تنہید میں زبان کھولے، اس کا سر قلم کر دوے۔

اس کے بعد امیر معاویہ ان چاروں کو لے کر مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ یہ مسلمانوں کے سردار اور بہترین لوگ ہیں، جن کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جاتا، یزید کی ولی عہدی پر راضی ہیں اور انہوں نے بیعت کر لی ہے، لہذا تم لوگ بھی بیعت کر لو۔

اب لوگوں کی طرف سے انکار کا کوئی سوال ہی باقی نہ تھا۔ اہل مکہ نے بھی بیعت کر لی۔“

(الکامل ابن اثیر ج: 3، ص: 252)

امام سیوطی کہتے ہیں کہ یزید کو ان کے والد نے اپنی زندگی میں ولی عہد مقرر کیا تھا اور

(تاریخ الخلفاء (اردو) ص: 255)

لوگوں کو مجبور کر کے بیعت لی۔

اس طرح خلافت راشدہ کے نظام کا آخری اور قطعی طور پر خاتمہ ہو گیا۔ خلافت کی جگہ شاہی خانوادوں (Dynasties) نے لے لی اور مسلمانوں کو اس کے بعد سے آج تک پھر اپنی مرضی کی خلافت نصیب نہ ہو سکی۔

اسلام کا طریقہ بیعت

اسلام میں بیعت اقتدار کا نتیجہ نہیں ہوتی بلکہ اس کا سبب ہوتی ہے بیعت حاصل ہونے میں آدمی کی کسی کوشش یا سازش کا دخل نہ ہو۔ لوگ بیعت کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں پوری طرح آزاد ہوں۔ جب تک کسی شخص کو بیعت حاصل نہ ہو وہ برسر اقتدار نہ آئے اور جب لوگوں کا اعتماد اس پر سے اٹھ جائے تو وہ اقتدار سے چمٹا نہ رہے۔ اسلام میں بیعت مانگی نہیں جاتی بلکہ بیعت کی جاتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ نے زندگی بھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی مگر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نہ ان سے کبھی بیعت مانگی اور نہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے 6 ماہ تک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہ کی۔ مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کوئی ایکشن نہ لیا۔

جبر و اکراہ خدا کے نزدیک اتنا پسند ہے کہ اس نے سچا دین منوانے کیلئے بھی جبر پسند نہ کیا بلکہ انسانوں کو دونوں راستے سمجھا کر اپنی آزاد مرضی سے فیصلہ کرنے کیلئے چھوڑ دیا چاہے وہ کفر کرے چاہے ایمان لائے۔ جبر اتنا پسند ہے کہ اگر جبر کے تحت کسی کو کلمہ کفر بھی کہنا پڑے اور دل اسلام پر مطمئن ہو تو اس کا کلمہ کفر بھی معاف ہے۔ سورۃ الانعام نمبر 6 کی آیت نمبر 35 میں فرمایا گیا اگر خدا (زبردستی کرنا) چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ اگر جبر و اکراہ سے مسلمان بنانا درست نہیں تو اس طرح حکومت سنبھالنا کب جائز ہو سکتا ہے۔ سورہ نور: 23/24 میں فرمایا کہ جو عورت زنا پر مجبور کی گئی تو خدا بخشنے والا ہے۔ حاکم اگر ولی بھی ہو تب بھی اس کا زبردستی حکومت سنبھالنا بہت بڑا جرم ہے کیونکہ ارادہ و عمل کی آزادی سے تو انسان کو خدا نے بھی محروم نہیں کیا مگر اس نے کر دیا۔ جبر و اکراہ اسلام میں ہی نہیں پوری دنیا کے ہر قانون میں بہت بڑا جرم ہے۔

واقعہ کربلا جبر و اکراہ کے خلاف بغاوت ہے کہ کسی کو یہ حق نہیں کہ امت پر اپنی مرضی زبردستی ٹھونے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے بھی امیر معاویہ سے اسی لیے معاہدہ صلح کیا تھا کہ ان کو قفری ہینڈ دے کر امت پر ان کا جبر واضح کر دیا جائے۔

امیر معاویہ اور ان کی پالیسی پر علماء اسلام کی رائے

(1) امام ابن حزم رضی اللہ عنہ ظاہری اموی

اہل حدیثوں کے امام اپنی کتاب المحلی میں لکھتے ہیں: ”خدا علی و ابن زبیر رضی اللہ عنہما پر لعنت کرنے والوں پر لعنت کرے۔“ (المحلی ج 5، ص 64)

(2) مولانا ابوالکلام آزاد رضی اللہ عنہ

ان کے اخبار الہلال کی مکمل فائل کی ج 2، ص 6 پر اسلامی حکومت کے بارے میں آزاد لکھتے ہیں:

”ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر قیامت کے دن دنیا کے ظالموں کی مصروف، عام فساد و فحار سے الگ قرار دی جائیں گے تو ان میں سب سے پہلی صف یقیناً بنی امیہ کی ہوگی۔ انہی ظالموں نے اسلام کی اس روح حریت کو غارت ظلم و استبداد کیا اور اس کے عین عروج اور نشوونما کے وقت اس کی قوت نمونہ کو اپنی اغراض شخصہ کے نیچے کچل ڈالا، ان کا اقتدار و تسلط فی الحقیقت امر بالمعروف کے سد باب کا پہلا دن تھا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اسلام کی جمہوریت کی روح کو غارت کر کے اس کی جگہ شخص حکومت کی بنیاد ڈالی، جو یقیناً اعتقاد قرآنی کی رو سے کفر جلی تھا بلکہ سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ اظہار حق اور امر بالمعروف کو تلوار کے زور سے دبا دینا چاہا۔

آگے لکھتے ہیں:

”بنی امیہ کا سب سے بڑا ظلم جو انہوں نے اسلام پر کیا وہ یہ تھا کہ خلافت

راشدہ اسلامیہ کی بنا جو اجماع و مشورہ مسلمین پر تھی، اس کو حکومت شخصی و متبدلہ و سلطنت ملکیہ سیاسیہ میں تبدیل کر دیا اور حکومت کی بنیاد شریعت پر نہیں رکھی بلکہ محض قوت و سیاست (یعنی Might is right) پر رکھی۔“

الہلال کی تیسری جلد میں مولانا آزاد عشرہ مجرم کے تحت مضمون میں لکھتے ہیں:

”بنو امیہ کی حکومت ایک غیر شرعی حکومت تھی۔ کوئی حکومت جس کی بنیاد جبر و شخصیت پر ہو، کبھی بھی اسلامی حکومت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اسلام کی روح حریت و جمہوریت کو غارت کیا اور مشورہ و اجماع امت کی جگہ محض غلبہ جابرانہ اور مکر و خدع پر اپنی حکومت کی بنیاد رکھی۔ ان کا نظام حکومت شریعت الہیہ نہ تھا بلکہ محض اغراض نفسانیہ و مقاصد سیاسیہ تھا۔ ایسی حالت میں ضرور تھا کہ ظلم و جبر کے مقابلہ کی ایک مثال قائم کی جائے اور حق و حریت کی راہ میں جہاد کیا جاتا۔ حضرت سید الشہداء نے اپنی قربانی کی مثال قائم کر کے مظالم بنی امیہ کے خلاف جہاد حق کی بنیاد رکھی اور جس حکومت کی بنیاد ظلم و جبر پر تھی اس کی طاعت و وفاداری سے انکار کر دیا۔“

اہل حدیث عالم مولانا محمد شفیق پسروری نے اسلام اور جمہوریت نامی اپنی کتاب کے ص: 157-158، پر مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک اقتباس نقل کیا جو کہ فتوح الشام ازودی کے حوالہ سے مولانا نے لکھا:

”اس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی دربار روم میں کی گئی تقریر لکھنے کے بعد مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ”اللہ بنو امیہ سے انصاف کرے جنہوں نے اسلام کی اس مقدس تصویر مساوات کو اپنی کثافت سے ملوث کر دیا اور اس کی بڑھتی ہوئی قوتیں عین دور عروج میں پامال مقلیدہ استبداد ہو کر رہ گئیں۔“

(3) امام صالح بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ یحییٰ بنی رحمۃ اللہ علیہ

یہ یمن کے اہل حدیث عالم تھے اور یمن سے ہجرت کر کے مکہ آ گئے تھے۔ وہ اپنی کتاب

العلم الشامخ فی ایثار الحق علی الآباء و المشائخ میں ص: 238 پر لکھتے ہیں:

”امیر معاویہ حکومت کے لالچی اور دنیا کے طالب تھے اور اس کیلئے ہر مکر و فریب روا رکھا اور یزید کی بیعت سے آخری کیل بھی ٹھوکنے دیا۔ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے اجتہاد کیا، نیک نیتی سے غلطی کھا گئے، تو یہ لوگ یا تو جاہل ہیں یا گمراہ ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ! میں تجھ کو اس عقیدہ پر گواہ بنانا ہوں۔“

(4) علامہ رشید رضا مصری صاحب المنار

یہ مصر کے مشہور اہل حدیث عالم تھے۔ وہ اپنی کتاب الخلافة - الامامة العظمیٰ کے ص: 62 (اردو) پر لکھتے ہیں:

امیر معاویہ نے اپنے فاسق بیٹے یزید کیلئے طاقت اور رشوت کے ذریعے بیعت لی۔

(5) مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت والے

یہ بانی تبلیغی جماعت محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور جماعت کے دوسرے امیر تھے۔ انہوں نے کتاب شرح المعانی الآثار کی شرح امانی الاحبار کے نام سے لکھی ہے۔ اس کی ج: 4، ص: 252 پر مولانا لکھتے ہیں:

”انسانوں سے تقیہ کوئی انہونی بات نہیں نہ اس سے دین میں کوئی خرابی آتی ہے۔ تقیہ کا جو معنی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے وہ دین میں حرام نہیں بلکہ کئی موقعوں پر جائز ہوتا ہے۔ کیا اس معترض (اہل حدیث عالم) کو معلوم نہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاص ساتھیوں میں سے تھے۔ یہ حضرت علی کے وہ اصحاب تھے جو امیر معاویہ کو بہت غلط جانتے تھے اور اس سے بغض رکھتے تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں امیر معاویہ سے جنگیں لڑتے رہے مگر بعد میں انہوں نے تقیہ کے طور پر امیر معاویہ

کی بیعت کر لی۔ زیادہ نے ڈر کے مارے اور کچھ نے راضی ہو کر بیعت کی۔ اور اسی طرح اس کے بیٹے یزید کی بیعت بھی تقیہ کے طور پر کی تھی۔“

(6) امام ابو بکر ہصا ص رضی اللہ عنہ (حنفی) مجتہد

امام اپنی تفسیر احکام القرآن ج: 1 ص: 71 پر لکھتے ہیں:

”حسن بصری رضی اللہ عنہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما وغیرہ تابعین کے سردارانِ عالموں سے وظیفے لیتے تھے مگر ان سے محبت نہیں رکھتے تھے نہ وہ ان کی حکومت مانتے تھے۔ وہ وظیفے اس لیے لیتے تھے کہ یہ بیت المال میں ہمارے حقوق ہیں۔ پھر یہ لوگ حجاج بن یوسف کے مقابلے میں اٹھے اور چار ہزار عالم میدان میں آ گئے۔ وہ سارے تابعین میں نیک لوگ اور فقیہ تھے۔ انہوں نے عبدالملک کی بیعت توڑ دی اور وہ اس پر لعنت کرتے تھے، اس سے براءت کا اظہار کرتے تھے۔ اس سے پہلے لوگ معاویہ کے ساتھ یہی معاملہ کرتے تھے (یعنی نہ کوئی اس کو خلیفہ مانتا تھا نہ اس سے محبت کرتا تھا)۔ وہ جب علی کے قتل کے بعد بروقتی حکمران بن گیا تو حسن و حسین رضی اللہ عنہما بھی اس سے عطیے لیتے تھے اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی لیتے تھے۔ ان میں سے کوئی معاویہ سے محبت نہیں کرتا تھا بلکہ اس سے براءت کا اظہار کرتے تھے۔ جیسے علی رضی اللہ عنہ معاویہ کو باغی جانتے تھے اسی طرح صحابہ بھی اس کو باغی جانتے تھے۔ تو ظالم حاکموں سے وظیفہ لینا، ان کی ملازمت کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ لوگ ان کو خلیفہ برحق مانتے تھے۔“

(7) امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صاحب فتح الباری شرح بخاری

امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری ج: 12 ص: 392 پر لکھتے ہیں:

”ہم معاویہ کو جو خلیفہ کہتے ہیں تو یہ لغوی معنوں میں ہے ورنہ خلافت علی منہاج النبوة 30 سال تک تھی۔ معاویہ اور ان کے بعد آنے والوں کو لوگ بے شک خلیفہ کہہ دیتے ہیں مگر ان کا طریقہ بادشاہوں (ملوک) کا تھا۔“

(8) نواب سید صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ

اہل حدیث حضرات کے امام نواب صدیق حسن خاں بھوپالی اپنی کتاب (بُغْيَةُ الرَّائِدِ فِي شَرْحِ الْعُقَائِدِ ص: 100) پر لکھتے ہیں:

”معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لڑائیاں لڑیں، وہ نفسانیت اور اپنی غرض کی خاطر تھیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اجتہادی خطا تھی تو انصاف پسند لوگ اس کو نہیں مان سکتے۔“

نواب صاحب اپنی ایک اور کتاب ہدایۃ المسائل الی ادلة المسائل ص: 510 پر لکھتے ہیں: مروان کا ظلم رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا اجتہادی خطا نہیں تھی۔ مروان کا ظلم رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا اسی طرح تھا جیسا کہ معاویہ کے کمر توڑ دینے والے کاموں کو کہتے ہو کہ وہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ سے بغاوت کرنے میں مجتہد تھا۔

(9) پروفیسر یوسف سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ

آپ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے شارح بھی ہیں۔ وہ امرغانِ حجاز کے ترجمہ و تشریح میں ص: 84 پر لکھتے ہیں:

”اسلام میں خلافت کا دور صرف 30 سال تک رہا، 41ھ میں خلافت کی جگہ ملوکیت قائم ہو گئی یعنی عمرانی نظام کی حیثیت سے اسلام ہمیشہ کیلئے فنا ہو گیا۔ ہاں مذہب کی حیثیت سے ضرور باقی رہ گیا یعنی روح تو 41ھ میں نکل گئی لیکن لاشہ بے جان ابھی تک موجود ہے۔“

(10) امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ

آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاویہ نے چار وہ کام کئے کہ ان میں سے ایک بھی ہلاکت کیلئے کافی تھا۔

(1) اس امت پر تلوار سونت لینا اور مشورے کے بغیر حکومت پر قبضہ کر لینا حالانکہ امت میں صحابہ موجود تھے۔

(2) اپنے بیٹے یزید کو جانشین بنانا حالانکہ وہ شرابی اور نشہ باز تھا، ریشم پہنتا تھا اور طنبورے بجاتا تھا۔

(3) زیاد کو اپنا بھائی بنانا حالانکہ نبی ﷺ کا صاف حکم موجود تھا کہ اولاد اس کی ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا اور زانی کیلئے پتھر ہیں۔

(4) حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ اور ان ساتھیوں کو قتل کر دینا۔ ہائے حجر کا قتل!

(امام ابن اثیر: الکامل ج: 3، ص: 242، ابن کثیر الہدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 130)

آپ کا قول نے امام ذہبی رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے: ”اگر یزید ولی بھی ہوتا تو بھی اس کو خلیفہ بنانا غلط تھا۔ اس سے امت میں بری رسم نے جنم لیا۔ کہ ہر مرنے والا اپنے بیٹوں کو ولی عہد بنادے۔“ (سیر اعلام النبلاء ج: 4، ص: 318)

(11) مولانا عبدالرحمن مبارکپوری رضی اللہ عنہ

مشہور اہل حدیث عالم مولانا عبدالرحمن مبارکپوری رضی اللہ عنہ ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی ج: 3، ص: 230 پر لکھتے ہیں:

”حضرت سفینہ صحابی رضی اللہ عنہا نے کہا معاویہ پہلا بادشاہ ہے اور خلافت نبوت سے مراد خلافت کاملہ لی جاتی ہے اور صرف پانچ اشخاص (سیدنا حسن علیہ السلام سمیت) میں منحصر ہے لہذا جب حدیث میں 12 خلفاء کا ذکر آئے تو وہ اس کے خلاف نہیں کیونکہ اس حدیث میں مطلق حکمرانوں کی بات ہے۔“

(12) سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ

امام احمد شین سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام میں کوئی عیب نہ تھا اور معاویہ میں کوئی خوبی نہ تھی۔

(ابن کثیر بحوالہ علی ابن المدائنی: الہدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 141)

(13) قاضی شریک رضی اللہ عنہ (متوفی 177ھ)

یہ مہدی باللہ عباسی کے زمانہ میں بغداد کے قاضی تھے۔ ان سے کسی نے کہا

معاویہ بہت حلیم تھے۔ قاضی شریک نے کہا کہاں کا حلیم؟ جو شخص حق سے نادان بن جائے اور علی علیہ السلام سے جنگ کرے وہ حلیم نہیں ہو سکتا۔

(عمر بن مظفر الوردی فی کتاب تیمہ المختصر فی اخبار البشر بحوالہ ارجح المطالب ص: 592)

(14) امام بخاری رضی اللہ عنہ

آپ نے اپنی صحیح میں کتاب المناقب میں ذکر معاویہ کے نام سے باب ضرور باندھا مگر کوئی ایک حدیث بھی ان کی فضیلت کی نہیں لکھی۔ دور روایات وتر کے متعلق اور ایک عصر کے بعد کی روایتوں کے متعلق لکھی ہیں۔

(ج: 5، ص: 2949)

(15) علامہ وحید الزماں حیدر آبادی رضی اللہ عنہ

آپ نے بخاری و مسلم وغیرہ حدیث کی کتابوں کا ترجمہ و تشریح لکھی۔ وہ بخاری کتاب المناقب ذکر معاویہ کے تحت لکھتے ہیں کہ امام نسائی اور اتحق بن راہویہ نے کہا معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہوئی۔ (ج: 5، ص: 90)

بخاری کتاب الفتن باب اذا قال عند قوم شیئا ثم خرج فقال بخلافہ

کی پہلی حدیث کی شرح میں علامہ وحید الزماں رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں

”یزید نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوایا دیا اور ان کی وفات پر (معاویہ) بہت خوش ہوئے بلکہ یہ کہا امام حسن علیہ السلام ایک انگارہ تھے جس کو اللہ نے بچھا دیا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ بھی اس سازش میں شریک اور رازدار تھے۔ اس پر طرہ یہ کیا کہ آپ کو حسین حیاتی وہ بھی مستعار خلافت کا حق حاصل تھا آپ کو کیا اختیار تھا کہ عہد شکنی کر کے اپنے بیٹے کو خلافت دے جائیں۔ اگر معاویہ صحابی نہ ہوتے تو ہم ان کی شان میں بہت کچھ کہہ سکتے تھے۔ صحابیت کا ادب کر کے ہم سکوت کرتے ہیں۔“

(16) امام نسائی رحمہ اللہ

علامہ وحید الزمان بخاری کتاب المناقب باب ذکر معاویہ کی آخری روایت کے تحت لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے ایک مرفوع حدیث بھی معاویہ کی فضیلت میں بیان نہیں کی۔ ادھر ادھر کے تذکرے کر دیئے ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے ایک خاص کتاب خصائص کبریٰ جناب علی علیہ السلام کے فضائل میں مرتب کی تو خارجیوں نے ان پر بلوہ کیا (در اصل شامیوں نے کیا تھا) اور کہا معاویہ کی فضیلت میں بھی تم نے کوئی کتاب لکھی۔ انہوں نے کہا ان کی فضیلت کہاں سے آئی یا ان کی فضیلت میں تو کوئی حدیث صحیح نہیں ہوئی البتہ ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ ان کا پیٹ نہ بھرے۔ اس پر خارجی مردوں (شامیوں) نے امام نسائی کو گھونٹوں اور لاٹوں سے شہید کر ڈالا۔“

(17) امام مسلم رحمہ اللہ

ان کی صحیح مسلم بھی معاویہ کی فضیلت کے ذکر سے خالی ہے۔

(18) امام شوکانی رحمہ اللہ

ان کی کتاب نیل الاوطار اہل حدیث حضرات کی حرز جاں ہے۔ امام اس کتاب کی ج: 7، ص: 47-48-168 پر لکھتے ہیں کہ معاویہ باطل پر تھے انہوں نے حق کے ساتھ دشمنی کی۔

(19) شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ

صاحب تھتہ اثناء عشریہ لکھتے ہیں کہ علماء ماوراء النہر اور مفسرین اور فقہا کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے حرکات جنگ و جدل جو حضرت علی علیہ السلام مرتضیٰ کے ساتھ ہوئیں، وہ صرف خطا و اجتہاد کی بنا پر تھیں۔ محققین اہل حدیث نے بعد تتبع روایت دریافت کیا ہے کہ یہ حرکات شائبہ نفسانی سے خالی نہ تھے۔ اس تہمت سے خالی نہیں کہ جناب ذی النورین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملہ

میں جو تعصب امویہ و قریشیہ میں تھا، اس کی وجہ سے یہ حرکات حضرت معاویہ سے وقوع میں آئے جس کا غایت نتیجہ یہی ہے کہ وہ مرتکب کبیرہ و باغی قرار دیئے جائیں۔ و الفاسق لیس با اهل اللعن یعنی فاسق قابل لعن نہیں۔ تو اگر برا کہنے سے مراد اس قدر ہے کہ ان کے اس فعل کو برا کہنا چاہیے تو بلاشبہ اس امر کا ثبوت محققین پر واضح ہے۔ (فتاویٰ عزیزی کامل ص: 380-381)

(20) مولانا عبدالشکور لکھنوی مناظر اہل سنت

اس لڑائی (جنگ صفین) کے متعلق اہل سنت کا فیصلہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام مرتضیٰ برحق تھے اور معاویہ اور ان کے ساتھ والے خاطی و باغی۔“ (خلفائے راشدین ص: 111)

(21) مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ دیوبندی

آپ ہدایۃ الشیعہ میں تحریر فرماتے ہیں:

”معاویہ کا محاربہ حضرت امیر کے ساتھ جوا ہوا تو اہل سنت اس کو کب بھلا اور جائز کہتے ہیں؟ ذرا کوئی کتاب اہل سنت کی دیکھی ہوئی۔ اہل سنت ان کو اس فعل میں خاطی کہتے ہیں۔“ (ہدایت الشیعہ ص: 30)

(22) سید مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ

ملوک بنو امیہ، جنہوں نے اسلام کے نظریہ خلافت کو یکسر مسترد کر کے اپنی ساری سیاسی بازی گریوں کا محور اس نصب العین کو بنالیا تھا کہ بخت و اتفاق سے جو حکومت ان کے ہاتھ لگ گئی ہے اس کا تسلسل ان ہی کے خاندان میں باقی رہے۔ پھر اس نصب العین کے تحت جن ناکردنیوں کے ارتکاب پر آمادہ ہوئے ان سے کون ناواقف ہے۔ (مناقب الخوارزمی ج: 1، ص: 170)

(23) مولانا عبید اللہ انور دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ

آپ جمعیۃ العلماء اسلام (ہزاروی گروپ) کے امیر تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ کے گرد دنیا پرست لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت جمع ہو چکی تھی۔ یہ لوگ صرف اپنی دنیا طلبی کیلئے ہر جائز و ناجائز فعل پر ہر وقت آمادہ رہتے تھے۔

خلفائے راشدین کی سنت یہ ہے کہ مسلمانوں کی مجلس شوریٰ خلیفہ منتخب کرے۔ مگر امیر معاویہ نے قیصر و کسریٰ کی سنت کے مطابق بادشاہت کا سلسلہ قائم کر دیا۔ (رسالہ خدام الدین لاہور 22 جون 1962)

(24) مولانا شاہ معین الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ

آپ لکھتے ہیں:

”امیر معاویہ تاریخ اسلام کے پہلے مطلق العنان اور مستبد بادشاہ ہیں۔ اس لیے ان کے عہد میں خلافت راشدہ کی جمہوریت اور اس کا طریق جہاں بانی تلاش کرنا بے سود ہے۔“ (غیر مہاجر و انصار صحابہ ج: 1، ص: 74)

(25) حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ

حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فضیل بن عیاض کا قول روایت کیا ہے:

”معاویہ صحابی اور علماء کبار میں سے ہیں لیکن وہ حب دنیا میں مبتلا ہو گئے۔“

(ابن کثیر، البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 140)

(26) مولانا محمد تقی عثمانی دیوبندی

آپ اپنے رسالہ البلاغ میں لکھتے ہیں:

”جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے کہ معاویہ کا یزید کو ولی عہد بنانا رائے تدبیر و نتائج کے اعتبار سے صحیح تھا یا غلط، اس میں ہمیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف نہیں ہے۔ جمہور امت کے محقق علماء ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ

حضرت معاویہ کا یہ فعل رائے اور تدبیر کے درجے میں نفس الامری کے طور پر درست ثابت نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے امت کے اجتماعی مصالح کو نقصان پہنچا۔“ (بحوالہ خلافت و ملکیت پر اعتراضات کا تجزیہ، ص: 293، ملک غلام علی)

(27) امام ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ

اشاعرہ (اہل سنت) کے عقیدہ میں امام ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا قول علامہ عبدالکریم شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الملل والنحل میں یوں نقل کیا ہے:

”ہم (اہل سنت) عائشہ رضی اللہ عنہا و طلحہ رضی اللہ عنہ و زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ نہیں کہتے کیونکہ انہوں نے اپنی غلطی سے رجوع کر لیا تھا اور طلحہ رضی اللہ عنہ و زبیر رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور ہم معاویہ و عمرو بن عاص کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ وہ دونوں باغی تھے جنہوں نے امام برحق کے خلاف بغاوت کی۔“

(ج: 1، ص: 145)

(28) امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ

اگر آپ (معاویہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ نہ کرتے اور اپنے اقتدار میں ملکیت کا طریقہ اختیار نہ کرتے تو کوئی شخص بھی ان کا ذکر اچھائی کے بغیر نہ کرتا جس طرح کہ آپ جیسے دوسرے صحابہ کرام کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔

(منہاج السنہ ج: 2، ص: 214)

”ابوسفیان میں جاہلیت عرب کے بقایا موجود تھے جن کی بنا پر وہ اپنے قبیلے کے سوا کسی دوسرے شخص کا امیر بننا پسند نہ کرتا تھا۔“

(منہاج السنہ ج: 3، ص: 169)

”صحابہ کرام و تابعین میں سے کسی نے بھی امیر معاویہ پر تو نفاق کی تہمت نہیں لگائی لیکن ابوسفیان کے معاملے میں ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا

(منہاج السنہ ج 4: ص 179)

ہے۔

(29) سید انور شاہ کشمیری دیوبندی رحمہ اللہ

”حضرت علی علیہ السلام اپنے تمام دور خلافت میں منہاج نبوت پر قائم رہے۔ حضرت معاویہ نے دوسرے طریقے استعمال کئے۔ زمانہ اور زمانے کے لوگوں کے حالات تیزی کے ساتھ خرابی کی طرف بڑھ رہے تھے، اس لیے خلافت علی منہاج النبوت سے زیادہ کامیابی دنیوی سیاست کیلئے مقدر ہو چکی تھی۔“

(انوار الباری شرح بخاری ج 2: ص 39، تالیف سید احمد رضا بخاری رحمہ اللہ شاگرد سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ)

(30) امام محمد بن ابراہیم الوزیری میمانی رحمہ اللہ

آپ اپنی کتاب ”العواصم والقواصم“ میں لکھتے ہیں:

”تمام اہل حدیث مانتے ہیں کہ معاویہ اور ان کے تمام ساتھی جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کی وہ حضرت علی علیہ السلام کے باغی تھے اور حضرت علی علیہ السلام حق پر تھے۔“

(بحوالہ نواب سید صدیق حسن خان۔ ہدایۃ المسائل الی ادلة المسائل ص: 510)

(31) مولانا امجد علی رحمہ اللہ بریلوی شاگرد مولانا احمد رضا خاں بریلوی رحمہ اللہ

آپ اپنی کتاب بہار شریعت (جو سترہ جلدوں میں ہے) کی ج 1: ص 75 پر لکھتے ہیں۔

”عقیدہ: امیر معاویہ مجتہد تھے۔ ان کا مجتہد ہونا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حدیث صحیح بخاری میں بیان فرمایا ہے۔ مجتہد سے صواب و خطا دونوں صادر ہوتے ہیں۔ خطا دو قسم ہے۔ خطا عنادی، یہ مجتہد کی شان نہیں اور خطا اجتہادی یہ مجتہد سے ہوتی ہے اور اس پر اصلاً عند اللہ مواخذہ نہیں۔ مگر احکام دنیا میں وہ دو قسم ہے، خطا مقرر کہ اس کے صاحب پر انکار نہ ہوگا۔ یہ وہ خطا اجتہادی ہے جس سے دین میں کوئی فتنہ نہ پیدا ہوتا ہو جیسے ہمارے

نزدیک مقتدی کا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، دوسری خطا یہ وہ خطا اجتہادی ہے جس کے صاحب پر انکار کیا جائے گا کہ اس کی خطا باعث فتنہ ہے۔ امیر معاویہ کا حضرت سیدنا امیر المومنین کے خلاف اسی قسم کی خطا تھا اور فیصلہ خود رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مولیٰ علی علیہ السلام کی ڈگری اور امیر معاویہ کی مغفرت۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔“

(32) امام ابو عبد اللہ محمد بن مرتضیٰ الیسانی رحمہ اللہ

آپ کا آٹھویں صدی کے مجتہدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی کتاب ایشار الحق علی الخلق کے ص: 458 پر حضرت علی علیہ السلام اور امیر معاویہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

”امام عادل سے لڑنے والا خطا کار و گناہ گار ہے کیونکہ یہ بغاوت و تعدی فروعی مسائل میں سے نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس مجتہد کی اجتہادی غلطی معاف ہے۔ اس کے اجتہاد کے خلاف قتال نہیں ہوتا نہ اسے قتل کر کے اس کا خون معاف ہو سکتا ہے۔ اسی مقام پر انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ اس مسئلے پر اپنی دوسری کتاب الروض الباسم فی الذب عن سنة اہی القاسم میں تفصیلی بحث کر چکے ہیں۔“

(33) امام ابن عابدین شامی حنفی رحمہ اللہ

”اہل بغاوت ہر وہ گروہ ہے جو بر دست طاقت کا مالک ہو، غلبہ و تسلط رکھتا ہو، اجتماعی ہیئت کا حامل اور اہل عدل کے مقابلہ میں تاویل کے بل پر قتال کرے اور اس کے افراد یہ کہیں کہ حق ہمارے ساتھ ہے اور وہ حکمرانی کے مدعی ہوں۔“ (رد المحتار فتاویٰ شامی، ج 3: ص 427)

(34) شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ

معاویہ خلیفہ نہیں بادشاہ تھے۔ ان کو کسی عالم اور امام نے خلیفہ نہیں کہا۔ (حجۃ اللہ الباقی ج 2: ص 212)

(35) ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ

”معاویہ خلیفہ نہیں بادشاہ تھے۔ ان کو کسی عالم اور امام نے خلیفہ نہیں کہا۔“
(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ، ج: 10، ص: 124)

(36) امام ابن کثیر رحمہ اللہ

آپ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 93 پر لکھتے ہیں کہ
”میں کہتا ہوں سنت یہ ہے کہ معاویہ کو بادشاہ کہو، خلیفہ نہ کہو کیونکہ سفینہ رسول
صحابی نے حضور ﷺ سے روایت کیا ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال
ہے پھر کاٹ کھانے والی (ظالم) بادشاہت ہے۔“

(37) سید نور الحسن خان رحمہ اللہ ابن نواب سید صدیق حسن خاں رحمہ اللہ

امام اہل حدیث نواب صدیق حسن خاں رحمہ اللہ کے بیٹے سید نور الحسن خاں اپنی کتاب
عرف الجادی میں ص: 197-198 پر در بیان قتال اہل البغی کے تحت لکھتے ہیں:

”ہر موقع پر بلاشبہ حق حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ و
زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی تھی اور بعد میں بیعت توڑ دی۔
پھر تا چار ان سے جنگ لڑنا واجب ہو گیا۔ خارجیوں سے جنگ متواتر
حدیث کے مطابق کی کہ خارجی دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس
طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام حق پر تھے۔ اسی طرح
جنگ صفین والے کہ ان کا باغی ہونا بالکل واضح ہے کیونکہ قتل عمار رضی اللہ عنہ والی
حدیث اس پر دلیل ہے۔ معاویہ حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کرنے کا ذرہ
برابر حق نہ رکھتے تھے مگر وہ (معاویہ) دنیا کے لالچی، حکومت کے بھوکے اور
دنیا کی سرداری کے لئے لڑے اور ان کو پیر و کار وہ لوگ ملے جو معروف و منکر
کی شناخت سے عاری تھے یعنی شامی اور معاویہ نے ان لوگوں سے چالاکی

کی کہ بظاہر قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کا ڈھونگ رچا لیا۔ اس طرح معاویہ کا کام چل
پڑا اور ان لوگوں نے معاویہ کیلئے جان و مال کی قربانی دی اور ان کی خیر خواہی
کی۔ ان لوگوں کو معاویہ نے ایسا رام کر لیا کہ علی علیہ السلام نے اہل عراق سے کہا
میں تم جیسے دس دے کر معاویہ کے حامیوں جیسا ایک لے لوں تو بہتر ہے۔

مجھے اہل شام پر ذرہ حیرانی نہیں، مجھے ان بعض صحابہ و فضلاء تابعین پر
حیرانی ہے کہ وہ بھی معاویہ سے مل گئے۔ کاش مجھے کوئی سمجھائے کہ ان کو کیا
مغالطہ ہوا کہ انہوں نے برے اور جموٹے لوگوں کا ساتھ دیا اور حق والے کی
مدد نہ کی حالانکہ ان کے کانوں میں قرآن کی آیت پڑ چکی تھی کہ باغیوں
سے لڑو۔ اور متواتر حدیثیں ہیں کہ حاکم وقت اسلام پر چلے تو اس سے
بغاوت نہ کرو۔ اور آنحضرت ﷺ کا قول ان کے کانوں میں پڑ چکا تھا
کہ عمار رضی اللہ عنہ کو باغی ٹوٹہ قتل کرے گا۔

خدا کی قسم! اگر ان کے صحابی ہونے کا لحاظ نہ ہو اور یہ کہ وہ دور خیر القرون
میں سے تھا، تو صاف نظر آتا ہے کہ اس امت کا پہلا گروہ بھی دنیا کے مال
اور لالچ میں مبتلا ہو گیا تھا۔ قرآن جنگ میں کھڑا کرنا سنت مطہرہ میں نہیں
آیا نہ سنت خلفائے راشدین میں، بلکہ اس بدعت کا پہلا کرنے والا معاویہ
تھا۔ پھر عمرو بن العاص کی چالاکی کو حدیث و تاریخ کی کتابیں پڑھنے والا
جانتا ہی ہے۔“

(38) مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ

آپ مشہور اہل حدیث عالم تھے۔ وہ سنن ابو داؤد کی شرح عون المعبود ج: 4،
ص: 342 پر لکھتے ہیں:

”بنو امیہ کے حاکم چاہے زبردستی خلیفہ بن گئے لیکن وہ قطعاً اس کے اہل نہ
تھے بلکہ وہ ظالم حکمران تھے۔ وہ خلیفہ راشد نہیں بلکہ ظالم حاکم تھے۔“

آگے لکھتے ہیں:

”مناویؒ نے کہا خلافت ختم ہونے کے بعد یعنی 30 سال کے بعد بادشاہت ہوگی کیونکہ خلیفہ کا نام صرف ان کے لیے ہے جو سنت نبویؐ پر چلتے رہے اور اور مخالف سنت نبویؐ بادشاہ تھے، خلیفہ نہ تھے۔ ہاں ان بادشاہوں کو خلیفہ کہہ دیتے ہیں کیونکہ ایک کے بعد دوسرا جو آیا۔“ (یہ صرف لغت کے مطابق ہے نہ کہ دین کے مطابق)

(39) مولانا محمد منظور نعمانی دیوبندیؒ

وہ اپنی کتاب معارف الحدیث کی ج: 7 میں سیاست کے عنوان کے تحت ایک حدیث کی شرح میں:

”خلافت میرے بعد 30 سال تک ہے، پھر ملک مخصوص ہے، لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ ان خلفاء میں شامل نہیں جو حضور ﷺ نے اس حدیث میں بیان فرمائے۔“

عہدِ نخست مہد

دورِ یزید بن معاویہ

امام ابو عبد اللہ قرطبیؒ نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں آیت منع غیبت (سورہ الحجرات: 12/49) کے تحت حضرت حسن بصریؒ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ مندرجہ ذیل لوگوں کے عیب بیان کرنا چغلی اور غیبت نہیں ہے۔

(1) صاحب بدعت

(2) علانیہ فاسق

(3) ظالم حاکم

امام حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ ان تینوں کے عیب بیان کرو۔

دورِ یزید کے بارے میں حدیثوں میں پیش گوئی

بخاری کتاب العلم باب حفظ العلم میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے:

”میں نے رسول اللہ ﷺ سے دو تھیلے سیکھے یعنی دو طرح کا علم حاصل کیا،

ایک کو میں نے لوگوں میں پھیلا دیا اور دوسرے کو اگر بیان کروں تو میری شاہ

(بخاری ج: 1، ص: 98-99)

رگ کاٹ دی جائے۔“

یاد رہے کہ ابو ہریرہؓ اس وقت فوت ہوئے جب امیر معاویہ کی حکومت ختم ہونے

میں ابھی دو سال باقی تھے۔

اس حدیث کی شرح میں امام ابن حجرؒ فتح الباری ج: 1، ص: 216 پر لکھتے ہیں:

”دوسری قسم کی احادیث وہ تھیں جو ان پیش گوئیوں پر مشتمل تھیں جن میں ظالم حاکموں کا نام لے کر بیان تھا۔ لہذا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھل کر ان حاکموں کے نام نہیں لیتے تھے بلکہ پردہ میں بات کرتے تھے۔ کیونکہ ان کو ظالم حاکموں سے جان کا خطرہ تھا کھل کر بات کرنے کی بجائے دعا مانگتے ”اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں 60ھ سے اور چھو کروں (لڑکوں) کی حکومت سے اس سے وہ یزید بن معاویہ کے دور حکومت کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور وہ 60ھ سے ایک سال پہلے ہی فوت ہو گئے۔“

شاہ ولی اللہ بھی تراجم بخاری میں باب مذکور میں ایسا ہی لکھتے ہیں۔

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

”اس میں آئندہ ہونے والے واقعات کی خبریں تھیں۔ مثلاً قتل کا بیان تھا جو آگے چل کر مسلمانوں میں برپا ہوئے جیسے جنگ جمل و صفین کا فتنہ، ابن زبیر رضی اللہ عنہ و حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کا بیان اور اس قسم کے واقعات۔“

اس حدیث کی شرح میں علامہ وحید الزماں رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کبھی اشارے کے طور پر ان باتوں کا ذکر بھی کیا ہے جیسے کہا میں 60ھ کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور چھو کروں کی حکومت سے۔ اسی سن میں یزید پلید بادشاہ ہوا۔“

امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں ج: 13، ص: 7 پر لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مروان کی موجودگی میں حدیث بیان کی کہ میری امت کی بربادی قریش کے چند چھو کروں کے ہاتھوں ہوگی۔ میں چاہوں تو ان کے نام بیان کر دوں۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری ج: 13، ص: 8 پر لکھتے ہیں:

”تمام محدثین متفق ہیں کہ ان میں پہلا چھو کر یزید ہے۔“

بخاری کتاب المناقب باب علامات النبوة فی الاسلام میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کا یہ قبیلہ لوگوں کو تباہ کرے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش لوگ اس سے الگ رہیں۔ (یعنی ان کے ظلم میں شریک نہ ہوں۔)

اسی باب میں اس سے اگلی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے الصادق المصدوق علیہ السلام سے سنا کہ وہ فرماتے تھے میری امت کی ہلاکت قریش کے چند چھو کروں کے ہاتھ پر ہوگی۔ مروان نے کہا چھو کروں کے ہاتھ پر؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تو چاہے تو ان کے نام بھی بیان کر دوں فلاں، بن فلاں۔

بخاری کتاب الفتن باب قول النبی ”هلاک امتی علی یدی اغیلمة سفہاء“ میں پہلی ہی روایت ہے:

”جس میں عمرو بن یحییٰ بن سعید بن عمرو بن سعید نے کہا مجھ سے میرے دادا سعید نے بیان کیا کہ میں مدینہ میں مسجد نبوی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا اور مروان بھی وہیں تھا۔ اتنے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ”صادق المصدوق“ سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے تھے قریش کے چند چھو کروں کے ہاتھوں میری امت تباہ ہوگی۔ مروان نے کہا اللہ ان پر لعنت کرے کیا چھو کروں کے ہاتھ سے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں چاہوں تو ان کے نام بیان کر دوں فلاں کے بیٹے، فلاں کے بیٹے۔ عمرو بن یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا کے ساتھ مروان کی اولاد کے پاس جایا کرتا تھا جب وہ شام کے ملک میں حاکم بن گئے تھے۔ میرے دادا جب ان کم عروں کو دیکھتے تو کہتے شاید یہ چھو کرے بھی اس حدیث میں داخل ہوں۔ ہم لوگ کہتے تم جانو! اس حدیث کی شرح میں علامہ وحید الزماں لکھتے ہیں کہ انہوں نے (یعنی ابو

ہریرہ رضی اللہ عنہ نے) نام بنام ظالم حاکموں کے نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تھے مگر ذر کی وجہ سے بیان نہیں کر سکتے تھے۔ مروان خود ان چھوکروں میں داخل تھا گویا اس نے اپنے اوپر لعنت کی۔ حدیثوں میں جن کو طبرانی وغیرہ نے نکالا یہ موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ حکم پر لعنت کی اور اس کی اولاد پر بھی لعنت کی۔ حافظ نے کہا (ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے) ان چھوکروں میں پہلا چھوکر ایزید پلید تھا اور ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نکالا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ان چھوکروں کی حکومت سے اگر تم ان کا کہنا مانو تو دین کی تباہی ہے، اگر نہ سنو تو وہ تم کو تباہ کر دیں گے۔ دوسری روایت میں ابن ابی شیبہ سے یوں مروی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں چلتے چلتے یہ دعا کرتے یا اللہ 60 مجھ کو مت دکھانا چھوکروں کی حکومت میں یزید خلیفہ ہوا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہوئی وہ ایک سال پہلے دنیا سے گزر گئے۔ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا یا آپ علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا یا آپ علیہ السلام کے قتل کو جائز رکھا یا اس سے خوش ہوا وہ بالاتفاق ملعون ہے اور یزید سے یہ باتیں متواتر ثابت ہیں۔ اس پر اور اس کے مددگاروں سب پر لعنت۔ (بخاری، ج: 9، ص: 131-132)

امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

”امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ مسند احمد اور نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں مروی ہے ”میری امت کی تباہی قریش کے چند بے وقوف چھوکروں کے ہاتھوں ہوگی۔“

(فتح الباری، ج: 13، ص: 8)

اس کے بعد امام نے ابن ابی شیبہ اور علی ابن الجعد کی روایت کا حوالہ دیا ہے۔ اور لکھا کہ ان لوگوں میں سب سے پہلا یزید ہے۔ امام لکھتے ہیں کہ

اس حدیث سے اس حدیث کی بھی تخصیص ہو جاتی ہے کہ قریش کا یہ قبیلہ لوگوں کو تباہ کرے گا۔ کیونکہ اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ قریش کا پورا قبیلہ نہیں بلکہ اس کے بعض افراد مراد ہیں۔ (فتح الباری، ج: 13، ص: 8)

امام ص: 9 پر مروان کی طرف سے ان لوگوں پر لعنت کرنے کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے اس کی اولاد پر لعنت کرادی تاکہ ان لوگوں پر سخت جنت قائم ہو جائے۔

حضرت کعب بن عجرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے امارتِ سفہاء سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔

(مسند احمد، ج: 23، ص: 399، ترمذی حدیث نمبر 614، موارد الظمشان للہینمی، نمبر 1569، شرح السنہ بنوی، حدیث نمبر 818، مشکوٰۃ کتاب الامارۃ، نمبر 8700، طبرانی، ج: 19، ص: 105، 141، کنز العمال، حدیث نمبر 14895)

دعائے نبوی قبول ہوئی اور حضرت کعب بن عجرہ 50ھ میں وفات پا گئے۔ یزید اور اس کے اہم اہل کار نو جوان تھے۔ اس کے عہدِ نحوست مہد کا نقشہ انوری کے اس شعر کے بالکل مطابق ہے

بر بزرگانِ زمانہ شدہ خرداں سالار
بر کریمان جہاں گشتہ لہیمیاں مہتر
زمانہ کے بزرگ لوگوں پر لڑ کے سربراہ بن گئے اور دنیا کے اعلیٰ ترین لوگوں پر کینے حاکم ہو گئے۔

یزید جب 60ھ میں حکمران بنا اور 64ھ نصف ربیع الاول میں ملک الموت نے اس کو آدھ بچا۔ یہ 25ھ یا 26ھ میں پیدا ہوا تھا اور بوقتِ حکومت اس کی عمر 35 سال تھی۔ تقریباً 3½ کے دور میں اس نے تین بدترین جرم کئے وہ یہ ہیں۔

(1) سیدنا حسین علیہ السلام کا قتل

(2) مدینہ کی واقعہ 7ھ میں بربادی

(3) خانہ کعبہ پر حملہ

حضرت علیؓ کے بیٹے محمد بن الحنفیہ کا یزید کے پاس رہنا اور ان سے منسوب یزید کی صفائی والی روایت منقطع ہے۔

(انساب الاشراف، للبلاذریؒ، ج: 3، ص: 141)

خانہ کعبہ پر حملہ

بخاری کتاب العلم باب لیبلغ العلم الشاهد الغائب میں پہلی ہی حدیث ہے:

”ابی شریحؓ صحابی نے عمرو بن سعید سے کہا (جو یزید کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا) وہ مکہ پر حملہ کیلئے فوجیں بھیج رہا تھا، اے امیر مجھے اجازت دے میں تجھ کو ایک حدیث سنا دوں جو نبی ﷺ نے فتح مکہ کے دوسرے روز ارشاد فرمائی تھی، میرے دونوں کانوں نے اس کو سنا اور دل نے اسے یاد رکھا، اور میری دونوں آنکھوں نے آپ ﷺ کو دیکھا جب آپ ﷺ نے حدیث بیان فرمائی ہے۔ آپ ﷺ نے اللہ کی حمد و ثناء کی اور پھر فرمایا مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، لوگوں نے حرام نہیں کیا (یعنی اس کا ادب حکم الہی ہے) تو جو کوئی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو وہاں خون بہانا درست نہیں اور نہ وہاں کوئی درخت کاٹنا اگر (میرے بعد) کوئی ایسا کرنے کی دلیل لے کہ اللہ کے رسول ﷺ وہاں لڑے تو تم یہ کہو کہ اللہ نے تو (فتح مکہ کے دن) اپنے رسول کو (خاص) اجازت دی تھی، تم کو اجازت نہیں دی۔ مجھ کو بھی صرف ایک گھڑی دن کیلئے اجازت دی تھی پھر اس کی حرمت آج ویسی ہی ہو گئی جیسے کل تھی۔ جو شخص یہاں حاضر ہو وہ اس کی خبر اس کو کر دے جو غائب ہے۔ لوگوں نے ابو شریحؓ سے پوچھا عمرو (بن سعید) نے اس کا کیا جواب دیا۔ ابو شریحؓ نے کہا عمرو نے یہ جواب دیا کہ میں تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہوں مکہ گناہ گار کو پناہ نہیں دیتا اور نہ اس کو جو خون یا چوری

کر کے بھاگے۔“

(بخاری ج: 1، ص: 88-89، مسلم کتاب الحج تحریم صید مکہ، نسائی کتاب الحج باب تحریم منیہ، باب ماجاء فی حرمت مکہ، ترمذی ابو اب الحج باب مجاء فی حرمة مکہ)

یہی روایت بخاری کتاب المناسک باب لایعصد شجر الحرم میں بھی

آئی ہے۔ اس عمرو بن سعید اشدق کے بارے میں امام ابن حجرؒ نے لکھا:

”اس کو ہم تابعین باحسان میں سے بھی نہیں شمار کریں گے گو اس نے صحابہ کو دیکھا تھا کیونکہ اس کے اعمال نہایت خراب تھے۔ امام ابن حزمؒ مکی کتاب البغایات میں عمرو بن سعید اشدق کی بکو اس کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”اس لطیم الشیطان، پولیس میں، فاسق کی بھی یہ وقعت ہے کہ وہ صحابی سے زیادہ عالم ہونے کا دعویٰ کرے۔ یہی فاسق اللہ و رسولؐ کا نافرمان تھا اور وہ شخص جس کہنے پر چلا اور دنیا و آخرت میں ذلت اٹھانے والا یہی تھا اور وہ (یزید) جس نے اس کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔“

شیخ نورالحق بن شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے تیسر القاری شرح بخاری میں عمرو بن سعید اشدق کی اس بکو اس کا رد کیا ہے۔ (ج: 2، ص: 157)

اسی طرح عمدۃ القاری شرح بخاری از علامہ عینی نے رد کیا۔ (ج: 2، ص: 142) شیخ الاسلام محمد صدر الصدور دہلوی نے شرح بخاری میں اس فاسق عمرو بن سعید اشدق کی اس بکو اس کا رد کیا ہے۔ (ج: 3، ص: 322)

یزید نے مکہ پر حملہ کیلئے ابن زیاد کو کہا تو اس نے جواب دیا اللہ کی قسم میں اس فاسق (یزید) کیلئے دو گناہ جمع نہیں کروں گا کہ نواسہ رسولؐ کو بھی قتل کروں اور خانہ کعبہ پر بھی حملہ کروں۔ (البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 237)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول بخاری کتاب التفسیر، سورہ براءت (توبہ)

باب ثانی اشئین اذھانی الغار میں ابن ابی ملیکہ سے روایت ہوا کہ انہوں نے فرمایا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور بنی امیہ نے حرم کے اندر لڑنا جائز خیال کر لیا اور میں تو خدا کی قسم حرام کو حلال نہیں کروں گا۔

یزیدی لشکر کے حملہ میں کعبہ شریف جل گیا۔

مسلم کتاب الحج باب نقض الکعبہ و بنائھا میں عطاء سے روایت ہے کہ جب یزید بن معاویہ کے دور میں شامی لشکر نے حملہ کیا اور جو حال اس کا ہوا سو ہوا (یعنی جل گیا) اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کعبہ شریف کو ویسا ہی رہنے دیا یہاں تک کہ موسم حج میں لوگ جمع ہوئے اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا ارادہ تھا کہ لوگوں کو کعبہ شریف دکھا کر جرات دلائیں اہل شام سے لڑنے کیلئے یا انکو دیکھیں کہ ان میں کچھ حمیت دین ہے یا نہیں؟ پھر جب لوگ آگئے تو انہوں نے کہا اے لوگو! مشورہ دو مجھے خانہ کعبہ کے بارے میں کہ اسے توڑ کر نیا بناؤں یا جو حصہ خراب ہو گیا ہے اسے درست کر دوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اس کے خراب حصہ کی مرمت کر دو اور خانہ کعبہ کو ویسا ہی رہنے دو جیسا کہ پہلے تھا اور ان ہی پتھروں کو رہنے دو جن پر لوگ مسلمان ہوئے اور جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم میں سے کسی کا گھر جل جائے تو اس کا دل کبھی نہ چاہے گا جب تک نیا نہ بنائے۔ پھر تمہارے رب کا گھر تو اس سے کہیں افضل ہے۔ اور میں اپنے رب سے تین بار استخارہ کرتا ہوں پھر پکا ارادہ کرتا ہوں اپنے کام کا۔ جب تین بار استخارہ ہو چکا تو ان کی رائے میں آیا کہ کعبہ شریف کو توڑ کر بنائیں چنانچہ..... بعد میں حجاج نے توڑ کر اسے بنائے اول پر بنادیا۔“

ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کعبہ شریف کو تمنائے نبوی کے مطابق تعمیر کر دیا تھا مگر عبد الملک

کے کہنے پر حجاج بن یوسف نے دوبارہ بدل دیا۔

”مد بنہ سے فارغ ہونے کے بعد وہی فوج مکہ پر حملہ آور ہوئی اور اس نے خانہ کعبہ پر مخنیقوں سے سنگ باری کی جس سے کعبہ شریف کی ایک دیوار ٹوٹ گئی اگرچہ روایات یہ بھی ہیں کہ انہوں نے کعبہ پر آگ برسا کی تھی۔ آگ لگنے کے کچھ اور وجوہ بھی بیان کئے جاتے ہیں۔ البتہ سنگ باری کا واقعہ متفق علیہ ہے۔“

(طبری ج: 4، ص: 383، الکامل ابن اثیر ج: 3، ص: 316، البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 225،

نہدیب الجندہ ج: 11، ص: 361 امام ابن حجر رحمہ اللہ)

امام حسن بصری رحمہ اللہ کو ایک دفعہ طعنہ دیا گیا کہ آپ جو بنو امیہ کے خلاف خروج کی کسی تحریک میں شامل نہیں ہوتے تو کیا آپ اہل شام سے راضی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ”میں اور اہل شام سے راضی ہوں؟ خدا ان کو تباہ کرے، کیا وہی نہیں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کو حلال کر لیا اور تین دن تک اس کے باشندوں کا قتل عام کرتے پھر، اپنے بھائی اور قطیسی سپاہیوں کو اس میں سب کچھ کر گزرنے کی چھوٹ دے دی اور وہ شریف دین دار خواتین پر حملے کرتے رہے اور کسی حرمت کی ہنگ کرنے سے نہ رکے۔ پھر بیت اللہ پر چڑھ دوڑے، اس پر سنگ باری کی اور اس کو آگ لگائی، ان پر خدا کی لعنت ہو اور وہ برا انجام دیکھیں۔ (الکامل، ابن اثیر ج: 4، ص: 170)

علامہ آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی ج: 13، ص: 229 تا 227 پر سورہ محمد: 22/47 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت کی ایک جماعت نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ یزید مسلمان رہا نہیں؟ علماء کہتے ہیں اگر کوئی بد بخت ہوش و حواس میں قرآن مجید کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دے (نعوذ باللہ) اور وہ چاہے منہ سے کلمہ کفر نہ بھی کہے، اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں۔ جو کچھ یزید نے کعبہ شریف جلانے کی شکل میں کیا کیا وہ اس سے کم ہے؟

سورہ حج: 22/25 میں فرمایا:

”اور جو اس میں (حرم- مسجد حرام) شرارت سے کجروی اور کفر کرنا چاہے اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔“

امام ابن جوزی، قاصی ابو یعلیٰ، علامہ تفتازانی کہتے ہیں:

”ہم کو اس کے بارے میں (یزید کے بارے میں) ذرا شک نہیں نہ اس کے بے ایمان ہونے کے بارے میں ہمیں کوئی شبہ ہے۔ لعنة الله عليه ولى انصار، و اعوانہ

میں (آلویؓ) کہتا ہوں کہ میں نے یزید کے جو حالات پڑھے اور میرا یہ یقین ہے اور مجھے اس میں ذرا شک نہیں کہ اس خبیث کو نبی ﷺ کی رسالت پر ذرا یقین نہ تھا۔ جو کچھ اس نے مکہ و مدینہ سے کیا اور اہل بیت اطہار سے کیا، وہ قرآن مجید کو گندگی کے ڈھیر پر پھینکنے (نقض باللہ) سے بڑی باتیں ہیں۔ اس زمانہ کے مسلمانوں سے یزید کے کثوت کچھ چھپے ہوئے نہ تھے مگر وہ مغلوب و مقہور تھے، سوائے صبر کے ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ قاضی ابن العربی وغیرہ جو یزید کی صفائی دیتے ہیں ان کی گمراہی یزید کی گمراہی سے کم نہیں ہے۔

امام سیوطیؒ تاریخ الخلفاء (اردو) ص: 261 پر لکھتے ہیں:

”ذہبیؒ کہتے ہیں کہ جب یزید نے اہل مدینہ کے ساتھ یہ معاملہ (واقعہ حرہ) کیا اور شراب اور دیگر برائیاں پہلے ہی کرتا تھا تو تمام اشخاص اس سے ناراض ہو گئے اور چاروں طرف سے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر میں برکت نہیں رکھی تھی، چنانچہ اس نے اپنا لشکر مکہ والوں سے جنگ کیلئے بھیج دیا تاکہ وہاں ابن زبیرؓ سے لڑائی کرے۔ راستے میں لشکر کا سپہ سالار مر گیا تو اس کی بجائے دوسرا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ جب یہ لشکر مکہ معظمہ میں آیا تو ابن زبیرؓ کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زبیرؓ

نے بھی ان سے مقابلہ کیا۔ چونکہ آپ محاصرہ میں تھے، اس لیے آپ پر مہینق سے آگ اور پتھر برسائے گئے جن کے شراروں سے کعبہ شریف کا پردہ، اس کی چھت اور اس دہلیز کے سینک جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ کیلئے بھیجا گیا تھا اور اس کے سینک اب تک خانہ کعبہ کی چھت میں لٹکے ہوئے تھے، سب جل گئے۔ اور یہ واقعہ صفر 64ھ میں واقع ہوا۔ آخر نصف رجب الاول 64ھ میں ملک الموت نے یزید کو آدھو جا اور یہ دنیا ہمیشہ کیلئے یزید کے وجود سے پاک ہو گئی۔

یہ خبر عین حالت جنگ میں مکہ معظمہ پہنچی اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے پکار کر کہا ”اے شام کے لوگو، تمہارا گمراہ کرنے والا مر چکا ہے“ یہ سنتے ہی لشکر بھاگ کھڑا ہوا اور نہایت ذلت اٹھائی لوگوں نے اس کا تعاقب کیا۔“

مدینہ پر حملہ کرنے والے لشکر کا سربراہ مجرم خبیث مسلم بن عقبہ المزی تھا جو واقعہ حرہ کے تین دن بعد مر گیا جبکہ وہ کعبہ پر حملہ کرنے چلا تھا اور راستے میں تھا۔ اس کی وصیت کے مطابق حصین بن نمیر سکونی خبیث نے کمان سنبھالی اور اسی نے کعبہ پر حملہ کر کے اپنے نامہ اعمال کو مزید سیاہ کر لیا۔

مدینہ پر حملہ۔ واقعہ ۳۰ھ

انصار کی فضیلت

بخاری کتاب المناقب باب حب الانصار من الایمان میں براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”انصار سے دوستی رکھے گا صرف مومن اور ان سے بغض رکھے گا صرف منافق، پھر جو کوئی انصار رضی اللہ عنہم سے محبت رکھے اللہ اس سے محبت رکھے گا اور جو کوئی انصار رضی اللہ عنہم سے دشمنی رکھے اللہ بھی اس سے دشمنی رکھے گا۔ نسائی کتاب الایمان و شرائعہ باب علامۃ الایمان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار رضی اللہ عنہم سے محبت ایمان کی نشانی ہے اور ان سے دشمنی نفاق کی نشانی ہے۔ مسلم کتاب الزکاة اعطاء المولفۃ و من ینحاف علی ایمانہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کئی روایات انصار کی فضیلت میں مروی ہیں۔“

مسلم کتاب الفضائل باب من فضائل الانصار میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اللہ! بخش دے انصار کو اور انصار کے بیٹوں کو اور انصار کے پوتوں کو۔ اسی باب میں اگلی حدیث میں انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے دعا کی انصار کی بخشش کیلئے اور انصار کی اولاد اور غلاموں کیلئے۔“

اسی باب میں انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ انصار کے بچوں اور عورتوں کو شادی سے آتے دیکھ کر نبی ﷺ سامنے کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگو! تم انسانوں میں سے سب سے زیادہ مجھے پیارے ہو، تم انسانوں میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب ہو (یعنی انصار کو فرمایا) اور دو دفعہ فرمایا۔

اسی باب میں انس رضی اللہ عنہ بن مالک ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ انصار رضی اللہ عنہم میری انتزایاں اور میری گھڑیاں ہیں (یعنی میرے خاص معتمد اور اعتباری لوگ ہیں) اور لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار کم ہوتے جائیں گے تو قبول کرو ان کے نیک اور معاف کرو ان کے برے کو۔ مسند احمد نمبر 11864 میں بھی یہی حکم دیا۔ مسلم شریف کے اسی باب میں ابواسید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ انصار کے ہر گھر میں بہتری ہے۔ (مسند احمد حدیث نمبر 11907)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

”اللہ و رسول پر ایمان رکھنے والا انصار سے بغض نہیں رکھ سکتا۔“

مدینہ حرم ہے

بخاری کتاب الجہاد والسیور باب الخدمۃ فی الغزو میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جنگ خیبر میں گیا، آپ کی خدمت کرتا رہا۔ جب آپ ﷺ وہاں سے لوٹے اور احد پہاڑ دکھائی دیا تو فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر ہاتھ سے مدینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے اللہ! میں اس کے دونوں پتھر لیے کناروں میں جو ہے اس کو اسی طرح حرام کرتا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام کیا تھا، یا اللہ! پجارے صاع اور مد (پیانے) میں برکت دے۔“

اس مفہوم کی حدیث اگلے باب میں غرضی للخدمة میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مذکور ہے جس میں ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا سے نکاح کا واقعہ بھی مذکور ہے۔

بخاری کتاب الانبیاء باب قول الله تعالى واتخذ الله ابراهيم خلیلاً میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے مدینہ کو حرم قرار دیا۔

مسلم کتاب الحج باب فضل المدينه دعا النبی علیہ السلام میں عامر بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مدینہ کو حرم قرار دیا گیا۔ اس باب میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے اور حضرت رافع بن خدیج سے، عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے۔

انصار سے نیک سلوک کرنے کے بارے میں نصیحت نبوی

بخاری کتاب الجمعة من قال فی خطبة الجمعة بعد الشاء اما بعد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”نبی ﷺ مرض الموت میں منبر پر تشریف فرما ہوئے اور یہ آپ ﷺ کا آخری بیٹھنا تھا۔ ایک چادر کندھوں پر ڈالے ہوئے، کالے کپڑے سے سر باندھے ہوئے، آپ ﷺ نے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا لوگو! میرے پاس آؤ۔ وہ سب قریب ہو گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اما بعد، دیکھو یہ انصار کا قبیلہ کم ہو جائے گا اور دوسرے لوگ بڑھ جائیں گے۔ پھر محمد ﷺ کی امت میں کوئی نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو (یعنی حکمران ہو) تو اس کو چاہیے کہ انصار کے نیک لوگوں کی نیکی منظور کرے اور ان کے برے کی برائی سے درگزر کرے۔“

بخاری کتاب الجنائز باب ما جاء فی قبر النبی ﷺ میں

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہی نصیحت عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ بخاری کتاب التفسیر، سورہ حشر باب والذین تبوءوا الدار والایمان میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ نصیحت مروی ہے۔

انصار کی حق تلفی ہوگی۔ نبوی پیش گوئی

بخاری کتاب المناقب باب قول النبی ﷺ لما انصار ﷺ میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں:

”ایک انصاری نے حضور ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ مجھ کو ملازمت نہیں دیتے جیسے فلاں شخص کو ملازمت دی۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم میرے بعد حق تلفی دیکھو گے تو حوض کوثر پر مجھے ملنے تک صبر کرنا۔“

اس باب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دو حدیثیں اسی مفہوم کی مروی ہیں۔ ان کے علاوہ بخاری کتاب المغازی باب غزوة الطائف میں عبداللہ بن زید بن عاصم سے، کتاب الجہاد والسیر باب ما قطع النبی ﷺ من البحرین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، کتاب المناقب باب علامات النبوة فی السلام میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، کتاب الفتن باب قول النبی ﷺ مسترون بعدی امور اتسکرونها کے آخر میں اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے ترمذی ابواب الفتن باب ما جاء فی الاثرۃ میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے، نسائی کتاب آداب القضاة باب ترک استعمال من مخرص علی القضاة میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے مسلم کتاب الامارات باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الاول فالاول، میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، مسلم کتاب الامارات باب الامر بالصبر عنه ظلم الولاة والاستیثارهم میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے اسی مفہوم

کی احادیث مروی ہیں۔ مسلم کتاب الزکاة باب اعطاء المولفة
و من يخاف على ايمانه في حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک سے بھی ایسی
ہی احادیث مروی ہیں۔

مسلمانوں پر ہتھیار اٹھانا منع ہے

بخاری کتاب الفتن باب قول النبی ﷺ من حمل علينا السلاح
فليس منا میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو
شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے، وہ ہم میں سے نہیں۔
بخاری کی ایک حدیث میں فرمایا گیا:

”میں تمہارے گھروں میں قتلوں کے اترنے کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس
طرح بارش کے مقامات نظر آتے ہیں۔ (باب اطام المدينة) اس کی شرح
میں ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ بالخصوص واقعہ حرہ تو اس کا صریح
مصدق ہے۔“

اہل مدینہ کے ساتھ برائی کرنے والے کا انجام

مسلم کتاب الحج باب فضل المدينة و دعاء النبی ﷺ فيها
بالبركة و بيان تحريمها میں عامر بن سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص سے
روایت ہے کہ جب کوئی اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس
کو اس طرح گھلا دیتا ہے جیسے سیسہ گل جاتا ہے آگ میں یا نمک گل جاتا
ہے پانی میں۔

اس باب میں انس رضی اللہ عنہ بن مالک سے روایت ہے:

”رسول اللہ ﷺ نے مدینہ کو حرم ٹھہرایا اور جو کوئی اس میں نئی بات نکالے
یعنی گناہ کی تو اس پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی اور لوگوں کی قیامت
کے دن اللہ تعالیٰ اس کا نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل، یا کسی نے ایسے بدعتی کو

جگہ دی (تو اس کا بھی انجام ہوگا)۔ اس باب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی
ہی روایت ہے۔ اس باب میں عاصم نے انس بن مالک سے روایت کیا
کہ مدینہ حرم ہے اور وہاں کے درخت نہ توڑے جائیں اور جو ایسا کرے
اس پر اللہ فرشتوں اور انسانوں کی لعنت ہے۔“

اسی باب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔

”اسی باب میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے طویل روایت ہے جس میں
یہ بھی فرمایا کہ میں نے مدینہ کو حرم ٹھہرایا دو پہاڑوں کے بیچ کہ نہ اس میں
خون بہایا جائے اور نہ لڑائی کیلئے ہتھیار اٹھایا جائے نہ اس میں کسی درخت
کے پتے چھاڑے جائیں مگر صرف چارے کیلئے۔“

مسلم کتاب الحج تحریم ارادة اهل المدينة بنوعہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ ابوالقاسم رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو اس شہر والوں یعنی اہل مدینہ سے برائی کرتا
ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا گھلا دے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔

اسی باب میں یہی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ دونوں
سے مروی ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے محدث قاضی عیاض رضی اللہ عنہ
لکھتے ہیں کہ مسلم بن عقبہ اور یزید بن معاویہ کے ساتھ یہی کچھ ہوا۔

(مسلم بمع شرح امام نووی ج: 1 ص: 441)

اسی طرح کی دوسری روایات ابن حجر نے فتح الباری ج: 8 ص: 81 پر لکھی
ہیں۔ ابن کثیر نے دارقطنی کے حوالہ سے روایت درج ہے کہ حضرت
جابر رضی اللہ عنہ نے حرہ کے دن کہا برباد ہو وہ شخص جس نے رسول اللہ ﷺ کو
ڈرایا۔ ہم نے کہا کوئی ان کو کیسے ڈرا سکتا ہے؟ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے
آپ ﷺ کو فرماتے سنا ہے جس نے قبیلہ انصار کو ڈرایا اس نے میرے دل
کو ڈرایا۔ (الہدایہ والنہایہ ج: 8 ص: 223)

واقعہ ۷

یزید کے دور کا دوسرا المناک واقعہ جنگ ۷ کا تھا۔ جو 62ھ میں پیش آیا۔ اس واقعہ کی مختصر روداد یہ ہے۔ کہ اہل مدینہ نے یزید کو فاسق و فاجر قرار دے کر اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ اہل مدینہ کے بیعت توڑنے کا سبب یہ ہوا کہ یزید گناہوں میں بہت زیادہ پھنس گیا تھا۔ واقف دی نے عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ غسیل الملائکہ سے روایت کی ہے کہ واللہ! ہم نے یزید پر تپ تک بغاوت نہیں کی جب تک ہمیں یہ یقین نہیں ہوا کہ آسمان سے ہم پر پتھر برس جائیں گے کیونکہ فسق و فجور کا یہ عالم تھا کہ لوگ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کریں اور کھلم کھلا شراب پیئیں اور نماز چھوڑ دیں۔

(تاریخ الخلفاء امام سیوطی ص: 261 اردو)

اہل مدینہ نے اس کے عامل کو شہر سے نکال دیا اور عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ (غسیل الملائکہ) کو اپنا سپر براہ بنالیا۔ یزید کو اطلاع ملی تو اس نے مسلم بن عقبہ رضی اللہ عنہ کی جسے سلف صالحین مسرف بن عقبہ کہتے ہیں، کو بارہ ہزار فوج دے کر مدینہ پر چڑھائی کیلئے بھیج دیا اور اسے حکم دیا کہ تین دن تک اہل شہر کو اطاعت کی دعوت دیتے رہنا، پھر اگر وہ نہ مانیں تو ان سے جنگ کرنا اور جب فتح پالو تو تین دن کیلئے مدینہ کو فوج پر مباح کر دینا۔ اس ہدایت پر یہ فوج گئی، جنگ ہوئی اور مدینہ فتح ہوا۔ اور اس کے بعد یزید کے حکم کے مطابق تین دن کیلئے فوج کو اجازت دے دی گئی کہ شہر میں جو کچھ چاہے کرے۔ ان تین دنوں میں شہر کے اندر ہر طرف لوٹ مار کی گئی، شہر کے باشندوں کا قتل عام کیا گیا جس میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق سات سو معززین اور دس ہزار کے قریب عوام قتل ہوئے اور غضب یہ ہے کہ وحشی فوجیوں نے گھروں میں گھس گھس کر بے دریغ عورتوں کی عصمت دری کی۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں ایک ہزار خواتین زنا سے حاملہ ہو گئیں۔

(طبری ج: 4، ص: 372 تا ص: 379، اکمل ابن اثیر ج: 3، ص: 310 تا 313، ابن کثیر،

البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 219 تا 221)

یزیدی لشکر کا سپہ سالار مسلم بن عقبہ (بقول ابن حزم مسرف یا مجرم بن عقبہ) واقعہ کے تین دن بعد ہلاک ہو گیا۔ اور یزید اس واقعہ کے 2 سے 3 ماہ کے اندر مر ہو گیا۔ وہ 15 ربیع الاول 64ھ کو مرا۔ اس کا دور تین سال آٹھ ماہ اور کچھ دن تک رہا اور بوقت موت اس کی عمر 30 سال کے قریب تھی۔

(ابن حزم - اسماء الخلفاء والولاة و ذکر مدہم ملحقہ جو امع سیرہ، ص: 357-358)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات اہل مدینہ کے ساتھ برائی اور خوف زدہ کرنے کے بارے میں بخاری، مسلم، نسائی اور مسند احمد میں متعدد صحابہ سے منقول ہوئے ہیں، ان کے پیش نظر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علماء کے ایک گروہ نے یزید پر لعنت کرنے کو جائز رکھا ہے جن میں سے ایک قول امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔

اس واقعہ کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ ذیل میں بیان کی جاتی ہیں۔

(1) مسلم کتاب الحج باب فضل المدینہ میں ابو سعید المہری سے روایت ہے کہ وہ ۷ھ کی راتوں میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور مشورہ کیا کہ مدینہ سے کہیں اور چلے جائیں اور شکایت کی ان سے وہاں کی مہنگائی کی اور کثرت عیال کی اور کہا کہ مجھ کو صبر نہیں آ سکتا مدینہ کی محنت اور بھوک پر تو ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا خرابی ہو تیری میں تجھے تھوڑی یہاں رہنے کا کہتا ہوں بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو کوئی مدینہ کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے اور یہیں فوت ہو جاتا ہے تو میں قیامت کے دن اس کا شفع یا گواہ ہوں گا اگر وہ مسلمان ہو اتنا! اس سے اگلے باب الترغیب فی سکس المدینہ و فضل الصبر علی الاوائنہا و رشد تھا میں اسی طرح کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس میں واقعہ ۷ کو فتنہ کہا گیا۔

بخاری کتاب الہیۃ باب الہیۃ المقبوضۃ و غیر المقبوضۃ میں حضرت جابر

بن عبد اللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اونٹ بیچا۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو مجھے فرمایا مسجد میں دو رکعت پڑھ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی قیمت تول کر دی۔ اس میں کچھ (بلو ترک کے) ہمیشہ میرے ساتھ رہتی لیکن حہ کے دن شام والوں نے وہ مجھ سے چھین لی یہی روایت مسلم کتاب البیوع باب البیع یکون فیہ الشرط فیصح البیع و الشرط میں بھی آئی ہے۔ یہی روایت مسلم کتاب المساقات والمز ارعت باب بیع البعیر واستمناء رکوبہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے آئی ہے۔

اس حدیث کی شرح میں علامہ وحید الزماں رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ لڑائی 62ھ میں ہوئی۔ یزید پلید کے لشکر نے اہل مدینہ پر حملہ کیا اور مدینہ منورہ کو لوٹا اور ویران کیا۔ حہ مدینہ منورہ کا میدان ہے وہاں جنگ ہوئی۔ کئی روز تک حرم محترم میں نماز نہیں ہوئی اور مردود یزید کے لشکر والوں نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے لعنۃ اللہ علیہ و علی اتباعہ و انصارہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح فتح الباری میں ج: 3، ص: 177 پر لکھتے ہیں کہ واقعہ حہ میں آنے لوگ مارے گئے کہ ان کی گنتی سوائے خدا کے کسی کو معلوم نہیں۔

امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عمرو بن سعید، یزید کے گورنر مدینہ نے اتنے ظلم کئے کہ اسلام کی آنکھیں آج تک رو رہی ہیں۔

(البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 161-162)

یزید نے مسلم بن عقبہ کو مدینہ روانہ کیا۔ واقعہ حہ کے بعد اس نے فوج جانے والوں سے اس بات پر بیعت کی کہ ہم یزید کے زرخیز غلام ہیں۔

(فتح الباری ج: 3، ص: 177)

امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ یزید پکا ناموسی تھا اور اللہ اہل مدینہ سے راضی ہو۔

(سیر اعلام النبلاء ج: 4، ص: 318 بحوالہ دروس الباسم ج: 2، ص: 36)

واقعہ حہ میں تین دن تک مسجد نبوی میں جماعت نہ ہو سکی۔ صرف سعید بن مسیب، سید القباہین، مسجد نبوی میں رہے۔

(جوامع السیرہ از ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ملحقہ رسالہ اسماء الخلفاء والولاہ ص: 357-358)

مسلم بن عقبہ (مسرف بن عقبہ) نے فوج جانے والے مدینہ کے لوگوں سے یزید کی غلامی پر بیعت لی۔ قریش کے دو افراد یزید اور محمد بن ابی الجہم کو اس بات پر قتل کر دیا کہ انہوں نے کہا تھا ہم اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تجھ سے بیعت کرتے ہیں۔ یزید بن وہب نے کہا میں سنت عمر رضی اللہ عنہ پر بیعت کرتا ہوں تو اس کو بھی قتل کر دیا۔

(امام ابن کثیر، البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 240، ابن حجر، فتح الباری ج: 13، حدیث: 6760) بخاری کتاب المغازی باب شہود الملائکہ بدر اُمیہ روایت ہے جس میں سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا کہ واقعہ حہ میں صلح حدیبیہ میں شریک صحابہ میں سے کوئی باقی نہ بچا۔

بخاری کتاب المغازی باب غزوة الحديبية میں عباد بن حمیم سے روایت ہے کہ جب حہ کا دن ہوا اور لوگ عبد اللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ سے بیعت کرنے لگے تو عبد اللہ بن زید مازنی انصاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا عبد اللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کس اقرار پر لوگوں سے بیعت لیتے ہیں، لوگوں نے کہا موت پر، عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا اس شرط پر تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کسی سے بیعت نہیں کرنے کا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں موجود تھے۔

اس حدیث کی شرح میں علامہ وحید الزماں رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

”یہ 62ھ کا واقعہ ہے۔ مدینہ والوں نے یزید کے برے حالات دیکھ کر اس کی بیعت توڑ ڈالی اور عبد اللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کو اپنے اوپر حاکم بنالیا۔ ان کے والد وہی تھے جن کو غلیل الملائکہ کہتے ہیں۔ یزید نے حال سن کر مدینہ والوں پر ایک فوج بھیجی جس کا سردار مسلم بن عقبہ تھا۔ اس مردود نے مدینہ والوں کا قتل عام کیا، شہر لوٹ لیا۔ سات سو تو صرف عالموں کو شہید کیا جن

میں تین سو صحابیؓ تھے۔ مسجد نبویؐ میں گھوڑے بندھوائے جو روضہ شریف کی طرف لید پیشاب کرتے تھے۔ معاذ اللہ کوئی دقیقہ پیغمبر صاحبؐ کی بے حرمتی کا نہ چھوڑا۔ اوپر سے طرہ سینے جب یہ مسلم بن عقبہ مرنے لگا تو مرتے وقت یوں دعا کی ”یا اللہ! میں نے توحید کی شہادت کے بعد کوئی نیکی اس سے بڑھ کر نہیں کی کہ مدینہ والوں کو قتل کیا۔ یہی نیکی ایسی ہے جس کے ثواب کی مجھ کو امید ہے، ارے خبیث بندگان خدا پر ظلم کرتا ہے اللہ کے پیغمبر ﷺ کی توہین کرتا ہے پھر ثواب کی امید رکھتا ہے اس کو یہ غرہ تھا کہ میں نے یزید خلیفہ وقت کی اطاعت کی اور مردود نہ سمجھا کہ اللہ و رسولؐ کی اطاعت سب پر مقدم ہے اگر گرو، یا مرشد، یا مجتہد، یا پیر کی اطاعت پر کوئی غرہ ہو کہ اللہ اور رسولؐ کے خلاف کرے وہ بھی یزیدی ہے لعنۃ اللہ و غضب علیہ (بخاری ج: 5، ص: 393-394 تبسرا لباری)

اس واقعہ کا ذکر مسلم کتاب الامارت باب وجوب ملازمة جماعت المسلمین عند ظهور الفتن وفي كل حال میں نافع سے مروی ہے جس میں عبداللہ بن عمرؓ نے عبداللہ بن مطیع کو یزید کی بیعت نہ توڑنے کا کہا (یاد رہے کہ ابن عمرؓ نے حضرت علیؓ کی بیعت نہ کی تھی مگر یزید کی بیعت کی بڑی پابندی کی)

واقعہ ۳ میں جنگ سے پہلے مسلم بن عقبہ نے مدینہ کے لوگوں سے کہا اگر تم اطاعت کر لو تو ہم مکہ جا کر طح (ابن زبیرؓ) کا خاتمہ کریں گے۔

(ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 237-238)

اہل حدیثوں کے امام ابن حزمؒ نے ظاہری لکھتے ہیں کہ امام حسینؓ اور ابن زبیرؓ اور اہل ۳ کا لڑنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کلمہ گو حکمران کے خلاف بغاوت جائز ہے۔ (المحلی ج: 9، ص: 362)

امام محمد بن ابراہیم الوزیریؒ نے سنت کے دفاع میں بے مثال کتاب العواصم والقواصم فی الذب عن سنة ابی القاسمؓ لکھی ہے۔ (اس کی ج: 8، ص: 76 پر امام ابن حزم کا قول نقل کرتے ہیں: ایک شخص ابن مجاہد متکلم بصری طائی نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس بات پر اجماع ذکر کیا کہ کلمہ گو ظالم حاکم جو چاہے کریں ان کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے۔

ابن حزمؒ کہتے ہیں:

”یہ مسئلہ دیکھ کر کانپ گیا کہ جو اجماع کے خلاف کرے گا وہ تو کافر ہوگا۔ کیا اس مشکل کو خبر نہیں کہ ۳ کے دن پورا مدینہ جس میں سارے صحابہؓ و تابعینؓ یزید کے خلاف اٹھے تھے یا نہیں؟ اگر اس مسئلہ پر اجماع تھا تو پھر وہ سارے نعوذ باللہ کافر ہو گئے۔ کیا عبداللہ بن زبیرؓ اور ان کے ساتھی یزید کے خلاف نہیں اٹھے اور علاقے چھین کر خلیفہ نہیں بنے؟ کیا حسینؓ اور ان کے ساتھی یزید کے خلاف نہیں اٹھے اور ان کے ساتھ نیک مسلمان نہیں اٹھے۔ پھر امام ابن حزمؒ جو کٹر اہل حدیث اور بنو امیہ کی نسل سے ہیں دعا کرتے ہیں کہ جو یزید کے خلاف اٹھے تھے اللہ ان سے راضی ہو اور جنہوں نے ان کو قتل کیا ان پر اللہ کی لعنت ہو۔“

پھر امام حسینؓ نے سوال کیا کہ چار ہزار عالم حجاج بن یوسف کے خلاف سعید بن جبیرؓ کی قیادت میں میدان میں نہیں آئے؟ اے ابن مجاہد طائی بتا کیا وہ سارے کافر ہو گئے؟ اللہ کی قسم! جو ان کو کافر کہے وہ خود کافر ہے۔

امام ابن حجر فتح الباری ج: 12، ص: 285-286 پر لکھتے ہیں:

”دو قسم کے لوگ حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں ایک وہ جو دین سے نکل جاتے ہیں جیسے حضرت ابو بکرؓ کے دور میں مرتد اٹھ کھڑے ہوئے

ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو نیا عقیدہ لے کر نہیں بلکہ حکومت حاصل کرنیکی کے لئے اٹھتے ہیں۔ یہ لوگ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو دین کی عزت کیلئے اس لیے نکلے کہ وقت کے حکمران ظالم ہو گئے اور سنت نبوی پر عمل حکمرانوں نے چھوڑ دیا، تو یہ لوگ اہل حق ہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں حضرت حسین ابن علی علیہ السلام، مدینہ کے اہل حرہ اور حجاج کے خلاف اٹھنے والے 4,000 عالم ہیں۔

(بس ان دوسطروں میں سارا واقعہ کر بلا آ گیا)

اگر مسلمان حکمران غلط کار ہو جائے تو اس کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں، باغی وہ ہو گا جس نے حق کا راستہ چھوڑ دیا، چاہے حکمران ہو، چاہے رعایا، مثلاً

(1) خارجی باغی تھے، معاویہ باغی تھے اور حضرت علی علیہ السلام حق پر تھے۔

(2) امام حسین علیہ السلام اور اہل حرہ اور 4,000 قزاق حق پر تھے اور یزید و حجاج بن یوسف و عبد الملک بن مروان باغی تھے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں:

”اس میں کوئی شک نہیں کہ یزید نے مسلم بن عقبہ کو یہ حکم دے کر انتہائی غلط کام کیا (کہ مدینہ پر حملہ کرے اور فوج کیلئے مباح کرے) ان تین دنوں میں مدینہ میں ایسے گناہ ہوئے جن کا بیان کرنا ممکن نہیں۔ ان کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔“

(البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 225)

سلفاً و خلفاً یزید

کے بارے میں علماء اسلام کی رائے

سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا
کہتی ہے تجھ کو خلق خدا عائبانہ کیا

شہد شاہد من اہلہا

لاہور کے اہل حدیث عالم حافظ صلاح الدین یوسف ان لوگوں میں سے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کو باغی، یزید کو خلیفہ برحق اور رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور جو لوگ یزید کو پلید لکھتے ہیں ان پر گرفت کرتے ہیں۔ حافظ مذکور اپنی کتاب رسومات محرم الحرام اور واقعہ کر بلا ص: 48 پر لکھتے ہیں:

”ہمیں معلوم ہے کہ بعض اکابر علماء نے بھی یزید کیلئے لفظ پلید استعمال کیا ہے، لیکن انہوں نے عدم تحقیق کی بنا پر ردی میں ایسا کیا ہے اور اس معاملے کی گہرائی میں وہ نہیں گئے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض مسائل میں جس طرح عام رائے ہوتی ہے، بڑے بڑے محقق بھی اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ لیکن جب کوئی دیدہ ور اس کی تہ میں اتر کر نقاب کشائی کرتا ہے تو صورت معاملہ بالکل مختلف نکلتی ہے، اس لیے اس دور میں جب یزید کا کردار نقد و نظر کی کسوٹی پر پرکھا گیا اور اس پر عام بحث ہوئی تو بہت سے مخفی گوشے بر نقاب ہو گئے۔“

ان سطروں میں حافظ مذکور نے اپنے خلاف یہ ڈگری تو دے دی کہ ہمارے بڑے بڑے علماء یزید کو پلید ہی کہتے آئے ہیں۔

میں اس سلسلہ میں یہ بات عرض کروں گا کہ جب بھی کوئی کہے کہ یہ گوشے پوشیدہ رہے اور وہ اس دور میں آکر نمایاں ہوئے ہیں، تو بطور کلیہ یہ سمجھ لیں کہ وہ شخص گمراہ ہے۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ امت کے اتنے بڑے بڑے لوگ احمق گزرے ہوں۔ واقعہ کہ بلا آج نہیں ہوا۔ جو کچھ اس بارے میں لکھا گیا وہ سب نے پڑھا۔ ہمارے امام اور محدثین یہ جانتے تھے کہ شیعہ کیا کہتے ہیں اور سنی کیا کہتے ہیں، اس کے باوجود اگر وہ اس بات کو دھراتے رہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام شہید ہیں اور یزید پلید اور ملعون ہے تو کیا وہ احمق تھے؟ وہ لوگ محقق تھے اور کوئی نیا گوشہ سامنے نہیں آیا، صرف بددیانتی سامنے آئی کہ ناصبیوں نے صرف لا تقربوا الصلاة کہا اور اگلا کٹڑا چھپا لیا۔

ان لوگوں کے گرو محمود احمد عباسی کی کتاب خلاف معاویہ و یزید سے لے کر ان لوگوں کی سب کتابیں میں نے پڑھی ہیں۔ کسی نے بعد میں کوئی نئی بات نہیں لکھی، بس اسی کو نئے نام سے چھاپتے رہتے ہیں۔

خدا گواہ ہے اگر ناصبیوں کی کتابوں میں کوئی سچائی ہوتی، ان کے دیئے ہوئے حوالے درست ہوتے، بددیانتی نہ ہوتی تو میں یہ سمجھتا کہ چلو کچھ لوگ اختلاف رکھتے ہیں۔ ان کی بددیانتی کے ثبوت کیلئے صرف ایک واقعہ عرض کروں گا کہ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے شیخ الشفیر مولانا محمد اولیس ندوی رحمہ اللہ نے یہ کتاب خلافت معاویہ و یزید دیکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یونہی ایک جگہ سے کتاب کھولی۔ اس صفحہ پر تین حوالے تھے۔ وہ تینوں حوالے میں نے اصل کتابوں سے چیک کئے۔ تینوں میں خیانت تھی۔ عباسی نے ادھر ادھر سے کاٹ کر اپنی مطلوبہ بات بنالی تھی۔

اگر صرف یہ ہوتا کہ اس کتاب سے کچھ گوشے نمایاں ہوئے ہوتے تو ہم صبر کرتے۔ ہمارے اکابر احمق نہیں، محقق تھے۔ انہوں نے شیعوں کے رد میں جو لکھا، وہ یہ ناصبی سوچ بھی

نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ سے بڑھ کر کیا لکھتا ہے؟ وہ جانتے تھے کہ شیعہ کیا کہتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود وہ ان لوگوں کی طرح اہل بیت سے دشمنی نہیں رکھتے تھے۔ ان میں اعتدال اور توازن تھا۔ وہ جانتے تھے کہ شیعہ اپنی جگہ جو چاہے کہیں، مگر اہل بیت صرف ان کے نہیں ہیں۔ رسول کریم ﷺ کا گھر انہ سارے مسلمانوں کا مشترکہ مرکز محبت ہے۔ ان کا احترام اہل ایمان پر لازم ہے۔ ہمارے اکابر بددیانت نہیں تھے۔ انہوں نے اس بارے میں جو لکھا، وہ میں پیش کرتا ہوں، جن کو حافظ صلاح الدین محدثین مانتے ہیں اور جن کے حوالے انہوں نے اپنی کتاب میں دیئے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ جب خدا اور رسول ﷺ کے دشمن دنیا میں موجود ہیں تو حسین علیہ السلام کے دشمنوں کی موجودگی کا کیا گلہ؟ مگر حسین علیہ السلام زندہ رہے گا دشمن اپنی موت آپ مرتے رہیں گے۔

(1) شیخ الاسلام فی الحدیث حافظ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ
ان کی کتاب تہذیب التہذیب ج: 11، ص: 360-361 سے راوی نمبر 699 کا حوالہ پیش خدمت ہے۔

”اس میں یزید بن معاویہ بن ابوسفیان کے بارے میں یزید کے خاندان یعنی بنو امیہ میں سے مروان بن حکم کے پوتے حضرت عمر بن عبدالعزیز، جو کہ خلیفہ راشد شمار کئے گئے، کا فیصلہ لکھا ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ یحییٰ بن عبدالملک بن ابی غنیہ ثقہ نے نوفل بن ابی عقرب ثقہ سے بیان کیا کہ میں عمر رحمہ اللہ بن عبدالعزیز کے پاس تھا کہ ایک آدمی نے یزید کی بات کرتے ہوئے کہا کہ امیر المومنین یزید نے ایسا کہا۔ حضرت عمر رحمہ اللہ بن عبدالعزیز نے کہا تو یزید کو امیر المومنین کہا ہے؟ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس آدمی کو 20 کوڑے لگائے جائیں۔

(مزید حوالے ابن حجر رحمہ اللہ لسان المیزان ج: 6، ص: 293-294،

ذہبی سیر اعلام النبلاء ج: 4، ص: 319، امام ابن حجر نے فتح الباری ج: 12،

ص: 285-286 پر لکھا یزید باغی تھا اور مخالف حق پر تھے۔“

امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری ج: 3 کتاب الجنائز میں لکھا:

”یزید کے حکم سے مدینہ میں تین دن قتل و غارت ہوتی رہی اور مقتولوں کی تعداد سو اے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔

امام تقریب العذیب، ص: 562 پر لکھتے ہیں کہ یزید سے حدیث روایت نہ کی جائے۔ فتح الباری، ج: 11، ص: 65 پر لکھتے ہیں کہ یزید تو یزید ہی تھا۔“

(2) شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ

آپ کی کتاب حجة الله البالغة معرکہ آراء کتاب ہے۔ اس کی دوسری جلد کے آخری صفحہ پر شاہ صاحب لکھتے ہیں:

”حدیث میں آیا ہے کہ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا اور پھر اس کے بعد والا۔ تو اس سے کچھ لوگوں نے سمجھ لیا ہے بہتر زمانہ کا ہر آدمی بعد والے زمانہ کے ہر آدمی سے بہتر ہے۔ شاہ صاحب نے لکھا کہ یہ تشریح بالکل غلط ہے۔ بعد والوں میں کئی لوگ ایسے ہیں جو پہلوں سے آگے نکل جائیں گے۔ (اور یہی رائے امام ابن عبد البر صاحب التہجد کی ہے)۔ یہ صرف زمانہ سے زمانہ کا مقابلہ ہے یعنی مجموعی طور پر پہلا دور دوسرے سے بہتر ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلے زمانہ کا ہر آدمی بعد والے زمانہ کے ہر آدمی سے بہتر ہو۔ (یہ کوئی کلیہ نہیں ہے) ایسا ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ بہتر زمانہ میں سے کچھ ایسے تھے جو بالافاق منافق تھے یا فاسق تھے مثلاً حجاج بن یوسف، یزید بن معاویہ، مختار بن عبید ثقفی اور قریش کے وہ چھوکرے جو ملک برباد کر دیں گے، اور ایسے ہی وہ لوگ جن کے برے حال کی خبر حضور ﷺ نے دی تھی۔ حق بات یہ ہے کہ پہلے زمانہ کی اکثریت

دوسرے زمانہ کی اکثریت سے بہتر ہے۔

دیکھئے! شاہ صاحب نے یزید بن معاویہ کو بالافاق منافق یا فاسق لوگوں میں شمار کیا ہے۔ گمراہی کی دعوت دینے والا شام میں یزید اور عراق میں مختار تھا۔“ (بحث فتن و مناقب، ج: 2، ص: 213)

(3) شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور سید احمد بریلوی رحمہ اللہ

شاہ شہید رحمہ اللہ سے منسوب کتاب صراط مستقیم ہے۔ یہ شاہ صاحب کی اپنی کتاب نہیں بلکہ ان کے مرشد سید احمد بریلوی رحمہ اللہ کے ملفوظات ہیں۔ اس کتاب کے دو باب مولانا عبدالحی اور دو باب حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے لکھا:

لہذا یہ حوالہ حضرت سید احمد بریلوی رحمہ اللہ کا ہے جو حافظ صلاح الدین یوسف نے اپنی کتاب مذکور میں دیا اور جو فقرے یزید کے خلاف تھے، وہاں نقطے لگا دیئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سید احمد بریلوی یزید کو کیا سمجھتے تھے؟ ان کے خطوط کا مجموعہ مکاتیب سید احمد شہید رحمہ اللہ کے نام سے مکتبہ رشیدیہ لاہور سے شائع ہو چکا ہے۔ مجموعہ مکاتیب سید احمد شہید کے ص: 149 تا 151 پر میر حاجی علی خاں کے نام خط لکھا ہے کہ جہاد میں ہمارا ساتھ دو۔ سید صاحب لکھتے ہیں ”میرا ساتھ دینا دراصل میرا ساتھ دینا نہیں بلکہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے دین کا ساتھ دے رہے ہیں اور میرے جد محترم سید المرسلین ﷺ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ملعون منافق مخلص مسلمانوں سے الگ ہو جائیں۔ میرا ساتھی حسین ابن علی علیہ السلام کی فوج کا فرد ہے اور میرے مخالف کا ساتھی یزید شقی کے گروہ کے لوگ ہیں۔ میرے مخالفوں کی نوکری اور تعلق کو برقرار رکھنے کیلئے ان کا ساتھ دینا اپنے دین اور ایمان کو برباد کرنا ہے اور یزید پلید کے لشکر میں خود کو شمار کرنا ہے۔ بلاشبہ ہمارا شریک یا غازی ہے یا شہید اور ہمارا مقابل ابوجہل ہے یا یزید۔“

(4) علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ

آپ اپنی تفسیر روح المعانی میں سورہ محمد: 22/47 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ یزید میں ایمان کی رائی بھی نہیں تھی۔ اگر یہ پہلے مومن تھا تو بعد میں کافر ہو گیا۔ اب اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں۔ وہ لکھتے ہیں اگر کوئی بد بخت قرآن مجید کو باہوش و حواس (نعوذ باللہ) گندگی کے ڈھیر پر پھینک دے اور وہ منہ سے چاہے کلمہ کفر نہ بھی کہے تو وہ کافر ہے۔ اس کا تو ہین قرآن کا عمل ہی بتاتا ہے کہ وہ اب کافر ہو چکا ہے۔ علامہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ تو ہین قرآن سے بڑھ کر نہیں کہ کعبہ شریف جلادیا، حرم رسول ﷺ یعنی مدینہ شریف میں تین دن ہزاروں صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم قتل کیے، مدینہ لوٹا، اور اہل بیت نبوت کو قتل کیا۔ علامہ لکھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یزید پر لعنت نہ کرو، ان پر لعنت ہے۔ یزید کے مددگاروں پر بے شمار لعنت ہو۔“

(5) مولانا احمد رضا خاں بریلوی رحمہ اللہ

مولانا احمد رضا خاں بریلوی رحمہ اللہ اپنے فتاویٰ رضویہ ج: 6، (پرانی) ص:

107-108 پر لکھتے ہیں:

”یزید پلید علیہ ما يستحقه من العزيز المجيد (اللہ اس سے وہ سلوک کرے جس کا وہ مستحق ہے) قطعاً یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجرو جری علی الکبائر تھا (اب اس کے بعد انہوں نے کیا لکھتا تھا) اس قدر پر آئمہ اہل سنت کا اتحاد و اتفاق ہے، صرف اس کی تکفیر و لعن میں اختلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے ہیں اور تمام لے کر اس پر لعنت کرتے ہیں اور سورہ محمد: 22/47 سے اس پر سند لاتے ہیں۔“

آگے چل کر مولانا نے یزید کے ظلم گنوائے ہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر ملک میں فساد پھیلایا، حرمین طہین، خود مکہ معظمہ و روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کیں، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے، تین دن مسجد نبوی بے اذان و نماز رہی، مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کئے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑ ڈالا اور جلایا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں تین شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دیں، رسول اللہ ﷺ کے جگر پارے کو تین دن بے آب و دانہ رکھ کر مع ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیا سا ذبح کیا۔

مصطفیٰ ﷺ کی گود کے پالے ہوئے تن نازنیں پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے کہ تمام استخوان مبارک چور چور ہو گئے۔ سرانور کہ جو رسول اللہ ﷺ کا بوسہ گاہ تھا، کاٹ کر نیزہ پر چڑھایا اور منزلوں پھرایا۔ حرم محترم مخدرات قید کئے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے۔ اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا؟

ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کوفس و فجور نہ جانے۔ قرآن عظیم میں اس پر صراحۃً لعنہم اللہ فرمایا لہذا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے موافقین اس پر لعنت فرماتے ہیں۔ اور ہمارے امام اعظم لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرماتے ہیں کہ اس سے فسق و فجور متواتر ہے، کفر متواتر نہیں۔ اس کے فسق و فجور سے انکار کرنا اور امام مظلوم پر الزام رکھنا ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے اور ضلالت و بد مذہبی صاف ہے بلکہ انصافاً یہاں قلب سے متصور نہیں جس میں محبت سید عالم ﷺ کا شمعہ ہو۔

(6) امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ان کے بیٹے صالح رحمہ اللہ نے کہا کچھ لوگ یزید سے محبت کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا بیٹا! جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یزید سے محبت کر سکتا ہے؟ پھر صالح نے پوچھا آپ یزید پر لعنت کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمایا تو نے اپنے باپ کو کسی پر بھی لعنت کرتے دیکھا ہے؟ مھتا کہتا ہے میں نے امام سے یزید کے متعلق پوچھا۔ امام نے فرمایا کہ یہ یزید وہی ہے جس نے مدینہ والوں سے کیا جو کیا۔ اس نے پوچھا کیا کیا؟ امام نے فرمایا اس نے اصحاب رسول کو قتل کیا اور اس کے علاوہ اور بھی کیا۔ میں نے پوچھا اور کیا کیا؟ فرمایا اس نے فوج کو حکم دیا کہ لوگوں کے گھر لوٹ لو۔ پھر میں نے پوچھا کیا اس سے روایت کی جائے؟ امام نے فرمایا بالکل نہیں! اور یہی حافظ ابو یعلیٰ اور دوسروں نے کہا۔

ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قاضی ابو یعلیٰ نے اپنی کتاب المعتقد فی الاصول میں صالح بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ میں نے اپنے والد سے ذکر کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم یزید سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا! بھلا جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، وہ یزید سے محبت کیسے رکھ سکتا ہے اور ایسے شخص پر کیوں نہ لعنت کی جائے جس پر حق تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے۔ میں نے کہا ابا جان! اللہ نے اپنی کتاب میں یزید پر کہا لعنت فرمائی ہے۔؟ فرمایا جہاں ارشاد ہے کہ ”پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو ملک میں فساد ڈالو اور قراہتیں قطع کر دو، ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، پھر کر دیا ان کو بہرا اور آنکھیں اندھی کر دیں۔

(سورہ محمد: 22-23 بحوالہ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ ج: 8 ص: 434)

(7) امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ

یزید سے محبت نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ محبت خاص تو انبیاء، صدیقین و شہداو

صالحین سے رکھی جاتی ہے اور یزید کا شمار ان میں سے کسی زمرہ میں بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کا حشر ان ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے محبت ہوتی ہے اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس بات کو پسند ہی نہیں کرے گا کہ اس کا حشر یزید یا اس جیسے بادشاہوں کے ساتھ ہو جو عادل نہیں تھے۔ (تاریخ ج: 4 ص: 484)

فتاویٰ ابن تیمیہ ج: 4 ص: 487-488 پر امام لکھتے ہیں

جب تاتاریوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا ان کے مثل سردار بولائی نے مجھے اور دیگر علماء کو بلایا، میرے اور اس کے درمیان بات چیت ہوئی۔ اس نے مجھ سے جو باتیں پوچھیں ان میں سے یہ بھی تھی کہ تم یزید کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں نہ اس کو گالی دیتے ہیں۔ کیونکہ نہ تو وہ نیک آدمی تھا کہ اس سے محبت کریں اور مسلمان کو ہم نام لے کر گالی بھی نہیں دیتے۔ بولائی نے کہا تم اس پر لعنت کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ ظالم نہیں تھا؟ کیا اس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل نہیں کیا؟ امام نے کہا جب ہم ظالموں کا ذکر کرتے ہیں تو حجاج اور اس جیسے سارے لوگوں پر مشترکہ لعنت کر دیتے ہیں جیسا کہ قرآن نے کہا ظالموں پر اللہ کی لعنت اور نام لے کر ہم لعنت نہیں کرتے ہمارے علماء میں سے کئی نام لے کر بھی اس پر لعنت کرتے ہیں اور ان دونوں باتوں کی گنجائش ہے کہ نام لے کر لعنت کریں یا مشترکہ لعنت کریں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا یا ان کے قتل میں مدد کی یا ان کے قتل پر راضی ہوئے ان پر اللہ، فرشتوں، اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ ایسے لوگوں کا نہ اللہ فرض قبول کرے گا نہ نفل!

بولائی نے پوچھا تم اہل بیت سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے جواب دیا کہ اہل

بیت کی محبت فرض اور واجب ہے اس پر اجر ملتا ہے کیونکہ صحیح مسلم میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے ثابت شدہ حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب حج سے لوٹے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک تالاب غدیر خم پر خطبہ دیا اور فرمایا لوگو! میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میرا خاندان ہے۔ پھر تین دفعہ فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تم کو اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں۔ اس طرح حضور ﷺ اپنی آل کے بارے میں وصیت فرما گئے۔

”پھر میں نے بولائی سے کہا ہم اہل بیت سے محبت کیوں نہ کریں جبکہ ہم اپنی روزانہ کی نمازوں میں ان پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ بولائی نے پوچھا، پھر جو ان سے بغض رکھے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا اس پر اللہ فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ اللہ ان لوگوں کا نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل۔“

امام لکھتے ہیں:

”میں نے وزیر سے پوچھا کہ یہ تاتاری اتنی کھود کرید کیوں کر رہا ہے؟ وزیر نے کہا بولائی کو بتایا گیا ہے کہ دمشق کے رہنے والے ناہمی ہیں۔ پھر میں نے اونچی آواز سے کہا جو یہ کہتا ہے کہ دمشق کے لوگ ناہمی ہیں۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، جو یہ بات کہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کی قسم! ہم اہل دمشق ناہمی نہیں ہیں، میں نے ان میں کوئی ناہمی نہیں دیکھا۔ یہاں اگر کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا کہے تو لوگ اس کو قتل کر دیں گے، ہاں! ایک وقت تھا جب ان علاقوں پر بنی امیہ حاکم تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا کہتے تھے۔ آج ان میں سے کوئی نہیں رہا۔ اب یہاں سارے اہل بیت کے محبت ہیں۔ یہ سارے یزید کو فاسق اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو مظلوم مانتے ہیں۔“

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ ج: 4، ص: 511 پر لکھتے ہیں شہادت حسین رضی اللہ عنہ بڑی عظیم مصیبت ہے۔ امام منہاج السنہ ج: 2، ص: 288 پر لکھتے ہیں کہ

یزید کا حکم ماننا آئمہ مسلمین میں سے کسی کا عقیدہ نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنہ ج: 4، ص: 179 پر لکھتے ہیں کہ ناہمی جاہلوں کی ایک جماعت اس یزید کو صحابی خیال کرتی ہے اور بعض غالی ناہمی اس کو نبی بھی مانتے ہیں۔

(8) مولانا فقیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث عالم

اب ایک اہل حدیث عالم کا نایاب حوالہ پیش خدمت ہے۔ ہندوستان کے برطانوی دور میں یمن سے ایک شافعی عالم آیا، جس نے امیر معاویہ کے خلاف ایک کتاب لکھی۔ تو اس کا جواب ایک اہل حدیث عالم مولانا فقیر اللہ نے لکھا۔ اس کتاب کا نام تھا مُفَسِّسُ مُعَاوِيَةَ مِنَ الْفِرْقَةِ الْغَالِيَةِ، (جس نے معاویہ کو فاسق کہا وہ گمراہ ٹولے میں سے ہے)۔ وہ کتاب امیر معاویہ کے دفاع میں لکھی گئی۔ اس کے ص: 34 پر مولانا لکھتے ہیں کہ لوگ امیر معاویہ کے خلاف کیوں ہیں؟ ایک تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ لڑنے کی بنا پر جو صفین میں لڑی گئی۔ دوسری وجہ وہ قیامت اور بڑا سانحہ ہے جو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ امام حسین کی شہادت کا سبب امیر معاویہ کا بیٹا تھا جو نیک نہیں تھا، جو راہ راست پر نہیں تھا، اس میں اہل بیت کی دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، وہ زمین میں فساد برپا کرنے والا احق یزید تھا۔ یہ وہی یزید ہے جس نے لوگوں کو گھبراہٹ میں ڈال دیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل میں اس کی نفرت بیٹھ گئی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اس نے دکھ دیا۔ مسلمانوں کے دل محبت لے کر پیدا ہوئے ہیں، ان دلوں کو اس نے زخمی کر دیا۔ اور ساری کائنات کے سردار کے جگر کا ٹکڑا جس کو رسول اللہ ﷺ چومتے تھے اور خطبہ دیتے ہوئے منبر سے اتر کر حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو اٹھا لیتے تھے اور فرماتے یہ دونوں میرے باغ کے پھول ہیں تو اس حسین رضی اللہ عنہ کو اس نے شہید کر کے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا۔ وہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار تھے، ان کی شان بڑی اونچی تھی۔ اللہ نے ان کو شہادت کا مزہ چکھا کر شہیدوں کے مقام جنت میں پہنچا دیا اور یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ بات تھی۔

کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے پیارے تھے تو اللہ نے ان کی مدد کیوں نہ

کی۔ اللہ چاہتا تھا کہ وہ ان کو جنت میں شہیدوں کا درجہ دے ورنہ وہ ہر طرح سے اللہ کی حفاظت میں تھے۔ جب انہوں نے مہندی سے داڑھی رنگی ہوئی تھی (یعنی بوڑھے تھے) تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف بلا لیا اور مٹی میں ان کا جسم روند گیا۔ یہ سب ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جیسا کہ ان کے والد محترم ابو تراب علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ بھی ان کی طرح خدا کی بارگاہ میں سرخرو پہنچے۔

ان شریروں، پلیدیوں اور ظالموں کیلئے تباہی اور ہلاکت ہو، جبکہ انہوں نے مومنوں کے محبوب کے ساتھ وہ کیا جو کافر بھی نہیں کرتے۔ اللہ ان کو رسوا کرے اور رسوا کرنے والا عذاب دے۔ ان وجوہات کی بنا پر لوگ رنج میں آ گئے کہ امیر معاویہ یہ دلی عہدی والا کام نہ کرتے تو نوبت یہاں تک کیوں پہنچتی۔

آگے پھر مولانا امیر معاویہ کی صفائی پیش کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے پہلا قتل کیا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس طرح لکھ کر امیر معاویہ کی جان چھڑانے کی کوشش کی کہ ان کا کوئی قصور نہیں، بیٹے کا قصور ہے۔ یاد رکھیں! بیٹے کی صفائی کسی نے نہیں دی۔ یہ تھے ہمارے اہل حدیث علماء!

(9) مولانا عزیز الرحمن مفتی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ

عزیز الفتاویٰ مجموعہ فتاویٰ (دارالعلوم دیوبند) کی ج: 1، ص: 8 پر حکم لعنت بر یزید کے تحت لکھا ہے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک راجح یہی ہے کہ نہ اس کو کافر کہا جائے نہ اس پر لعنت کی جائے اگرچہ اسکے ظلم و جور و فسق و تعدی میں کلام نہیں ہے۔

(10) علامہ صالح بن مہدی رحمہ اللہ مقبلی یمانی سلفی کو کیانی نزہل مکہ وہ بہت بڑے مجتہد اور سلفی عالم تھے وہ اپنی کتاب العلم الشارح میں ص: 239 پر لکھتے ہیں: ”امام غزالی نے کچھ حیلے بہانے بنائے اور یزید کے بارے میں نرم رویہ

اختیار کیا۔ آگے لکھتے ہیں کہ یزید کی ان کرتوتوں کو جو معمولی ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ اللہ کے دربار سے دھتکارا ہوا ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت نصیب ہوگی۔ وہ یزید کے گناہوں میں شریک ہوگا جو اس نامراد نے ہلاکت والے کئے تھے۔“

پھر علامہ لکھتے ہیں۔

”ذرا جانہ زیادتی کرنے کی کر مگر افراط و تفریط سے اس دور میں بچنا ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا کیونکہ ہمارے زمانہ میں جہالت بہت ہو گئی ہے۔“ غزالی یزید کے بارے میں لکھتے ہیں۔

ان کا حال حاطب للیل (رات کے اندھیرے میں ایندھن اکٹھا کرنے والا) کا سا ہے جس کو پتہ نہیں چلتا کہ ہاتھ میں لکڑی آگئی ہے یا سانپ ہاتھ میں پکڑ لیا ہے۔

امام شوکانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البدور الطالع میں علامہ صالح بن مہدی مقبلی یزید کے مجتہد ہونے کی تصریح کی ہے۔ علامہ مقبلی رحمہ اللہ علم الشارح ص: 328 پر لکھتے ہیں:

”اور اس سے بھی عجیب شخص وہ ہے جو یزید مرتد کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ (یہ یزید ہی تو ہے) جس نے بزرگان امت کے ساتھ ناگفتہ بہ معاملہ کیا۔ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو خاک میں ملایا۔ سبط نبی علیہ السلام حضرت حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کو شہید کیا اور ان کی بے عزتی کی اور ان کے ساتھ وہ برتاؤ کیا کہ اگر دشمنان اسلام میں عیسائیوں کا بھی ان پر قابو چلتا تو شاید ان کا برتاؤ بھی ان حضرات کے ساتھ اس سے نرم ہوتا۔“

آگے لکھتے ہیں: ”یزید کی حرکت کو وہی معمولی سمجھے گا جو توفیق الہی سے محروم ہو اور جس کو شقاوت نے گھیر لیا ہو۔ اس طرح وہ بھی اس کے مہلک کرتوتوں میں اس کا شریک بن گیا۔ لہذا تمہیں افراط و تفریط سے بچنا چاہیے۔ لیکن اس

سلسلہ میں صبر سے کام لینا ایسا ہی ہے جیسے انگارے کو مٹھی میں پکڑنا خصوصاً جبکہ جہالت اندی چلی آتی ہو جیسا کہ ہمارے زمانے میں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت و سلامتی کے خواہاں ہیں۔ آمین

اور فقہ کا زلہ مسئلہ جس کو ابن حجر دمشقی نے اپنی کتاب المصون الموقوفہ میں بیان کیا ہے کہ:

”یزید پر لعنت کرنا جائز نہیں اگرچہ بالا جماع ایسے شخص پر لعنت کرنا جائز ہے جو شرابی ہو، قطع رحمی کا مرتکب ہو اور مدینہ کی حرمت پامال کرے اور جو حضرت حسین علیہ السلام کا قاتل ہو یا ان کے قتل کا حکم دے یا ان کے قتل سے راضی ہو لیکن خود یزید پر لعنت نہیں کر سکتے اگرچہ اس نے ان تمام امور کا ارتکاب کیا تھا اور وہ قطعاً فاسق تھا۔ اور جیسا اس کہ ان کا قول ہے ایسا ہی ہم ان کی فقہ میں پاتے ہیں کہ کسی متعین شخص پر لعنت کرنا روا نہیں۔ یہ ان کا کلیہ ہے۔ تو ان کی خدشہ میں عرض ہے کہ تمہاری فقہ میں تو قیاس الدلالتہ کی بنا پر یوں ہونا چاہیے تھا کہ نہ کسی معین شرابی پر حد لگائی جاتی، نہ کسی معین زانی پر، اور اسی طرح تمام احکام شریعت میں بھی یہی ہونا چاہیے تھا کہ کیونکہ طریقہ تو ایک ہی ہے اور اس صورت میں تمہاری منطق بھی ہوا میں اڑ گئی کیونکہ تم تو منطق کی شکل اول کی بھی جو بدیہی لانتاج ہے، مخالفت کر رہے ہو۔ لہذا اب اس کے بعد اور کون سی دلیل تمہارے سامنے ٹھہر سکتی ہے۔ کیونکہ قیاس کی شکل اول کی صورت یہ ہے کہ

(1) یہ یزید ہے جس نے شراب پی

(2) شراب پینے والا ملعون ہے

(3) لہذا یزید ملعون ہے۔

ہاں اگر یہ حضرات یوں کہتے کہ لعنت کرنے سے اس لئے بچنا چاہیے کہ

ارشاد نبوی ہے ”مومن لعنت کا ڈھیر نہیں لگایا کرتا۔“ تو بے شک اس صورت میں اہل تقویٰ کیلئے اس سے بچنے کی گنجائش ہوتی۔“

(11) حافظ محمد لکھوی رحمہ اللہ

اہل حدیث عالم مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ کے پردادا مشہور اہل حدیث عالم حافظ محمد لکھوی رحمہ اللہ جنہوں نے سات جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر پنجابی زبان میں تفسیر محمدی کے نام سے لکھی ہے، ان کی دوسری کتاب زینت الاسلام ہے۔ جس کے دوحے میں، پہلا شرک کے رد میں اور دوسرا بدعت کے رد میں ہے۔ حافظ صاحب ”زینت الاسلام“ کے دوسرے حصہ میں ص: 61 پر موسیقی کے رد میں لکھتے ہیں۔

جے سند یزید پلیدوں پکڑو اُس قوال ہزاراں

یاں اس جیہاں ہو رخلیفیاں کولوں، رل سوسنگ شراراں

یعنی اگر تم یزید پلید کو بطور سند پیش کرو کہ اس کے پاس ہزاروں گویے تھے۔ یا اس جیسے اور حکمرانوں کا نام بطور مثال پیش کرو تو تم بڑے لوگوں کے ساتھ رہو گے۔

(12) امام ابو عبد اللہ قرطبی رحمہ اللہ

”بنو امیہ کے بادشاہوں سے جو کچھ صادر ہوا از قسم فساد، اہل بیت سے جنگ، مہاجر و انصار صحابہ رضی اللہ عنہم کو مدینہ کے واقعہ حرہ میں قتل کرنا اور مکہ میں قتل کرنا، وہ کوئی چھپا ہوا فعل نہیں ہے۔ اور جو کچھ حجاج، عبد الملک اور اس کی اولاد نے حجاز و عراق میں لوگوں کے خون بہائے اور مال تباہ کئے وہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بنو امیہ نے رسول کریم ﷺ کے اہل بیت کا خیال رکھنے کی وصیت کی مکمل مخالفت کی اور ان کی مکمل نافرمانی کی۔ اہل بیت کا خون بہایا اور ان کے مال لوٹ لیے، عورتیں اور بچے قید کر لیے، ان کے مکان گرا دیے، ان کی شان کے منکر ہو گئے، ان پر لعنت کرنا اور گالیاں دینا دین بنالیا اور وصیت نبوی کے بالکل الٹ کیا اور جو امیر رسول ﷺ کو تھی اس کے خلاف کیا۔ جب بنو امیہ قیامت کے روز حضور ﷺ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو ان کی شرمندگی کا اندازہ

کون کر سکتا ہے؟ یہ حضور ﷺ سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہماری سفارش فرمائیں مگر لیکن منہ سے کہیں گے؟ اس عظیم دن ان کی رسوائی و ذلت کا کیا حال ہوگا! حول ولا قوة الا باللہ العلیٰ العظیم۔

امام لکھتے ہیں کہ حدیث میں بتائے گئے چھو کروں سے مراد یزید اور ابن زیاد ہیں۔

(مختصر تذکرہ قرطبہ، از امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ ص: 119)

(13) علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ (صاحب روح المعانی)

ان کی یزید کے بارے میں رائے خانہ کعبہ پر حملہ کے ذیل میں پچھلے صفحات پر ملاحظہ ہو۔

(14) امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ

آپ اپنی تفسیر منافع الغیب (تفسیر کبیر) میں سورہ کوثر کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”کوثر (بہت کثرت) کا ایک معنی نسل کی کثرت بھی ہے۔ یہ بات اس لیے بھی مناسب ہے کہ عاص بن وائل نے حضور ﷺ کے تحت جگر قاسم علیہ السلام کی وفات پر یہ طعنہ دیا تھا کہ آپ ﷺ اس دنیا سے اتر جائیں گے (نعوذ باللہ) اس کافر کے طعن کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ ﷺ کو بے اندازہ اولاد دیں گے جو زمانے گزرنے پر بھی ختم نہ ہوگی۔ دیکھ کتنے ہی سید قتل کر دیئے گئے، پھر دیکھ کہ دنیا اب بھی سیدوں سے بھری پڑی ہے۔ جبکہ بنی امیہ میں سے ایک بھی ایسا نہ رہا جس کی لوگ عزت کرتے ہوں۔ پھر دیکھ اولاد رسول ﷺ میں کتنے عالم ہوئے ہیں، باقر جیسے، صادق، کاظم اور رضا جیسے اور نفس زکیہ اور ان کی مثل دوسرے۔

(القول الثانی، ج: 32، ص: 124)

امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 256 پر لکھتے ہیں:

”یزید کے 15 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ ان کے نام لکھ کر امام کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک کی اولاد بھی دنیا میں نہیں رہی۔ اس کو خدا نے اتر کر دیا۔“

(15) امام ذہبی رحمہ اللہ

کاش امیر معاویہ یزید کو ولی عہد نہ بناتے (سیر اعلام النبلاء ج: 4، ص: 79)

آپ فرماتے ہیں:

”یزید عادل نہیں تھا۔ وہ اس قابل نہیں کہ اس کے روایت لی جائے۔“

(میزان الاعتدال ج: 4، ص: 440، نمبر 975)

یزید پکا ناصبی تھا۔ سنگدل، بد زبان، غلیظ، جفاکار، مے نوش، بدکار جس نے اپنی حکومت کا افتتاح حسین علیہ السلام کے قتل سے کیا اور اختتام واقعہ حرہ پر، اسی لیے اس پر لوگوں نے اس پر لعنت بھیجی اور اس کی عمر میں برکت نہ ہو سکی۔ حضرت حسین علیہ السلام کے بعد بہت سے حضرات نے اس کی خلاف خروج کیا جیسے اہل مدینہ نے یزید نے مسلم بن عقبہ کو کہہ کر کہ وہ تین دن تک مدینہ نبوی میں قتل و غارتگری جاری رکھے بڑی خطا فاحش کی۔ یہ بڑی سخت اور فاش غلطی اور اس کے ساتھ صحابی اور صحابی زادوں کا قتل عام بھی شامل ہو گیا۔ اور پہلے گزر چکا کہ حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب ابن زیاد کے ہاتھوں قتل کر دیئے گئے۔ مدینہ نبوی میں ان تین دنوں میں وہ مفساد عظیم واقع ہوئے جو حد و حساب سے باہر ہیں اور بیان نہیں کئے جاسکتے۔ بس اللہ عزوجل ہی کو ان کا علم ہے۔ یزید نے تو مسلم بن عقبہ کو بھیج کر چاہا تھا کہ اس کی سلطنت و اقتدار کی جڑیں مضبوط ہوں اور اس کے ایام حکمرانی کو بلا نزاع دوام حاصل ہو مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف مراد اس کی سزا دی اور اس کے اور اس کی خواہش کے درمیان حائل ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو سب ظالموں کی کمر توڑ دیتا ہے اس کی کمر بھی توڑ کر رکھ دی اور اسے اسی طرح پکڑا جس طرح وہ عزیز و

مقتدر کو پکڑا کرتا ہے۔ اللہ اہل مدینہ سے راضی ہو۔

(سیر اعلام النبلاء ج: 4، ص: 318 بحوالہ رضی اللہ عنہما ج: 2، ص: 36 بحوالہ حسن بصری رضی اللہ عنہ)

(16) امام شوکانی رحمہ اللہ

جو لوگ یزید جیسے فاسق اور شرابی کو امیر المؤمنین اور امام حسین علیہ السلام کو باغی کہتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ (نیل الاوطار ج: 7، ص: 186)

(17) امام سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ

امام قسطلانی رحمہ اللہ نے ان کے حوالہ سے لکھتے ہیں ”یزید پر اللہ کی لعنت ہو، وہ امام حسین علیہ السلام کے قتل پر خوش ہوا اور مکہ و مدینہ کو تاراج کیا“

(ارشاد الساری شرح بخاری کتاب الجہاد والسیور ج: 5، ص: 104-105)

”یزید اور اس کے ساتھیوں پر لعنت ہو۔“ (شرح عقائد نفیہ ص: 174)

(18) امام ابن کثیر رحمہ اللہ

آپ نے البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 223 میں جہاں واقعہ 7 کا ذکر آیا، ان حدیثوں کا ذکر کیا جن میں یہ مضمون آتا ہے:

”ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے جو اہل مدینہ کو ظلماً خوف میں مبتلا کریں۔“

وہاں ان کو بیان کر کے لکھتے ہیں:

”اس حدیث سے اور اس جیسی دوسری حدیثوں سے ان حضرات نے

استدلال کیا ہے جن کی رائے یہ ہے کہ یزید بن معاویہ پر لعنت کرنے کی

اجازت ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت میں یہی

منقول ہے اور اسی کو حلال، ابو بکر عبدالعزیز، قاضی ابویعلیٰ اور ان کے

صاحب زادے قاضی ابوالحسین نے اختیار کیا ہے اور حافظ ابوالفرج ابن

جوزی نے ایک مستقل تصنیف اس بارے میں لکھ کر اسی روایت کی تائید کی ہے اور یزید پر لعنت کرنے کو جائز بتایا ہے۔“

آپ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حوالہ سے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی

حدیث نبوی لکھ کر کہ 60ھ میں ایسے ناخلف ہوں گے جو نمازیں چھوڑیں

گے اور خواہشات کی پیروی کریں گے۔ (البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 249)

اور عنقریب غی جہنم (دوزخ کی بدترین وادی) میں داخل ہوں گے میں (ابن کثیر)

کہتا ہوں یزید پر سب سے زیادہ شراب نوشی اور بعض فواحش کا الزام لگایا گیا ہے۔

سورہ ہود: 11/102 میں فرمایا گیا کہ تمہارا رب جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا

ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے، بیشک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت ہے۔

(19) امام سیوطی رحمہ اللہ

”اللہ تعالیٰ قاتل حسین علیہ السلام پر لعنت کرے اور اس کے ساتھ ابن زیاد اور

یزید پر بھی لعنت کرے۔“ (تاریخ الخلفاء ص: 257)

”یزید امام حسین علیہ السلام کا سردیکہ کراؤل تو بہت خوش ہوا پھر مسلمانوں کے

اس فعل کو برا سمجھنے کے بعد اظہار ندامت کیا۔“ (تاریخ الخلفاء ص: 260 اردو)

(20) امام ابن حزم رحمہ اللہ ظاہری

صحابہ و تابعین میں سے جن حضرات نے یزید، ولید، سلیمان کی بیعت سے

انکار کیا وہ صرف اس بنا پر تھا کہ وہ ناپسندیدہ لوگ تھے۔

(الفصل ج: 4، ص: 169)

امام حسین علیہ السلام کی رائے میں یزید کی بیعت، بیعت ضلالت تھی۔

(الفصل ج: 4، ص: 105)

امام نے کتاب جمہرہ انساب العرب ص: 112 اور اسماء الخلفاء والاولاد و ذکر

مدوہم ص: 357-358 ملحقہ جوامع السیرۃ میں یزید کے جرائم گنائے ہیں۔

(21) حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ

یزید بد نصیب فاسقوں کے گروہ میں شامل تھا۔

(مکتوب نمبر 251، دفتر اول حصہ چہارم، ص: 60)

یزید پر لعنت کرنے سے توقف کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مستحق لعنت نہ تھا۔ ارشاد باری ہے۔ ”بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ نے دنیا و آخرت میں لعنت کی۔“

(22) علامہ بحر العلوم لکھنوی رحمہ اللہ

یزید فاسقوں میں خبیث ترین شخص تھا اور منصب خلافت سے کوسوں دور تھا بلکہ اس کے تو ایمان میں بھی شک ہے اللہ اس کا بھلا نہ کرے اور جو طرح طرح کی خبیث حرکتیں اس نے کیں، جانی پہچانی ہیں۔

(نوار الرحوت، ج: 2، ص: 223)

(24) علامہ وحید الزماں رحمہ اللہ

آپ اپنی کتاب ہدیۃ المہدی علیہ السلام میں لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کی یزید پر لعنت ہو۔ آگے لکھتے ہیں جو حضرت امام علیہ السلام کو باغی کہتا ہے وہ خطائے فاحش کرتا ہے۔“

بخاری کتاب النکاح باب ذب الرجل عن ابنته فی الغیرۃ و الانصاف کی ایک حدیث جس میں حضرت علی علیہ السلام کا ابو جہل کی مسلمان ہونے والا بیٹی سے نکاح کا معاملہ بیان ہوا ہے اور یہ کہ فاطمہ علیہا السلام میرے دل کا ٹکڑا ہے اور جو اس کو دکھ دیتا ہے وہ مجھے دکھ دیتا ہے کی شرح میں علامہ وحید الزماں لکھتے ہیں:

”حافظ رحمہ اللہ نے کہا جب حضرت فاطمہ علیہا السلام کو ایذا دینا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا ظہر اتو اب خیال کر لینا چاہیے کہ جن لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا اور

امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا یا ان کی شہادت کا باعث ہوئے، ان کا گناہ کیسا سخت ہوگا۔ دنیا میں ان کو سزا ملی اور آخرت میں بڑا سخت عذاب ہونے والا ہے۔ میں کہتا ہوں اس حدیث صحیحہ سے یزید پلید اور اس کے اعوان و انصار کا موذی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ثابت ہے۔ کیونکہ امام حسن اور حسین علیہ السلام کے قتل سے زیادہ اور کوئی ایذا حضرت فاطمہ علیہا السلام کی نہیں ہو سکتی اور اس آیت ”ان الذین یسوذوون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا و الآخرہ اعدلہم عذابا مہینا“ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے والوں پر لعنت کرنا جائز نکلتا ہے۔ لہذا یزید پلید اور ابن زیاد بد نہاد اور عمر بن سعد شقی اور شمر لعین اور سنان بن انس نخعی اور خولی وغیرہ قاتلین حسین علیہ السلام کے ملعون ہونے میں کیا شک ہے اور تعجب ہے ان علماء سے جنہوں نے ایسے ظالموں بدکاروں پر لعنت کو ناجائز قرار دے دیا۔ امام غزالی رحمہ اللہ سے تو بہت تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے احیاء العلوم میں یزید پلید کے باعث قتل امام حسین علیہ السلام ہونے کا انکار کیا حالانکہ متواتر نقلوں سے ثابت ہے کہ یزید ہی نے ابن زیاد کو حکم دیا تھا کہ یا امام حسین علیہ السلام سے بیعت لو یا ان کو قید کر کے میرے سامنے لاؤ یا قتل کرو اور جب سر مبارک امام حسین علیہ السلام کا اس کے سامنے لایا گیا تو مردود نے خوشی کی اور آپ کے منہ پر چھڑی ماری اہل بیت رسالت کی بے حرمتی کی لعنة اللہ علیہ وعلیٰ اعوانہ و انصارہ الی یوم القیامۃ و اعدلہ عذابا عظیما۔“

(بخاری مترجم، ج: 7، ص: 145)

بخاری ج: 5، ص: 257 پر ایک حدیث کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ سر امام حسین علیہ السلام دیکھ کر کہا یہ بدر کے مقتولوں کا بدلہ ہے۔

(25) مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ دیوبندی

آپ شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ یزید فاسق تھا اور اس نے ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کے کام کیئے۔

(فتح الملیم، ج: 3، ص: 503)

(26) مولانا ثناء اللہ امرتسری

بے مثل مناظر اور مشہور اہل حدیث عالم حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام کا خروج بالکل جائز تھا۔ کیونکہ انہوں نے فاسق مجاہر (اعلامیہ بدکار) یزید کے خلاف خروج کیا تھا۔ (فتاویٰ ثنائیہ ج: 2، ص: 622)

(27) امام صدر الاسلام ابوالیسر یزدوی رحمۃ اللہ علیہ

آپ لکھتے ہیں: ”ہا یزید بن معاویہ وہ ظالم تھا لیکن آیا کافر بھی تھا یا نہیں، اس بارے میں علماء میں گفتگو ہے۔ بعض اس کو کافر بتاتے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں وہ باتیں کہی جاتی ہیں جو کفر کا سبب بن سکتی ہیں اور بعض اس کی تکفیر نہیں کرتے کہ یہ باتیں صحیح نہیں اور کسی کو اس کا حال معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے مستغنی فرما دیا۔“

(اسول الدین، ص: 198)

(28) ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ

آپ لکھتے ہیں کہ اس کو (یزید کو) مسلمان کہنے کے باوجود (یہ حقیقت ہے کہ) وہ فاسق تھا، شریر تھا، ناشہ کا متوالا تھا، ظالم تھا۔ (الصواعق المحرقة، ص: 132)

(29) خواجہ محمد پارسا محدث نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ

فصل الخطاب میں آپ فرماتے ہیں:

”حق تعالیٰ نے یزید اور اس کی نسل سے ایک شخص کو بھی تو باقی نہ چھوڑا کہ جو گھر آباد رکھے اور اس میں دیا جلا سکے (نہ کوئی نام لیوا رہا نہ کوئی پانی دیوا) اور اللہ تعالیٰ سب سے سچا ہے کہ جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خود فرمایا تھا کہ بے شک تیرا دشمن ہی ابتر ہوگا۔“

(بحوالہ القرع النامی من الاصل السامی نواب سید صدیق حسن خاں رحمۃ اللہ علیہ ص: 57)

(30) علامہ عبدالحی بن عماد حنبلی رحمۃ اللہ علیہ

آپ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اپنے مخالفین سے قتال کرنے میں حق پر تھے کیونکہ آپ خلیفہ برحق تھے۔ نیز اس پر بھی اتفاق منقول ہے کہ حضرت حسین علیہ السلام کا خروج یزید کے خلاف، ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور اہل حرمین کا بنی امیہ کے خلاف، اور ابن لاشعث اور ان کے ساتھ کبار تابعین رضی اللہ عنہم اور بزرگان مسلمین رضی اللہ عنہم کا خروج حجاج کے خلاف مستحسن تھا۔ پھر جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یزید اور حجاج جیسے (ظالم و فاسق) حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا جائز ہے اور بعض حضرات کا مذہب تو یہ ہے کہ ہر ظالم کے خلاف خروج کیا جاسکتا ہے۔

(شذرات الذہب ج: 1، ص: 68)

(31) نواب سید صدیق حسن خاں رحمۃ اللہ علیہ

اہل حدیث حضرات کے امام حضرت نواب سید صدیق حسن خاں رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد نفسیہ کی شرح بغیۃ المراند شرح العقائد کے نام سے لکھی ہے۔ اہل حدیث حضرات کو یزید کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کو نواب صاحب نے یوں بیان کیا

”بعض لوگ یزید کے بارے میں غلو و افراط کا راستہ اختیار کر کے کہتے ہیں کہ اس کو تو مسلمانوں نے بالاتفاق امیر بنایا تھا لہذا اس کی اطاعت حضرت حسین علیہ السلام پر واجب تھی۔ اس بات کے زبان سے نکالنے اور اس پر اعتقاد رکھنے سے اللہ کی پناہ کہ وہ (یزید) امام حسین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے امام اور امیر ہو اور مسلمانوں کا اتفاق کیا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت اور انکی اولاد جو اس پلید کے زمانہ میں تھی، ان سب نے انکار کیا، اور اس کی اطاعت سے باہر ہو گئے۔ اور اہل مدینہ کے بعض حضرات کو جب اس کے حال کا پتہ چلا تو انہوں نے اس کی بیعت توڑ ڈالی، وہ تارک صلوٰۃ، شراب خور، زانی،

فاسق اور محرمات کا حلال کرنے والا تھا۔ اور بعض علماء جیسے کہ امام احمد اور ان جیسے دوسرے بزرگ ہیں اس پر لعنت کو رد رکھتے ہیں۔ حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ نے سلف سے اس پر لعنت کرنے کو نقل کیا ہے۔ کیونکہ جس وقت اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا، وہ کافر ہو گیا اور جس نے حضرت ممدوح کو قتل کیا یا آپ کے قتل کا حکم دیا اس پر لعنت کے جواز پر اتفاق ہے۔ علامہ تفتازانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ قتل حسین علیہ السلام پر یزید کی رضا مندی اور اس پر اس کا خوش ہونا اور اہل بیت نبوی علیہم السلام کی توہین کرنا، یہ متواتر المعنی ہے گو اس کی تفصیلات کا ثبوت اخبار احاد سے ہو۔ لہذا ہم اس کے بارے میں تو کیا اس کے ایمان کے بارے میں بھی توقف سے کام نہیں لیتے۔ اللہ کی اس پر بھی لعنت ہو اور اس کے مدگاروں پر بھی۔

بہر حال وہ اکثر لوگوں کے نزدیک انسانوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت ہے اور جو بڑے کام اس منحوس نے اس امت کے اندر کئے ہیں وہ ہرگز کسی کے ہاتھوں نہیں ہو سکتے۔

امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد اس نے مدینہ منورہ اجاڑنے کیلئے لشکر بھیجا اور جو صحابہ رضی اللہ عنہ و تابعین رضی اللہ عنہ وہاں باقی رہ گئے تھے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا اور پھر حرم مکہ کی عزت پامال کرنے اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے کے درپے ہو گیا۔ اور اسی ناپسندیدہ حالت میں دنیا سے چل بسا۔ اب اس کے توبہ کرنے اور باز آنے کا احتمال ہی کہاں رہا۔“

(بعیۃ الرائد فی شرح العقائد ص 63، طبع مطبع علوی لکھنؤ)

(32) شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ

آپ تکمیل الایمان میں لکھتے ہیں:

”مختصر یہ کہ وہ ہمارے نزدیک تمام انسانوں میں مبغوض ترین ہے۔ جو کام

کہ اس بد بخت منحوس نے اس امت میں کئے ہیں کسی نے نہیں کئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے اور اہل بیت کی توہین کرنے کے بعد اس نے مدینہ پاک کو تباہ و برباد کرنے اور اہل مدینہ کو قتل کرنے کے لئے لشکر بھیجا اور جو صحابہ و تابعین وہاں باقی رہ گئے تھے، ان کو قتل کرنے کا حکم دیا اور مدینہ کو برباد کرنے کے بعد مکہ معظمہ کو منہدم کرنے اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم دیا۔ پھر اس دوران جبکہ مکہ محاصرہ کی حالت میں تھا، دنیا سے جہنم چلا گیا۔ باقی رہا یہ احتمال کہ شاید اس نے توبہ و رجوع کر لیا ہو، یہ خدا جانے حق تعالیٰ ہمارے اور سب مسلمانوں کے دلوں کو اس کی اور اسکے ساتھیوں کی محبت اور دوستی بلکہ ہر اس شخص کی محبت اور دوستی سے جس کا برتاؤ اہل بیت نبوی سے برابر پایا جس نے بھی ان کے حق میں برا سوچا، ان کے حق کو پامال کیا اور جس کو بھی ان کے ساتھ صدق عقیدت نہیں ہے یا نہیں تھی، ان سب کی محبت اور دوستی سے محفوظ رکھے اور ہمارا اور ہم سے محبت رکھنے والوں کا ان حضرات کے دشمن میں حشر فرمائے اور دنیا و آخرت میں ان ہی حضرات کے دین و مذہب پر رکھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد امجاد کے طفیل اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ دعا قبول فرمائے بیشک اللہ تعالیٰ قریب ہے اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ آمین۔“

(ص 70-71)

(33) یزید اور ابن عباس رضی اللہ عنہ

یزید نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے طہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ (مجان صحابہ ان الفاظ پر غور فرمائیں) نے آپ کو اپنی بیعت کیلئے کہا تھا اور آپ ہماری وفاداری پر مستقیم رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ جیسے رشتہ دار کو بہتر سے بہتر جزائے خیر عطا فرمائے جو وہ ان حضرات کو عطا کرتا ہے جو صلہ رحمی کرتے ہیں اور اپنے عہد پر قائم رہتے ہیں۔ سواب میں اور کچھ بھولوں تو

بھولوں، لیکن آپ کے احسان کو نہیں بھولوں گا اور نہ آپ کی خدمت میں ایسے صلے کی رواں گئی کو جو آپ کے شایان شان ہو۔ اب آپ زرا اتنا خیال اور رکھیں کہ جو بھی بیرونی آدمی آپ کی خدمت میں آئے جسے ابن زبیرؓ نے اسے چرب زبانی سے متاثر کر لیا ہو تو آپ اسے ابن زبیرؓ کے حال سے آگاہ فرمائیں۔ اس حرم کعبہ کی حرمت حلال کرنے والے کی نسبت لوگ آپ کی بات زیادہ سنتے اور مانتے ہیں۔ (اکمال ابن اثیر ج: 4، ص: 50)

اس خط میں یزید نے ابن زبیرؓ کو طحطاہ اور حرم کی حرمت کو حلال کرنے والا کہا اور رشوت کی پیش کش کی جو اس کا خاندانی پیشہ تھا۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے جواباً یزید کو سرزنش نامہ تحریر کیا وہ یہ ہے۔

”تمہارا خط ملا۔ میں نے جو ابن زبیرؓ کی بیعت نہیں کی تو واللہ اس سلسلہ میں تم سے حسن سلوک اور تعریف نہیں چاہتا۔ بلکہ جس نیت سے میں نے کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تمہیں جو یہ زعم ہے کہ میرے حسن سلوک کو فراموش نہ کرو گے تو اے انسان اپنے حسن سلوک کو اپنے پاس رکھ، کیونکہ میں حسن سلوک کو تم سے اٹھا رکھوں گا۔ اور تم نے یہ جو مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کروں اور ابن زبیرؓ سے نفرت دلاؤں اور بے یار و مددگار چھوڑنے پر آمادہ کروں، تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، نہ تمہاری خوشی ہمیں منظور ہے اور نہ تمہارا عزاز، اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے حالانکہ تم نے حسینؓ کو اور ان جو انان عبدالطلب کو قتل کیا جو ہدایت کے چراغ اور ناموروں میں ستارے تھے۔ تمہارے سواروں نے تمہارے حکم سے ان لوگوں کو خون میں لت پت ایک کھلے میدان میں اس حال میں ڈال دیا تھا کہ ان کے بدن پر جو کچھ تھا، وہ چھینا جا چکا تھا۔ پیاس کی حالت میں ان کو قتل کیا گیا اور بغیر کفن کے بے سہارا پڑا رہنے دیا گیا۔ ہوائیں ان پر خاک ڈالتی

رہیں اور بھوکے، بجو باری باری ان کی لاشوں پر آتے جاتے رہے، پھر حق تعالیٰ نے ان کیلئے ایسے لوگوں کو بھیجا جن کے ہاتھ ان کے خون سے رنگین نہ تھے۔ ان لوگوں نے آکر ان کو کفن دیا اور دفن کیا۔ حالانکہ بخدا ان ہی کے طفیل تجھے یہ عزت ملی ہے اور اس جگہ بیٹھنا نصیب ہوا جہاں تو اب بیٹھا ہوا ہے۔ میں چاہے سب باتیں بھول جاؤں مگر اس بات کو نہیں بھول سکتا کہ تو نے ہی مجبور کر کے حسینؓ کو مدینہ سے مکہ پہنچایا۔ اور پھر تو اپنے سواروں کو مسلسل ان کے پاس بھیجتا رہا اور لگاتار بھیجنے کی باتیں کر کے ان کو عراق کی طرف روانہ کر کے چھوڑا۔ چنانچہ وہ حرم مکہ سے اس حال میں نکلے کہ ان کو دھڑکا لگا ہوا تھا اور پھر تیرے سواروں نے ان کو جالیا یہ سب کچھ تو نے خدا، رسول اور اہل بیت کی دشمنی میں کیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نجاست دور کر کے ان کو خوب پاک صاف کر دیا تھا۔ حسینؓ نے تمہارے سامنے صلح کی بھی پیش کش کی اور واپس لوٹ جانے کی بھی درخواست کی مگر تم نے یہ دیکھ کر کہ وہ اس وقت بے یار و مددگار ہیں اور ان کے خاندان کو ختم کیا جاسکتا ہے، موقع کو غنیمت جانا اور تم ان کے خلاف باہم تعاون کر کے (پنے قلم بہم گردیدے بے دینے بہ بے دینے) ان پر اس طرح ٹوٹ پڑے کہ گویا تم مشرکوں یا کافروں کے خاندان کو قتل کر رہے ہو۔ لہذا میرے نزدیک اب اس سے زیادہ اور کیا تعجب کی بات ہوگی کہ تو میری دوستی کا طالب ہے، حالانکہ تو میرے دادا کے خاندان کو قتل کر چکا ہے اور تیری تلوار سے میرا خون ٹپک رہا۔ اب تو تو میرے انتقام کا ہدف ہے اور اس خیال میں نہ رہنا کہ آج تو نے ہم پر فتح پالی ہے، ہم بھی کسی نہ کسی دن تجھ پر فتح پا کر رہیں گے۔ والسلام

(34) امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور شمس الاسلام امام ابو الحسن علی بن محمد عماد الدین کیا ہر اسی (شافعی) رحمہ اللہ

آپ امام غزالی کے استاد بھائی تھے۔ ابن خلکان نے اپنی تاریخ میں ج: 1، ص: 327 پر ان کا فتویٰ نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں:

”یزید صحابی نہیں تھا کیونکہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں پیدا ہوا۔ رہا سلف کا قول اس پر لعنت کے بارے میں تو امام احمد رحمہ اللہ کے اس بارے میں دو قول ہیں۔ ایک میں اس کے ملعون ہونے کی طرف اشارہ ہے اور دوسرے میں تصریح ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس کے بارے میں دو قول ہیں، ایک میں اس پر لعنت کا اشارہ ہے اور دوسرے میں تصریح ہے۔ اور ہمارا تو بس ایک ہی قول ہے جس میں اس پر لعنت کی تصریح ہے، اشارہ کنایہ کی بات نہیں۔“

(35) شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ

شاہ صاحب کے شاگرد مولانا سلامت اللہ کشفی رحمہ اللہ اپنی کتاب تحریر الشہادتین ص: 96-97 پر اپنا اور اپنے استاد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کا موقف لکھتے ہیں کہ ”اس میں کوئی شک نہیں کہ یزید پلید ہی حضرت حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دینے والا اور اس پر راضی و خوش تھا اور یہی جمہور اہل سنت و جماعت کا پسندیدہ مذہب ہے۔ چنانچہ معتمد علیہ کتابوں میں کہ جیسے مرزا محمد بدخشی کی مفتاح النجاة اور ملک العلماء قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی مناقب السادات اور ملا سعد الدین تفتازانی کی شرح عقائد نسفیہ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تکمیل الایمان اور ان کے علاوہ دوسری معتبر کتابوں میں مع دلائل و شواہد مذکور و مرقوم ہے اور اس لیے اس ملعون پر لعنت کے رد ہونے کو قطعی دلائل اور روشن براہین سے ثابت کر چکے ہیں۔ اور ہمارے اساتذہ

صوری و معنوی نے جس مسلک کو اختیار کیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ یزید ہی قتل حسین علیہ السلام کا حکم دینے والا اور اس پر راضی اور خوش تھا۔ اور وہ لعنت ابدی و نکال سردی کا مستحق ہے۔ اور اگر سوچا جائے تو اس ملعون کے حق میں صرف لعنت پر ہی اکتفا کرنا بھی ایسی کوتاہی ہے کہ اس پر بس نہیں کرنا چاہیے۔

چنانچہ استاد البریہ صاحب تحفہ اثنا عشریہ نے رسالہ حسن العقیدہ کے حاشیہ میں جملہ ”علیہ ما یستحقہ“ پر جو نوٹ لکھا ہے اس میں افادہ فرماتے ہیں کہ علیہ ما یستحقہ، لعنت سے کنایہ ہے اور یہ بات کہ کنایہ تصریح سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے، عربیت کا مشہور قاعدہ ہے۔ اسی کے ساتھ ما یستحقہ یعنی جس کا وہ مستحق ہے کے ابہام میں اس پر تشبیہ اور اس کی حدود و جہ خرابی جو پہاں ہے وہ صراحتاً لعنت کے لفظ کے استعمال سے فوت ہو جاتی ہے چنانچہ آیت فغشیہم من الیم ما غشیہم کی تفسیر میں اس کا بیان آتا ہے۔ اور حق یہ ہے کہ یزید کے حق میں محض لعنت پر اکتفا کرنا کوتاہی ہے، اس لیے کہ اس قدر تو مطلق مؤمن کے قتل کی سزا مقرر کر چکے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ”اور جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں ہمیشہ پڑا رہے گا، اور اللہ کا اس پر غضب ہے اور اس پر اللہ کی لعنت ہے اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار ہے۔“ (سورہ نساء: 93/4)

اور یزید نے تو اس عمل کے ارتکاب میں وہ زیادتی کی ہے جو دوسرے کو میسر ہی نہیں ہو سکی اس لیے اس زیادتی کو بجز اس کے استحقاق کے اور کسی امر پر حوالہ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ انسان کا علم اس کے خصوصی استحقاق کی معرفت سے عاجز ہے۔ واللہ اعلم و علمہ احکم انتہی (یہاں حضرت شاہ صاحب کا ارشاد ختم ہوا)

حضرت شاہ صاحب تحفہ اثنا عشریہ ص: 55 پر لکھتے ہیں:

”اور بعض انبیاء اور انبیاء زادوں تک کو قتل کر دیتے ہیں جیسے کہ یزید اور اس کے معنوی بھائی ہوئے ہیں۔ آپ ص: 11 پر لکھتے ہیں کہ اشقیائے شام و عراق نے موافق کہنے یزید پلید اور تحریص رئیس اہل بغض و فساد ابن زیاد کے امام ہمام کو کربلا میں شہید کیا۔“

(36) مولانا غلام ربانی رحمہ اللہ

پ اپی کتاب ازالۃ الخطاء فی ردۃ کشف الغطاء ص: 45-46 پر لکھتے ہیں: ”اور ظاہر ہے کہ لعن طعن کرنے سے اس کے وبال میں کمی آتی ہے جس کے بارے میں لعن طعن کیا جاتا ہے لہذا زبان کو لعنت سے آلودہ نہیں کرتے اور تحقیر عذاب کے سبب یزید پلید کی روح کو شاد نہیں کرتے بلکہ چاہتے ہیں کہ وہ اسی طرح گناہ کا بھاری بوجھ لا دے لا دے ہی کر شکستہ رہے۔“

(37) امام ابو بکر حصص حنفی رحمہ اللہ

آپ نے اپنی تفسیر احکام القرآن ج: 3، ص: 47 پر یزید کو لعین لکھا ہے۔ آپ کا شمار مجتہدین فقہاء حنفیہ میں ہے۔

(38) امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ

یزید پر لعنت کے سلسلہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو رائے ہے وہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہے جو کتاب مطالب المؤمنین میں منقول ہے۔

(زجر الشبان والشبہ عن ارتکاب الغیہ ص: 20 مولانا عبدالحی فرنگی محلی)

اسی طرح گناہ کبیرہ کے مرتکب کو لعنت کی بددعا دینے یا بربادی و ہلاکت کی دعا کرنے والا بھی گناہ گار نہیں ہوگا۔ (کتاب العالم و لمعلم ص: 17) از امام ابو حنیفہ

(39) امام طاہر بن احمد بن عبد الرشید بخاری رحمہ اللہ حنفی

آپ بخارا کے اکابر علمائے حنفیہ میں سے تھے، 542ھ میں وفات پائی آپ اپنی

کتاب خلاصۃ الفتاوی ج: 4، ص: 390 پر لکھتے ہیں:

”میں نے شیخ امام زاہد قوام الدین صفاری رحمہ اللہ سے سنا ہے، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے۔ فرماتے تھے کہ یزید پر لعنت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔“

امام صفاری رحمہ اللہ کا تعارف علامہ کفوی نے ان لفظوں میں کرایا ہے۔

”شیخ الاسلام امام الانہ اپنے زمانہ میں اصول و فروع سے متعلق دینی علوم میں یکتا اور مجتہد عصر تھے۔ ان کے والد ماجد رکن الاسلام ابراہیم بن اسماعیل زاہد صفار رحمہ اللہ امام غزالی رحمہ اللہ کے ہم عصر ہیں۔ ان کے بارے میں میں حافظ سمعانی رحمہ اللہ نے کتاب الانساب میں نسبت صفار کے تحت لکھا ہے ”کمان اماماً ورعاً زاهداً“ فقہ میں امامت کے ساتھ ساتھ بڑے پایہ کے محدث بھی تھے۔ قاضی خاں رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ سلاً انصاری والکی ہیں۔ ان کا پورا خاندان اہل علم و فضل کا خاندان ہے۔“

(الفوائد البیہ فی طبقات الحنفیہ مولانا عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی)

(40) امام حافظ الدین محمد بن محمد بن شہاب الدین المعروف بابن البرز از کردی حنفی متوفی 827ھ

آپ فتاویٰ بزازیہ حاشیہ فتاویٰ ہندیہ (عالمگیری) میں لکھتے ہیں:

”حق یہ ہے کہ یزید پر اس کے کفر کی شہرت نیز اس کی گھناؤنی شرارت کی متواتر خبروں کی بنا پر جس کی تفصیلات معلوم ہیں، لعنت ہی کی جائے گی۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید کا صالح و متقی ہونا تو کجا اس کی جو حیثیت علماء کی نظر میں ہے وہ اس سے زیادہ نہیں کہ ان میں باہم اس امر پر اختلاف ہے کہ اس کی موت اسلام پر ہوئی یا کفر پر اور آیا اس پر لعنت کی جاسکتی ہے یا نہیں، بس اتنی سی بات ہی یزید کی شخصیت کا اندازہ لگانے کیلئے کافی ہے۔

(41) معاویہ بن یزید بن معاویہ۔ سب سے اہم گواہ

یزید کا یہ سعادت مند بیٹا جب باپ کے مرنے کے بعد حکمران بنا تو اس نے برسرِ منبر اپنے باپ کے بارے میں یہ اظہار خیال کیا۔

”میرے باپ نے حکومت سنبھالی تو وہ اس کا اہل ہی نہ تھا۔ اس نے رسول اللہ ﷺ کے نواسے سے جنگ کی۔ آخر اس کی عمر گھٹ گئی اور نسل ختم ہو گئی اور پھر وہ اپنی قبر میں اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر دفن ہو گیا۔ یہ کہہ معاویہ بن یزید رونے لگے۔ پھر کہنے لگے جو بات ہم پر سب سے زیادہ گراں ہے وہ یہی کہ اس کا برانجام اور بری عاقبت ہمیں معلوم ہے۔ (اور کیوں نہ ہو جبکہ) اس نے واقعی عترت رسول ﷺ کو قتل کیا، شراب کو مباح کیا، بیت اللہ کو برباد کیا، اور میں نے خلافت کی حلاوت چھٹی ہی نہیں تو اس کی تلخیوں کو کیوں جھیلوں؟ اس لیے اب تم جانو اور تمہارا کام خدا کی قسم! اگر دنیا خیر ہے تو ہم اس کا بڑا حصہ حاصل کر چکے اور اگر شر ہے تو جو کچھ ابوسفیان کی اولاد نے دنیا سے کما لیا وہ کافی ہے۔ میں اس حکومت کے کام میں کمزور ہوں۔ نہ تو تم میں مجھے عمر رضی اللہ عنہ جیسا نظر آیا کہ اسے اپنا جانشین بنا دوں، نہ اس کی شوریٰ کے ممبران جیسے لوگ میسر ہیں۔ تم اپنے اس معاملہ کو بہتر سمجھتے ہو جس کو تم پسند کرتے ہو، چن لو۔“ (صوائق المحرقہ ص: 134، البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 257)

معاویہ اس کے 40 دن بعد فوت ہو گئے۔

(42) عبید اللہ بن زیاد بد نہاد کی گواہی

یزید کے خاص الخاص شریک کار، اس کے بردارِ عمزاد (بشرطیکہ استحقاق زیاد صحیح ہو) ابن زیاد کا یزید پر تبصرہ ملاحظہ ہو۔

”یزید نے ابن مرجانہ (ابن زیاد) کو لکھا کہ جا کر ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے جنگ کرو۔ تو ابن زیاد نے کہا میں اس فاسق (یزید) کی خاطر دو برائیاں اپنے

نامہ اعمال میں کبھی جمع نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ ﷺ کے نواسے کو قتل کر چکا اور اب خانہ کعبہ پر بھی چڑھائی کروں۔“

(ابن جریر طبری، تاریخ ج: 5، ص: 483-484 البدایہ والنہایہ جلد 8 ص: 237)

ذرا اُس ملعون ابن زیاد بد نہاد کا زہد و اتقلا ملاحظہ ہو ہائے اس زود پشیمیاں کا پشیمیاں ہونا!

(43) محدث ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ

آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی فضیلت اور ان سے جنگ کرنے والوں کی مذمت علماء اہل سنت اور اکابر ائمہ امت کے نزدیک متفق علیہ ہے۔

(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ج: 11، ص: 387)

(44) مولانا امجد علی رحمہ اللہ شاگرد مولانا احمد رضا خاں بریلوی رحمہ اللہ

آپ اپنی کتاب بہار شریعت ج: 1، ص: 76 پر یزید کے بارے میں عقیدہ لکھتے ہیں ”یزید پلید، فاسق، فاجر، مرتکب کبائر تھا۔ معاذ اللہ اس سے اور ریحانہ رسول ﷺ سیدنا امام حسین سے کیا نسبت؟ آج کل جو بعض گمراہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملے میں کیا دخل ہے، ہمارے وہ بھی شہزادے، وہ بھی شہزادے، ایسا کہنے والا مردود خارجی ناصبی مستحق جہنم ہے۔ ہاں یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علمائے اہل سنت کے تین قول ہیں۔ اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ کا مسلک سکوت ہے یعنی ہم اسے فاسق و فاجر کہنے کے سوانہ کافر کہیں نہ مسلمان۔“

(45) قاضی مظہر حسین دیوبندی

یہ مولانا کرم دین جہلمی کے بیٹے ہیں ان کے والد مشہور مناظر تھے۔ آپ نے مولانا خلیل احمد سہارن پوری کی کتاب مطرقۃ الکرامہ کا مفصل مقدمہ تقدیم الکتاب کے نام سے لکھا ہے۔ اس مقدمہ کے ص: 44 اور ص: 54 پر آپ لکھتے ہیں:

”مولوی عظیم الدین صاحب ہی بتائیں کہ جو خلیفہ دو غیر محرم مرد و عورت کو

خلوت خانہ میں داخل کر کے ساری رات ان کی عشق بازی کے مشاہدہ میں گزار دیتا ہے۔ اگر اکابر اسلام (متاخرین میں سے) حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اکابر دیوبند شیخ الاسلام حضرت مدنی تک یزید کو فاسق قرار دیتے ہیں تو ان کا اس میں کیا قصور ہے۔ کیا خلیفہ راشد کا گھناؤنا، فاسقانہ کردار ہوا کرتا ہے اور کیا پاکستان میں یہ خارجی گروہ پاکستان کے سربراہوں سے اپنے خود ساختہ خلیفہ راشد یزید کے اس قسم کے کردار کی پیروی کرنا چاہتا ہے۔

بسوخت عقل زحیرت کہ ایں چہ بو العجبی است

آپ اپنی کتاب خارجی فتنہ ص: 605 پر لکھتے ہیں:

”جو لوگ اکابر دیوبند کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے وہ دیوبندی کہلو کر بھی ان حضرات پر جرح کرتے ہیں۔“

(46) مولانا عبدالحق حقانی دیوبندی

حضرت حسن علیہ السلام کے بعد امیر معاویہ حکومت کرتے رہے، بعد ان کے ان کا بیٹا یزید بد بخت جانشین ہوا۔ اس نالائق دنیا دار نے اس خوف سے مبادا حضرت حسن علیہ السلام خلافت کا دعویٰ نہ کر بیٹھیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں۔ ان کے رو برد مجھے کون پوچھے گا، حضرت حسن علیہ السلام کو زہر دلو کر شہید کر دیا اور چند سال بعد حضرت حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کر دیا۔ اس کم بخت کے بے دین ہونے میں کیا شک ہے۔“

حاشیے میں فرماتے ہیں:

”معاویہ، علی علیہ السلام کو تسلیم نہ کر کے آپ خلیفہ ہونا چاہتے تھے۔“

(عقائد الاسلام طبع نہم ص 232)

یہ امر قابل ذکر ہے کہ عقائد الاسلام کے آغاز میں مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا حبیب الرحمن مہتمم دارالعلوم دیوبند، مولانا سید انور شاہ، مولانا عزیز

الرحمن دیوبند، اور مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کی تقاریر موجود ہیں۔

(47) شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا تبلیغی جماعت والے

آپ نے موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شرح اوجز المسالک کے نام سے لکھی ہے۔ موطا کتب الفرائض باب العمل فیمن جہل، آمرہ بالقتل وغیر ذلک، میں ان لوگوں کی میراث کے بیان میں جن کی موت کا وقت معلوم نہ ہو، واقعہ ۷۰ کی شرح بیان فرمائی ہے۔ (موطا مترجم ص: 572) ان کی طویل شرح کا خلاصہ یہ ہے۔

”یزید کا لشکر جو مدینے پر حملہ آور ہوا تھا، اس میں ستائیس ہزار سوار اور پندرہ

ہزار پیادے تھے۔ تین دن تک قتل و غارت کا بازار گرم رہا۔ دو ہزار خواتین

کی آبروریزی ہوئی۔ قریش و انصار کے سات سو نمایاں افراد شہید ہوئے

اور موالی، عورتوں، بچوں کے مقتولین کی تعداد دس ہزار تھی۔ پھر ابن عقبہ

نے لوگوں کو اس طرح بیعت پر مجبور کیا کہ وہ اس کے غلام ہیں، وہ چاہے تو

ان کی جان بخش دے، چاہے تو قتل کر دے۔ حضرت سعید بن مسیب کا بیان

ہے کہ اصحاب حدیبیہ رضی اللہ عنہم میں سے کوئی نہ بچا۔ اہل مدینہ اول روز سے

امارت یزید سے نفرت رکھتے تھے۔ انہیں اس کے فسق و فجور، شراب نوشی،

ارتکاب کہانز اور ہتک حرمت کی معلومات ملیں تو انہوں نے امارت ماننے

سے انکار کر دیا۔ عبداللہ بن حظلہ غسیل الملائکہ فرماتے تھے کہ خدا کی قسم ہم

یزید کے خلاف اس وقت اٹھے، جب ہم ڈرنے لگے کہ ہم پر پتھروں کی بارش

نہ ہو، یہ شخص امہات اولاد سے نکاح کرتا تھا، شراب پیتا تھا اور نماز کو ترک

کر دیتا تھا۔ ابن قتیبہ کا بیان ہے کہ حارثہ کے بعد کوئی بدری صحابی زندہ نہ

رہا۔ ابن عقبہ نے یزید کو لکھا کہ ہم نے دشمنوں کو تہ تیغ کر دیا، جو سامنے آیا

اُسے قتل کیا، جو بھاگا اس کو جالیا، اور جو زخمی ہوا اس کا کام بھی تمام کیا۔“

(اوجز المسالک ج: 5، کتاب الفرائض)

(48) مولانا عبدالحی عظیمیؒ فرنگی محلی، لکھنوی حنفی

آپ ایک سوال کے جواب پر ان لوگوں کی تردید کرتے جو کہتے ہیں کہ یزید بالاتفاق تمام مسلمانوں کا امیر بن گیا تھا اور اس کی اطاعت امام حسینؑ پر واجب تھی، پھر اہل مدینہ کے یزید پر الزامات از قسم شراب نوشی، ترک صلوٰۃ، زنا، محارم سے حرام کاری نقل کرتے ہیں، پھر یزید کا حضرت امام حسینؑ کے قتل پر خوش ہونا نقل کرتے ہیں اور آخر میں فرماتے ہیں ”بعض کہتے ہیں کہ قتل حسینؑ گناہ کبیرہ ہے نہ کہ کفر، اور لعنت کفار کیلئے مخصوص ہے۔ ان لوگوں کی فطانت و ذہانت کے کیا کہنے! ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ کفر تو ایک طرف فقط ایذائے رسول اللہ ﷺ کے کیا نتائج ہوں گے؟

بعض نے کہا کہ یزید کے خاتمے کا حال معلوم نہیں شاید کفر و معصیت کے ارتکاب کے بعد اس نے توبہ کر لی ہو اور اس پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ امام غزالیؒ کا میلان احیاء العلوم میں اسی طرف ہے مگر مخفی نہ رہے کہ یہ توبہ اور معاصی سے رجوع ایک احتمال ہے ورنہ اس بد بخت نے اس امت میں جو کچھ کیا، کسی نہ کیا۔ امام حسینؑ و اہل بیت کی توہین اور قتل کے بعد اس نے اپنے لشکر کو مدینہ مطہرہ کی تخریب اور اہل مدینہ کے قتل کیلئے بھیجا۔ واقعہ 7ھ میں تین روز تک مسجد نبویؐ بے اذان و نماز رہی۔ اس کے بعد مکہ معظمہ کی طرف لشکر روانہ ہوا۔ جس کے نتیجے میں آخر کار حضرت عبداللہ بن زبیرؓ عین حرم مکہ میں شہید ہوئے۔ یزید انہی مشاغل میں منہمک تھا کہ مر گیا اور جہان کو اپنے وجود سے پاک کر گیا۔

(نوائی عبدالحیؒ کامل مبوب ص: 79-80)

(49) مولانا قاسم نانوتویؒ بانی دارالعلوم دیوبند

آپ اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں:

”تاہم اہل سنت کے اصول پر کوئی دشواری باقی نہیں رہی ہے کیونکہ یزید اس صورت میں یا کھلم کھلا فاسق تھا، نماز کا ترک کرنے والا وغیرہ یا بدعت کا

مرکب تھا، کیونکہ وہ نواصب کے سرداروں میں سے تھا، ان سب پہلوؤں کے پیش نظر اس کی عام خلافت کا منعقد ہونا مسلم نہیں۔ (مکتوبات فارسی ص: 52)

آپ اجوبہ اربعین ج: 1، ص: 73 پر لکھتے ہیں:

”اوروں کی بیعت سے یزید کی بیعت ان کے ذمہ لازم نہ ہوئی۔ جو کوئی عقل کا پورا، جس کو دھتورے کے پینے کی حاجت نہیں، بوجہ بیعت اہل شام جو یزید پلید کے ہاتھ پر کر چکے تھے۔ حضرت امام ہمامؑ پر اعتراض کرے، یا مذہب اہل سنت پر آوازہ پھینکے۔“

ہدیۃ الشیعہ میں ص: 173 پر لکھتے ہیں:

”چنانچہ حضرت امام حسینؑ سید الشہداء کی جان ناز نہیں پر جو کچھ گزرا وہ سب جانتے ہیں، باعث فقط اس کا حق گوئی تھا ورنہ یزید کا کلمہ کہہ دیتے تو جان کی جان بچتی اور اہل مال و دولت اور اعزاز و اکرام تھا۔

اسی میں ص: 281 پر لکھتے ہیں ”حضرت امام حسینؑ یزید پلید سے خلافت مغضوبہ کے طالب ہوئے، یہاں تک کہ نوبت شہادت کو پہنچی۔“

(50) مولانا رشید گنگوہیؒ

آپ ہدایۃ الشیعہ میں ص: 95 پر لکھتے ہیں:

”یزید کی امامت اجماعی نہ تھی، خواص نے رد کیا عوام کا اعتبار نہیں۔ مگر جیسا اجماع پانچ پہلوؤں پر ہوا تھا، یزید پر کون سا اجماع اہل حق ہوا تھا؟ وہ تو مغضوب بزر ہو گیا تھا اور اجماع عوام کچھ معتبر نہیں۔ اس کو اس پر قیاس کرنا کمال بلا دلت ہے۔ اُس اجماع کو حضرت امیر نے جائز رکھا۔ اس کو حضرت حسینؑ اور عبداللہ بن زبیرؓ نے رد کیا۔ کجا زمین کجا آسمان، ہوش درکار ہے۔“

اسی صفحہ پر لکھتے ہیں کہ ”اب حقیقت خلفاء خمسہ کی (حضرات ابو بکرؓ،

عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب و حسن بن علی کی اور تغلب یزید پلید مثل آفتاب روشن ہو گیا۔ اگر کوہ باطن نہ سمجھے تو کسی کا کیا قصور؟

گر نہ بیند بروز شہرہ چشم
چشمہ آفتاب را چہ گناہ

مولانا گنگوہی اپنے ایک خط میں رفیع اللہ شاہ جہاں پوری کو جواب لکھتے ہیں کہ ”بعض آئمہ نے جو یزید کی نسبت کفر سے کف لسان کیا ہے وہ احتیاط ہے، کیونکہ قتل حسین علیہ السلام کو حلال جاننا کفر ہے۔ مگر یہ امر کہ یزید قتل کو حلال جاننا تھا محقق نہیں ہے لہذا کافر کہنے سے احتیاط رکھے، مگر فاسق بے شک تھا، علی ہذا دیگر قتلہ حسین علیہ السلام کا حال ہے۔“ (فتاویٰ رشیدیہ ص: 49)

(51) مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ

آپ کا ایک مفصل فتویٰ اور امداد الفتاویٰ ج: 4، ص: 463-465 میں (مسائل شنی) میں موجود ہے جس میں آپ تحریر فرماتے ہیں۔

”یزید فاسق تھا اور فاسق کی ولایت مختلف فیہ ہے۔ دوسرے صحابہ نے جائز سمجھا، حضرت امام علیہ السلام نے ناجائز سمجھا اور گواہی میں انقیاد جائز تھا مگر واجب نہ تھا اور متمسک باطلاق ہونے کے سبب یہ مظلوم تھے اور مقتول مظلوم شہید ہوتا ہے۔ شہادت غزوہ کے ساتھ مخصوص نہیں۔ پس ہم اسی بنائے مظلومیت کی بنا پر ان کو شہید مانیں گے، باقی یزید کو اس قتال میں اس لیے مظلوم نہیں کہہ سکتے کہ وہ مجتہد سے اپنی تقلید کیوں کراتا تھا۔ خصوص جبکہ امام آخر میں فرمانے لگے تھے کہ میں کچھ نہیں کہتا، اس کو تو عداوت ہی تھی۔

چنانچہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے قتل کی بنا یہی تھی۔“

(52) مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ

آپ کے مجموعہ فتاویٰ کفایت المفتی ج: 1، ص: 228 میں ایک

سوال کے جواب میں مرقوم ہے کہ امیر معاویہ نے یزید کیلئے بیعت لینے میں غلطی کی کیونکہ یزید سے بہتر اور اولیٰ و افضل موجود تھے۔

(53) خاتم المحمد شین سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ

آپ فرماتے ہیں ”عمر بن سعید کے قول سے احتجاج (دلیل) درست نہیں کیونکہ یہ شخص یزید کا عامل تھا اور یزید بلاشبہ فاسق تھا۔ اور شرح فقہ اکبر حنفی ملا علی قاری رحمہ اللہ میں ہے ”امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ یزید کافر ہے۔“

(عرف الشذی علی جامع الترمذی باب ماجاء فی حرمة مکہ ص: 332)

(54) مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ

آپ مکتوبات ج: 1، ص: 268-269 پر یوں رقمطراز ہیں:

”پھر باوجود اس کے خلع کا مسئلہ تو آج بھی متفق علیہ ہے۔ یعنی اگر خلیفہ نے ارتکاب فسق کیا تو اصحاب قدرت پر اس کو معزول کر دینا اور کسی عادل متقی کو خلیفہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ بشرطیکہ اس کے عزل و خلع سے مفاسد مصالح سے زائد نہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ان کے اتباع کی رائے میں مفاسد زیادہ نظر آئے، وہ اپنی بیعت پر قائم رہے، اور اہل مدینہ نے عموماً بعد از بیعت اور واپسی وفد از شام ایسا محسوس نہیں کیا اور سکھوں نے (تمام اہل مدینہ) نے خلع کیا جس کی بنا پر وہ قیامت خیز واقعہ نہ نمودار ہوا، جس سے مدینہ منورہ اور مسجد نبوی اور حرم محترم کی انتہائی بے حرمتی اور تذلیل ہوئی۔ کیا مقتولین حہ کو شہید نہیں کہا جائے گا؟“

(55) سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ

لالہ موسیٰ میں کی گئی تقریر پر قائم مقدمہ میں، جولدھارام سرکاری رپورٹر نے رپورٹ کی، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ایک سوال کے جواب میں شاہ صاحب نے فرمایا:

”آپ کے سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو یزید اور انگریزوں کو حسین کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کوئی مسلمان اپنے آپ کو یزید نہیں کہہ سکتا نہ ہی میں برداشت کر سکتا ہوں کہ کوئی مسلمان اپنے آپ کو یزید کہے۔“ (مقدمات امیر شریعت ص: 257 مرتبہ ابن امیر شریعت سید عطاء المکم بخاری) امیر شریعت اپنی ایک فارسی نظم میں کہتے ہیں۔

ہر کہ بدگفت خوابہ مارا
ہست او بے گماں یزید پلید

(شاہ جی کے علی و تقریری جواہر پارے ص: 148 در مدح خوابہ غلام علی)

(56) مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ

آپ اپنی کتاب شہید کربلا (ص: 94-95) میں تحریر فرماتے ہیں:

”یزید کی یہ زود پشیمانی اور بقیہ اہل بیت کے ساتھ بظاہر اکرام کا معاملہ محض اپنی بدنامی کا داغ مٹانے کیلئے تھا یا حقیقت میں کچھ خدا کا خوف اور آخرت کا خیال آگیا، یہ تو عظیم ذخیرہ ہی جانتا ہے مگر یزید کے اعمال اور کارنامے اس کے بعد بھی سیاہ کاریوں ہی سے لبریز ہیں، مرتے مرتے بھی مکہ مکرمہ پر چڑھائی کیلئے لشکر بھیج دیا۔ اس حال میں مرا ہے، عاملہ اللہ بما ہو اہلہ اسی کتاب میں ہلاکت یزید کے عنوان کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں:

”شہادت حسین علیہ السلام کے بعد یزید کوئی ایک دن چین نصیب نہ ہوا، تمام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اس کی زندگی اس کے بعد دو سال آٹھ ماہ اور ایک روایت کے مطابق تین سال آٹھ ماہ سے زائد نہیں رہی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کیا اور اسی ذلت کے ساتھ ہلاک ہوا۔“ (ص: 103)

قاتلان حسین علیہ السلام کا عبرت ناک انجام معلوم کر کے بے ساختہ یہ آیت

زبان پر آتی ہے ”عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے کاش وہ سمجھ لیتے۔“ (القلم ص: 105)
آپ ص: 106 پر لکھتے ہیں ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو شاید اس فتنہ کا علم ہو گیا تھا وہ آخر عمر میں یہ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں 60ھ سے اور نو عمروں کی امارت سے، ہجرت کے ساٹھویں سال میں یزید جیسے نو عمروں کی خلافت کا قضیہ چلا اور یہ فتنہ پیش آیا۔
انا للہ وانا الیہ راجعون۔

(57) مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ (مہتمم دارالعلوم دیوبند)

آپ نے محمود احمد عباسی کی کتاب خلافت معاویہ و یزید کے رد میں ایک کتاب شہید کربلا اور یزید کے نام سے لکھی۔ اس میں آپ یہ تحریر فرماتے ہیں۔
”غرض یہ اصول ہے عقلی بھی، شرعی بھی اور طبی بھی، کوئی جذباتی بات نہیں اسی میں یزید گرفتار ہوا۔ اس کے ایک فسق (قتل حسین علیہ السلام) نے اس کی ساری خوبیوں کو خاک میں ملادیا اور کوئی بھی اس جرم کے بعد اس کی کسی بھی بات سننے کا بھی روادار نہ رہا۔“ (ص: 148)
پھر آپ لکھتے ہیں۔

”بہر حال یزید کے فسق و فجور پر جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب ہی متفق ہیں خواہ سبائین ہوں یا مخالفین، پھر آئمہ مجتہدین بھی متفق ہیں اور ان کے بعد علمائے راسخین، محدثین، فقہاء مثلاً علامہ قسطلانی، علامہ بدر الدین عینی، علامہ بیہقی، علامہ ابن جوزی، علامہ سعد الدین تفتازانی، محقق ابن ہمام، حافظ ابن کثیر، علامہ الکلبی ہر اسی جیسے محققین یزید کے فسق پر علماء کا اتفاق نقل کر رہے ہیں اور خود بھی اس کے قائل ہیں پھر بعض ان میں سے اس فسق کے قدر مشترک کو متواتر المعنی بھی کہہ رہے ہیں، جس سے اس کا قطعی ہونا بھی

واضح ہے پھر اوپر سے آئمہ اجتہاد میں سے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک الکیا ہر اسی نقل کر رہے ہیں اور وہ خود شافعی ہیں اور فتویٰ دے رہے ہیں تو ان کی نقل ہی سے یہ مسلک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور فقہ شافعی کا بھی ثابت ہوتا ہے تو اس سے زیادہ یزید کے فسق کے متفق علیہ ہونے کی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ (ص: 153)

(58) مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ

آپ اپنی شہر آفاق تصنیف معارف السنن شرح ترمذی میں عمرو بن سعید اشدق بن العاص ابو امیہ قرشی اموی ملقب بہ لطیم الشیطان، یزیدی گورنر مدینہ کے بارے میں لکھتے ہوئے اس کے اور یزید کے مشترک جرائم کی تفصیل بیان فرماتے ہیں مثلاً واقعہ حرہ اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے قتال وغیرہ، پھر یہ لکھ کر کہ اس میں کوئی شک نہیں یزید فاسق تھا، علماء سلف کے اختلاف کا ذکر کرتے ہیں کہ یزید پر لعنت کی جائے یا نہیں، آپ یوں رقمطراز ہیں۔

”مجموعی طور پر حضرت حسین علیہ السلام کے قتل اور انکے قتال پر ابھارنے والوں سے متعلق جو کچھ کتب تاریخ سے معلوم ہوتا ہے، اس کا حاصل یہی ہے کہ یہ زندہ (چھپا ہوا کفر) اور دراصل اس سے مذہب نبوت کی توہین معلوم ہوتی ہے اور اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ پھر تفتازانی کی بات جو انہوں نے شرح نسفیہ میں نقل کی ہے کہ جواز لعنت یزید پر اتفاق ہے اور یزید کی حضرت امام کے قتل پر رضامندی اور اس پر اظہار مسرت اور اہل بیت رسول علیہم السلام کی توہین کی اگرچہ خبر معناتواتر ہے مگر واقع کی تفصیلات خبر احاد کے درجہ میں ہیں۔ پھر ابن عساکر سے یہ بھی منقول ہے کہ انہوں نے ایک قصیدہ یزید کی طرف منسوب کیا ہے جس میں یہ اشعار بھی شامل ہیں۔

لیت اشیاخی بیدر شہدا
بزج الخرج من وقع الاسل

لعت ہاشم بالملک فلا
ملک جاء ولا وحی نزل
کاش بدر کے معرکے میں قتل ہونے والے میرے بزرگ نیزوں کی مار
پڑنے سے خزعرج کی چیخ و پکار کو دیکھتے۔ (بنی) ہاشم نے ملک کے لیے کھیل
رچایا۔ نہ ان کے پاس کوئی فرشتہ آیا اور نہ ہی کوئی وحی آئی۔

حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ان اشعار کی نسبت یزید کی طرف درست ہے تو وہ بلاشبہ کافر ہے اور اسی موقعہ پر کچھ تفصیل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یافعی کا قول ہے۔ ”انہوں نے فرمایا کہ جس نے حضرت حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا یا اس سے نے قتل کیا اور اس کو جائز اور حلال جانا تو وہ کافر ہے اور اگر حلال جان کر ایسا نہ کیا تو وہ فاسق و فاجر ہے۔ واللہ اعلم۔“

حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں: ”اگر یہ اشعار یزید بن معاویہ ہی کے ہیں تو اس پر اللہ اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو اور اگر کسی نے اس کی طرف خود گھڑ کر منسوب کر دیئے، ہیں تو اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو۔“

(59) مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ

آپ اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں: ”اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے جس ناپاک اور خبیث وجود کا ہاتھ رنگین ہے اسی نے حضرت حسن علیہ السلام کو زہر دلوایا تھا۔ اسی مضمون میں آگے چل کر لکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ بن عبد العزیز نے ایک شخص کو جس نے یزید کو امیر المؤمنین کے لقب سے یاد کیا تھا، بیس کوڑے لگانے کا حکم دیا تھا۔

(رسالہ النجم لکھنؤ۔ جمادی الاوٰلیٰ۔ جمادی الاخریٰ 1349ھ ص: 39)

یزید اور جنگ قسطنطنیہ

اس جنگ کے بارے میں حدیث بخاری کو بہانہ بنا کر ناہمی یزید کو مغفور بیان کرتے ہیں جس میں یہ فرمایا گیا

”میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر روم کے شہر پر حملہ آور ہوگا۔ اس کی مغفرت کر دی گئی۔“

(بخاری کتاب الجہاد والسیر باب ما قبل فی قتال الروم ج 4، ص: 125)

اس حدیث کی بجائے اگر کعبان و شیعان یزید ایک دوسری روایت کو پیش کرتے تو ان کو زیادہ تکلف بھی نہ کرنا پڑتا اور ان کا مدوح سیدھا جنت میں پہنچ جاتا وہ یہ کہ

”بے شک اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر دوزخ کو حرام کر دیا جس نے اللہ کی رضا جوئی کیلئے لا الہ الا اللہ کہا۔“

تجب ہے کہ یزید کی منقبت میں اس حدیث کو کیوں نہیں پیش کیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ علماء و محدثین نے اس کے ساتھ ہی وضاحت فرمادی ہے کہ جو صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے تقاضے بھی پورے کرے، اس کیلئے یہ بشارت ہے ورنہ نہیں۔ لہذا ناہمی جو تاویل اس حدیث کی کریں گے، وہی تاویل پہلی پر بھی لاگو ہوگی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الفوائد ص: 17 پر لکھتے ہیں:

کہ بشارتیں نیک اعمال کے ساتھ مشروط ہیں۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ یزید بشارتوں والی دو روایات سن کر زمرہ مرجہ میں شامل ہو گیا اور دل کھول کر گناہ

کئے جیسا کہ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 59 پر لکھا ہے۔

شیعان بنی امیہ کا بھی یہی مذہب تھا کہ امام اور خلیفہ کے حسنات مقبول اور گناہ سب معاف، انکی اطاعت، طاعت و معصیت دونوں میں واجب ہے۔“

حدیث اول میں غور کرنے کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاد کیلئے نیت بہت ضروری ہے یعنی جہاد صرف اللہ کی رضا کیلئے کیا جائے اور دلی خوشی سے کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یزید کی طرح والد کے دباؤ اور ڈانٹ ڈپٹ کا نتیجہ ہو جیسے ابن اثیر نے الکامل ج: 3، ص: 181-182 پر لکھا کہ مسلمانوں کا لشکر 49ھ میں جب غزوہ (روم) کے کمپ میں بخارا اور چچک کا شکار ہوا، تو یزید نے جو بہانے بنا کر ساتھ نہ گیا تھا، شعر کہے جس میں کہا

”مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ غزوہ نہ میں مسلمانوں کے لشکر کو بخارا اور چچک کا سامنا ہے جبکہ میں دیرمزاں میں گدوں پر اونچے اونچے تکیوں کے سہارے بیٹھا ہوں اور میرے سامنے ام کشوم ہے۔“

پھر جب معاویہ کو ان اشعار کی اطلاع ہوئی تو یزید کو قسم دے کر بہا صرار روانہ کیا۔ یزید جہاد سے اتنا جی چراتا تھا کہ حکمران بنتے ہی موسم سرما کی بحری مہمیں ختم کر دیں۔

(ابن کثیر البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 143)

اور جزیرہ روڈس اور اروار سے فوج واپس بلائی تو نصاریٰ نے ان جزیروں پر بغیر لڑے قبضہ کر لیا۔

(البدایہ والنہایہ ابن کثیر بسلسلہ واقعات و حوادث 53ھ، تاریخ طبری یقین واقعات 54ھ)

مغفرت کی بشارت پر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا تہرہ یہ ہے:

”یہ اس شرط کے ساتھ مخصوص ہوگی کہ پھر بعد کی زندگی میں ایسے افعال سرزد نہ ہوتے ہوں جن سے مغفرت کی بجائے اللہ لعنت خداوندی میں گرفتار ہو جائے۔ کیونکہ جہاد کفارات میں سے ہے اور کفارات کا کام یہ ہے کہ وہ

سابقہ گناہوں کے اثر کو ازل کر دیتے ہیں، بعد میں ہونے والے گناہوں کے اثر کو ازل نہیں کرتے۔ یزید بعد میں جن جن برائیوں کا مرتکب ہوا ہے یعنی قتل حسین علیہ السلام، مدینہ کو برباد کرنا، شراب نوشی پر اصرار وغیرہ، سب گناہوں کا معاملہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے۔“ (شرح تراجم بخاری ص: 31-32)

یزید کے جرائم کی فہرست امام ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ نے جمہرہ انساب العرب ص: 112 اور رسالہ اسماء الخلفاء والولایة و ذکر مددہم ملحقہ جوامع السیرہ میں ص: 357-358 پر مختصر پیش کی ہے۔

علماء نے اسی حدیث سے مسئلہ ضرور نکالا ہے کہ جہاد فاسق کی سرکردگی میں بھی ہو سکتا ہے مثلاً جیسا کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ج: 11، ص: 65 اور امام ابوبکر حصص حنفی نے احکام القرآن ج: 3، ص: 47 پر تحریر فرمایا۔“

یہ بات بھی خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ حدیث میں اول جہش من امتی (میری امت کا پہلا لشکر) کے الفاظ آتے ہیں اور یزید کی زیرکمان جو لشکر قسطنطنیہ پر روانہ ہوا تھا، وہ وہاں حملہ آور ہونے والا پہلا لشکر قطعاً نہ تھا۔ بلکہ اس سے پہلے بہت سے اسلام کے لشکر وہاں جا کر جہاد کر چکے تھے۔ یزید کس سن میں حملہ آور ہوا، اس کے بارے میں اگرچہ مورخین کے بیانات مختلف ہیں لیکن 49ھ سے پہلے کوئی مورخ اس واقعہ کو بیان نہیں کرتا حتیٰ کہ ناصیوں کے امام التاریخ محمود عباسی کا بھی خلافت معاویہ و یزید ص: 73 پر یہی بیان ہے، اگرچہ اس نے بھی ص: 79 پر 52ھ لکھا ہے۔

اور کتب احادیث کے مطالعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 49ھ سے بہت پہلے مسلمان قسطنطنیہ پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ چنانچہ سنن ابوداؤد کتاب الجہاد (ج: 2، ص: 305)

باب فی قوله عز وجل ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکة میں مذکور ہے کہ حدیث احمد بن عمرو بن السرح نا ابن وہب من حیوة بن شریح ابن لہیعہ لمن اسلم ابی عمران کہ ہم مدینہ نبوی سے جہاد کیلئے قسطنطنیہ کی طرف روانہ

ہوئے، اس وقت لشکر کے امیر عبدالرحمن بن خالد بن ولید تھے۔ رومی فوج شہر پناہ سے پشت لگائے مسلمانوں سے جنگ کیلئے تیار تھی۔ اس اثنا میں مسلمانوں کی صف سے نکل کر ایک شخص نے دشمن کی فوج پر حملہ کر دیا۔ لوگ کہتے رہے رکو رکو، لا الہ الا اللہ، یہ شخص تو خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوالیوب انصاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آیت تو ہم انصاریوں کے بارے میں اتری ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی مدد فرمائی اور اسلام کو غلبہ عطا فرمادیا تو ہم نے کہا تھا اب ہم کو مدینہ میں رہ کر اپنے اموال کی خبر گیری اور اصلاح کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اس پر اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل کی۔ لہذا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا تو جہاد کو چھوڑ کر ہمارا اپنے اموال کی خبر گیری اور اس کی اصلاح کے خیال سے اپنے گھر میں بیٹھ رہنا تھا۔ اب عمران کہتے ہیں کہ حضرت ابوالیوب رحمہ اللہ راہ خدا میں مسلسل جہاد کرتے رہے حتیٰ کہ آپ قسطنطنیہ ہی میں دفن ہوئے۔

یہ اس غزوہ کا وہ واقعہ ہے جس کو امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے کتاب الجہاد ج: 2، ص: 374-375 کے باب فی قتل الایسر بالنیل میں ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔ جس سے عبدالرحمن بن خالد بن ولید کا امیر لشکر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ حدیث سعید بن منصور ثنا عبد اللہ بن وہب قال اخبرنی عمرو بن الحارث عن بکیو بن الاشیج لمن ابن تعلی کہ ہم عبدالرحمن بن خالد بن ولید کے ساتھ جہاد میں شریک تھے۔ ان کے سامنے دشمن کے چار بٹے کئے شخص پیش کئے گئے جن کے قتل کرنے کا حکم انہوں نے دیا کہ ان کو باندھ کر قتل کر دو۔ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ ہم سے ہمارے استاد سعید بن منصور کے علاوہ ایک دوسرے صاحب نے ابن وہب سے اس حدیث میں یوں نقل کیا ہے

کہ ان چاروں کو باندھ کر تیروں کا ہدف بنایا گیا تھا۔ جب اس امر کی خبر ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کو ملی تو آپ نے فرمایا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح باندھ کر قتل کرنے سے منع فرماتے تھے۔ پس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر کوئی مرغی بھی ہو تو اس طرح باندھ کر نشانہ نہ لوں۔ پھر آپ کے فرمانے کی اطلاع جب عبدالرحمن بن خالد بن ولید کو پہنچی تو انہوں نے اس کے کفارہ میں چار غلام آزاد کئے۔ عبدالرحمن بن خالد بن ولید کو 46ھ میں محص میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں انکا مفصل حال بیان کیا اور یہ تصریح بھی کر دی کہ حافظ ابن عساکر نے بہت سی سندوں سے نقل کیا ہے کہ معاویہ کے دور حکومت میں ان کو ردیوں سے جنگوں میں امیر لشکر بنایا جاتا تھا۔

اس ساری بحث سے یہ نتیجہ نکلا کہ یزید کی 49ھ میں لشکر کشی سے پہلے کئی سال پہلے مسلمان قسطنطنیہ پر 46ھ سے پہلے حملہ آور ہو چکے تھے۔

ابوداؤد کے سوا مندرجہ ذیل کتابوں میں بھی صحیح سند کے ساتھ اس حملہ آور فوج کا قائد عبدالرحمن بن خالد بن ولید ہی مذکور ہے۔

(1) جامع البیان فی تفسیر القرآن (تفسیر طبری) ج: 2، ص: 118-119

(2) تفسیر ابن ابی حاتم الرازی ج: 1، ص: 330-331

(3) احکام القرآن للبخاری ج: 1، ص: 326-327

(4) مستدرک حاکم ج: 2، ص: 84-85 اسے حاکم و ذہبی دونوں نے شرط شیخین (بخاری مسلم) پر صحیح کہا۔

(5) الفتح الربانی شرح مسند احمد ج: 14، ص: 107 اور سلسلۃ احادیث صحیحہ ج: 1،

ص: 18-19 حدیث نمبر 13 کے تحت بھی امیر لشکر کی بحث علامہ البانی نے کی ہے۔

سنن ترمذی کی روایت میں ”علی الجماعۃ“ فضالہ بن عبید کے جو الفاظ آگئے ہیں ان کا وہم ہونا کئی وجوہ سے ثابت ہے۔ حیوہ بن شریح کے تمام شاگرد ”علی اہل الشام“ فضالہ بن عبید کے الفاظ درست کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ سند کے ساتھ ترمذی کے علاوہ کسی دوسری کتاب میں نہیں ہیں۔ اور محققین نے بھی ترمذی کی روایت کے وہم کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مثلاً تفسیر نسائی ج: 1، ص: 239 (حاشیہ) لہذا ہزار کتابوں میں بھی ترمذی کے حوالہ سے آئے تو کچھ فائدہ نہیں۔

مولانا خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی بذل المجہود شرح ابوداؤد ج: 11، ص: 435 پر لکھتے ہیں کہ ان روایات سے ظاہر ہوا کہ عبدالرحمن بن خالد بن ولید پورے لشکر کے امیر تھے۔ ابوداؤد کی پہلی روایت بالکل صحیح اور محفوظ روایت ہے کیونکہ اسلم ابو عمران، ابوداؤد، ترمذی، نسائی کے ثقہ راوی میں (تقریب التہذیب ص: 135) یزید ابن ابی حبیب بھی ثقہ (تہذیب التہذیب ص: 1073) حیوہ بن شریح بخاری کے ثقہ راوی (تہذیب ص: 272) عبداللہ بن وہب کتب ستہ کے بنیادی راوی اور ثقہ حافظ عابد تھے (تقریب ص: 556) ابن وہب پر ابن سعد کا الزام تہذیب ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے النکت علی ابن الصلاح ج: 2، ص: 637 پر رد کر دیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ بخاری کی حدیث مدینہ قیصر میں اس بات کی کوئی صراحت نہیں کہ ان تمام حملوں میں یزید شریک تھا، یا پہلے حملہ میں وہ شریک تھا۔

سب سے پہلے جس نے یہ شوشہ چھوڑا کہ حدیث بخاری سے یزید کی منقبت نکلتی ہے۔ وہ شارح بخاری مہلب المتوفی 433ھ تھا۔ وہ اندلس میں مالقہ کا قاضی تھا اور اندلس میں اس زمانے میں خلفاء بنی امیہ کا آخری تاجدار ہشام بن محمد المعتد علی اللہ فرمانروا تھا۔ لہذا مہلب موصوف کی ساری کارگزاری بنی امیہ کی حیثیت میں تھی۔ (محدث قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، شرح بخاری، ج: 5، ص: 105)

یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ اس لشکر کے بارے میں جو روایت ہے اگرچہ بخاری اور مصنف عبدالرزاق میں ہے مگر اس کے سارے راوی شامی لوگ ہیں۔ ان راویوں میں سے ایک ثور بن یزید نامی (حضرت علی علیہ السلام کا دشمن) ہے۔ روایت کا شروع بھی شان رسالت کے قطعاً خلاف ہے۔ کسی اور مسلمان کو نہ مکہ میں اس کی خبر ہوئی نہ مدینہ میں کہ حضور علیہ السلام نے یہ اطلاع دی تھی۔ اس کو بنو امیہ کے دار الحکومت شام کے لوگ ہی بیان کرتے ہیں اور شامی بھی کیسا؟ ثور بن یزید الکلاعی! جو مدینہ آیا تو امام مالک رحمہ اللہ اور دوسرے علماء نے کہا کہ کوئی نہ اس کے پاس بیٹھے نہ اس سے روایت لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی خالد بن عبداللہ القسری کی طرح نامی تھا اور کہتا تھا کہ میں حضرت علی علیہ السلام کو کیسے پسند کر سکتا ہوں جس نے میرے دادا کو قتل کیا تھا۔ حدیث کے بارے میں یہ اصول ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی خاص گروہ کے حق میں روایت کرے اور اس کا تعلق بھی اس گروہ سے ہو، اور اس کے علاوہ کوئی اس کی تائید نہ کرے، تو ایسی روایت قبول نہ کی جائے گی۔ مثلاً کوئی شیعہ اہل بیت کی شان میں ایسی روایت بیان کرے جو اس کے علاوہ کوئی اور مسلمان روایت نہ کرے، تو چاہے وہ سچا ہو، مگر ہم اس کی روایت قبول نہ کریں گے کیونکہ شبہ ہے کہ اس نے عقیدے اور مسلک کی حمایت میں نہ گھڑی ہو۔

کر بلا بدر کا بدلہ ہے

علامہ وحید الزماں مترجم و شارح کتب حدیث بخاری المغازی باب فضل من شہد بدراً کی ایک روایت جو حضرت براء بن عازب سے ہے اور جس میں ابوسفیان کا قول نقل ہے کہ یوم احد اور اس نے کہا آج بدر کا بدلہ لے لیا، کی شرح میں لکھتے ہیں کہ بعض روایات میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سرمبارک یزید پلید کے پاس آیا تو وہ مردود بھی یوں کہنے لگا کہ بدر کا بدلہ میں نے بنی ہاشم سے لے لیا، اگر یہ روایت صحیح ہو تو یزید کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ (ج: 5 ص: 257)

قریش کا یہ خاندان (بنو امیہ) لوگوں کو ہلاک کرے گا۔

مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعة باب ابن صیاد سے پہلے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قریش کا یہ خاندان (یعنی بنو امیہ) لوگوں کو ہلاک کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے، فرمایا اگر لوگ ان سے الگ رہیں تو بہتر ہے۔ (ج: 6 ص: 442) اس کی شرح میں علامہ وحید الزماں لکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہوا اور لوگ بنی امیہ کے ساتھ شریک ہوئے اور انہوں نے وہ ظلم کئے کہ خدا کی پناہ، امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، مدینہ منورہ کو تباہ کیا، سینکڑوں صحابی لشکر یزید کے ہاتھ سے مدینہ میں شہید ہوئے۔ معاذ اللہ

امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم یزید نے خود دیا تھا

ابوصفہ دینوری کی الاخبار الطوال میں ہے کہ یزید نے خود امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا تھا۔

یزید کی اولاد

اس کے 15 میں سے تین بیٹے نیک تھے۔ ان تینوں کو تہذیب العہذیب میں صالح القوم اور خیار القوم کہا گیا ہے، وہ یہ تھے۔ عبدالرحمن بن یزید، خالد بن یزید، معاویہ بن یزید۔ یہ معاویہ بن یزید بن معاویہ، یزید کے مرنے کے بعد 40 دن کیلئے حکمران بھی بنا تھا۔ اس کا دور بہت اچھا تھا۔ بعض نے ان چالیس دنوں کو بھی خلافت راشدہ کا دور کہا ہے۔ خالد بن یزید کو علم کیمیا میں بڑی مہارت تھی اور وہ بڑا عالم ہوا ہے۔ خالد کی روایت ابوداؤد میں ہے جہاں مصری کرتے پہننے کا ذکر ہے۔

مقام یزید احادیث کی روشنی میں

حاکم بیہقی نے مستدرک حاکم ج: 3 ص: 148-149 پر ایک حدیث نقل کی ہے جس

کے بارے میں لکھا کہ مسلم کی شرط پر سند ٹھیک ہے اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے موافقت کی کہ یہ واقعی صحیح مسلم کے معیار کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے درمیان خشوع و خضوع سے عبادت کرے، نمازیں پڑھے، اور روزے رکھے، اگر وہ خدا کے سامنے اس حالت میں پیش ہوا کہ وہ آل رسول ﷺ سے بغض رکھتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا۔

ایسی حدیث اور کسی کے حق میں نہیں آئی۔

علامہ البانی رحمہ اللہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ج: 5، ص: 643 حدیث نمبر

2488 باب تحریم بغض اہل بیت کے تحت یہ حدیث لائے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ہمارے اہل بیت سے

اگر کوئی بغض کرے گا تو اللہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا، یہ حدیث ابو

سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حاکم اور ابن حبان نے روایت کی ہے۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا عجیب کردار

ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت تو نہ کی مگر یزید کی بیعت پر نہ

صرف خود مستقیم رہے بلکہ اہل خانہ کو بھی اس کی بیعت پر سختی سے کاربند رہنے

کی تلقین کی جیسا کہ بخاری کتاب الفتن باب اذا قال عند قوم شیئاً

ثم خرج فقال بخلافہ میں کہا کہ سب سے بڑی دغا بازی یزید کی بیعت

توڑنا ہے اور جو یزید کی بیعت توڑے گا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

اسی طرح کتاب الاحکام باب کیف یبایع الامام الناس عبداللہ بن دینار

سے دو دفعہ روایت ہے کہ عبدالملک بن مروان جیسے ظالم کو بن کہہ خط لکھ کر اپنے اور اپنے

بیٹوں کی طرف سے بیعت کا یقین دلایا۔ یہی روایت کتاب الاعتصام کے پہلے باب کے

آخر میں بھی ہے۔ حالانکہ انہی ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں جب معاویہ نے کہا کہ اگر اس

نے یزید کی بیعت نہ کی تو میں اسے قتل کر دوں گا تو سن کر رونے لگے۔

کیا حضرت علی علیہ السلام یزید اور عبدالملک جیسے ظالموں سے بھی گئے گزرے تھے کہ ان کی بیعت کرنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کو پسند نہ ہوا؟ واقعہ 7 ہ کے دنوں میں ابن عمر رضی اللہ عنہما نہ صرف خود یزید کی بیعت پر کاربند رہے بلکہ خاندان کے علاوہ لوگوں کے پاس جا کر ان کو یزید کی بیعت توڑنے سے منع کیا۔

مسلم کتاب الامارات باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند

ظهور الفتن وفي كل حال میں نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے عبداللہ

بن مطیع کے پاس جا کر یزید کی بیعت نہ توڑنے کو کہا۔

یزید پر لعنت کا مسئلہ

آپ پچھلے صفحات پر سلف صالحین کی رائے اس بارے میں پڑھ چکے کہ وہ اس

بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اس مسئلہ کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ جب اس مسئلہ

پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں کسی جگہ تو پر آیا ہے کہ مردوں کو برا نہ کہو، کسی جگہ آتا

ہے کہ مردوں کی اچھائیاں بیان کرو مگر کسی حدیث میں یہ آتا ہے کہ فلاں نے شراب پی تھی،

فلاں نے زنا کیا تھا وغیرہ اور عام طور پر بھی کتابوں میں گزرے ہوئے لوگوں کے حالات

میں ان کی اچھی بری ساری باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔

اس سلسلہ میں صحیح موقف امام بخاری اور ائمہ اہل حرم رحمہم اللہ کا ہے وہ یہ کہ

اگر تو مرنے والے نے کوئی ذاتی برائی کی جس کا اثر اسی تک تھا مثلاً شراب پی تو ایسی باتیں

بعد میں دھرائی نہیں چاہئیں۔ اگر مرنے والے نے کوئی ایسا کام کیا جس کا اثر دوسروں پر بھی

پڑا مثلاً اس نے کوئی بدعت ایجاد کی، کوئی برا عقیدہ ایجاد کیا یا لوگوں پر ظلم کیا تو ایسے لوگوں کی

برائیاں بعد میں بیان کر سکتے ہیں۔ خود رسول کریم ﷺ کے سامنے ایسا کیا گیا۔ ایک

جنازہ جارہا تھا تو لوگوں نے مرنے والے کی بہت تعریف کی تو آپ ﷺ نے فرمایا واجب

ہوگئی یعنی جنت، ایک اور جنازہ جارہا تھا تو لوگوں نے اس مرنے والے کو برا کہا،

آپ ﷺ نے فرمایا واجب ہوگئی یعنی دوزخ، لیکن صحابہ کو روکا نہیں۔ لہذا جن لوگوں نے

امت اور نظام دین کو برباد کیا، ان کی برائیاں برسرِ منبر بیان کرنا چاہئیں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اٹھلی میں اور امام بخاری نے اس سلسلہ میں دو باب باندھے ہیں۔

امام تفتازانی رحمہ اللہ تو صاف صاف یہ کہتے ہیں کہ ہم کو یزید اور اس کے ساتھیوں کے ایمان میں بھی شک ہے، بجائے اس کے کہ اس کی صفائیاں دیتے رہیں، وہ کہتے ہیں کہ لعنت ہو اس پر اور اس کے ساتھیوں پر۔

بعض چالاک مولوی یہ کہتے ہیں کہ لعنت تو صرف کافر پر کرنی چاہیے۔ حالانکہ قرآن میں جھوٹوں پر بھی لعنت کی گئی اگرچہ وہ کافر نہیں لعنت کرنا دین کا حصہ ہے صرف یہ دیکھو کہ جس پر لعنت کی جارہی ہے وہ اس قابل ہے کہ نہیں۔ جو بروں کو اچھا کہتے ہیں وہ خدا اور رسول کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نیکوں پر صلاۃ بھیجتے ہیں اور بروں پر لعنت کرتے ہیں۔ بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ شیطان کو بھی برائے کہو۔ اس پر مسلمان علماء نے لکھا کہ تم خدا کے دشمن ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس پر یوم الدین تک لعنت فرماتا ہے اور تم اس سے منع کرتے ہو۔

ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ان پر لعنت کرو، جن پر اللہ تعالیٰ نے درود سلام بھیجا ان پر تم بھی درود صلوٰۃ بھیجو۔

بعض یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہم کو کیا پتہ کہ جس پر لعنت کر رہے ہیں وہ دوزخ ہی میں جائے گا یا جنت میں جائے گا۔ تو اس کے جواب میں علامہ شامی رحمہ اللہ حنفی کہتے ہیں کہ جب ہم بددعا کرتے ہیں تو ہم کوئی حکم نہیں جاری کرتے کہ ایسا ہو جائے بلکہ ہم برے آدمی سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، بخشا جائے یا نہ بخشا جائے، وہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ ہم کو صرف یہ حکم ہے کہ جب کوئی برا کام کرے تو بغض فی اللہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو برا کہیں یہ دین کے دو شعبے ہیں کہ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ۔ اگر کوئی غیر جانبدار رہتا ہے تو وہ خوشبو اور بدبو میں فرق کرنے سے عاری ہو چکا ہے۔

یزید اگر فرشتہ بھی ہوتا مگر وہ مسلمان امت کی رائے کے بغیر زبردستی حکومت سنبھالتا تو

وہ سب سے بڑا مجرم ہوتا۔ اس میں کردار کی بات نہیں بلکہ اسلامی آئین کی بربادی کا تذکرہ ہے۔ امیر معاویہ اور یزید کی اس رسم کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت کی رائے دریافت کرنا بالکل بند ہو گیا اور جس کا جی چاہے حکومت سنبھال لیتا ہے۔ بعد میں یہ نوبت بھی آئی کہ پانچ چھ دن کا بچہ حکومت پر بٹھا دیا گیا اور ان کے لیے نگران مقرر ہوا۔ امت کی رائے کی قطعاً کوئی اہمیت نہ رہی۔ آج تک یہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جو زبردستی یا فراڈ سے حکومت پر آ گیا، بس آ گیا۔ امت کا شورئی کا نظام بالکل ختم ہو گیا۔ اصل جرم یہ ہے۔

اب صفائی دینے والے یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کا نام اس میں آتا ہے لہذا چپ رہو۔ ان بزرگوں کو خدا معاف کرے مگر وہ امت کا بیڑا غرق کر گئے کہ انہوں نے خلافت ختم کر کے بادشاہت شروع کر دی۔ کسی کی نیکی اس کے ظلم پر پردہ نہیں ڈال سکتی۔

رئیس اہل بغض و فساد ابن زیاد بد نہاد

امیر معاویہ کا مشیر اعلیٰ سرجون عیسائی تھا اور محکمہ تعلیم یوحنا عیسائی کے سپرد تھا یزید سرجون عیسائی کا باپ کی طرح ادب کرتا تھا۔ اسی سرجون کے مشورہ پر یزید نے خبیث ابن زیاد کو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی کی جگہ گورنر کو فہ مقرر کیا تھا۔ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے امیر معاویہ نے زیاد کی موت کے بعد صحابہ کے ہوتے ہوئے ابن زیاد کو گورنر مقرر کیا تھا۔ (فتح الباری ج: 13، ص: 127-128)

امام ابن حجر رحمہ اللہ ”تقریب التہذیب“ میں لکھتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد فاسق تھا اور بعض آئمہ نے اس کو کافر بھی کہا ہے۔ (ص: 170، مع حاشیہ تعقیب التہذیب از مولانا سید امیر علی شاگرد سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ)

لعین ابن زیاد بد نہاد تھا

ابن زیاد کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس کا باپ زیاد بن سمیہ ثابت النسب نہیں تھا بلکہ بہ اقرار خود ولد الزنا تھا جیسا کہ اسلحاق زیاد کے تحت گزر چکا۔ وہ جس کے یہاں پیدا ہوا اس کی بجائے ابوسفیان کو اپنا باپ بتاتا تھا۔

بہت سے صحابہ و تابعین نے اس کے اس فعل پر کبیر بھی کی جن میں خود زیاد کے ماں شریک بھائی حضرت ابو بکرؓ بھی شامل تھے۔ ابن زیاد کے اس خاندانی پس منظر سے یزید کی مردم شناسی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ظالم اپنے مظالم کیلئے کیسے کیسے بدسرشت لوگوں کا انتخاب کیا کرتا تھا۔ یزید کو تجربہ ہو چکا تھا کہ اس کا خاص بچا زاد بھائی ولید بن عقبہ بن ابی سفیان، مروان کے ترغیب دلانے کے باوجود قتل حسینؓ پر آمادہ نہ ہو سکا۔ اسی لیے اس نے اس کام کو سرانجام دینے کیلئے اس شقی ازلی ابن زیاد بد نہاد کا انتخاب کیا اور آخر اس نے ایسا کر کے دکھا بھی دیا۔ علامہ بدر الدین عینی نے ابن زیاد کی ان ہی حرکات کے سبب عملة القاری شرح بخاری میں اس کو لعین کہا ہے۔ (ج: 7، ص: 656)

ابن زیاد کا کوفہ میں آنا

امام ابن کثیرؒ البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 281 تا 283 پر لکھتے ہیں:

”ابن زیاد ہمیں بدل کر رات کے وقت دھوکہ سے کوفہ شہر میں داخل ہوا۔ لوگ اس کو امام حسینؓ سمجھ کر تعظیم دیتے رہے۔ وہ اسی طرح قصر امارت میں داخل ہوا اور شہر میں کرفیو نافذ کر کے کو تو ال حصین بن نمیر نے حضرت امام حسینؓ کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ بعض کو قتل کیا اور بعض کو قید کر دیا۔ مسلم بن عقیلؓ کو قسم کھا کر امان دی اور پاس بلا کر عروہ بن ہانیؓ سمیت محل کی چھت پر لیجا کر سر قلم کر دیئے۔ لاشیں نیچے پھینک دیں۔ لاشوں کو رے سے باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا گیا۔ سر یزید کو روانہ کر دیئے۔ اگر یزید اس کا روائی سے ناراض ہوتا تو اسی وقت ابن زیاد کو متع کر دیتا۔ مگر اس نے منع نہ کیا کیونکہ یزید جانتا تھا ابن زبیرؓ اور امام حسینؓ میری بیعت سے انکار کر چکے ہیں۔“

ابن زیاد کی صحابہ رضی اللہ عنہم سے بدتمیزی

امام بخاری نے میں کتاب الاحکام باب من استرعى رعية فلم ينصح (حدیث نمبر 7151-7150 ج: 9، ص: 201-202) میں حضرت حسن بصریؒ سے دو روایات نقل کی ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد حضرت معقل بن یسارؓ کے مرض الموت میں ان کی عیادت کیلئے آیا تو حضرت معقلؓ نے اس سے فرمایا میں تجھ کو ایک حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے رسول کریمؐ سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے جس کو حق تعالیٰ کسی رعیت کی نگرانی سپرد فرمائے اور پھر وہ پوری طرح ان کی خیر خواہی نہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھے گا۔

دوسری حدیث میں حسن بصریؒ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معقل بن یسارؓ کی عیادت کیلئے ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اتنے میں عبید اللہ بن زیاد بھی آ گیا۔ حضرت معقلؓ نے اس سے فرمایا میں تجھ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہؐ سے سنی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو حکمران بھی مسلمانوں کی کسی رعیت کا حاکم ہو اور اس حال میں مرے کہ وہ ان کے ساتھ دغا بازی کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔

صحیح مسلم میں حضرت معقلؓ کی اس روایت میں اتنا اضافہ اور ہے کہ اگر میں سمجھتا کہ میری زندگی ابھی باقی ہے تو میں تجھ سے یہ حدیث بیان ہی نہ کرتا۔“

اور دوسری روایت جو کہ مسلم کتاب الامارہ باب فضیلة الامام العادل وعقوبة الجائر (ج: 5، ص: 121-122) میں ہے کہ ”اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں موت کے منہ میں ہوں تو یہ حدیث تم سے بیان بھی نہ کرتا۔“ صحیح مسلم میں یہ حدیث کتاب الایمان باب استحقاق الوالی

الغاش لوعیۃ النار (ج: 1، ص: 235) اور کتاب الامارہ میں ہے۔ اس روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ یہ حدیث سن کر ابن زیاد نے معقل رضی اللہ عنہ سے کہا یہ حدیث آپ نے مجھ سے پہلے کیوں نہ بیان کی۔ فرمایا بس میں نے تم سے بیان نہ کی۔

امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث معقل رضی اللہ عنہ نے ابن زیاد سے مرتے وقت بیان کی کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ عبید اللہ بن زیاد کو یہ حدیث فائدہ نہ دے گی۔ پھر انہوں نے خیال کیا کہ حدیث کا چھپانا بہتر نہیں۔ اور نیک بات کو بتا دینا ضرور ہے اگرچہ وہ مانے یا نہ مانے، اس وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی میں بیان نہ کی کہ کہیں ایسا نہ ہو اس حدیث سے ایک فساد پھیلے لوگ ابن زیاد کو برا جان کر اطاعت سے پھر جاویں یا ابن زیاد معقل رضی اللہ عنہ کو ایذا پہنچائے کیونکہ وہ مروءہ خالم اور جابر تھا اور اس نے اہل بیت نبوی علیہم السلام کی حرمت نہیں کی تو اور کسی کو اس سے کیا توقع تھی۔

(ج: 1، ص: 236، مسلم)

امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں یہ تصریح کی ہے کہ یہ واقعہ یزید کے عہد حکومت کا ہے۔ امام نے حدیث پہلے بیان نہ کرنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ”وہ ابن زیاد کی سختی سے ڈرتے تھے۔ جب موت کا وقت آ گیا تو چاہا کہ اس طرح ہی مسلمانوں پر سے اس کے شر کو کچھ رفع کیا جائے۔ (فتح الباری، ج: 13، ص: 128)

یاد رہے کہ حضرت معقل رضی اللہ عنہ بن یسار اور جن صحابہ رضی اللہ عنہم کا ذکر آگے آ رہا ہے یعنی عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ اور حضرت عائزہ بن عمرو رضی اللہ عنہا بیت رضوان میں شامل تھے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ابن زیاد نے بدتمیزی کی۔ امام طبرانی کی المعجم میں ایک دوسری سند سے امام حسن بصری رحمہ اللہ کی روایت امام ابن حجر رحمہ اللہ نے (بخاری کتاب الاحکام باب من

شاق شق اللہ علیہ کے تحت) فتح الباری ج: 13، ص: 128 پر لکھی کہ حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابن زیاد امیر معاویہ کے زمانہ میں حاکم بن کر آیا تو وہ ایک بے وقوف چھوکر تھا اور نہایت بے دردی سے لوگوں کا خون بہایا کرتا تھا۔ اس زمانہ میں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ زندہ تھے۔ وہ ایک روز اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اور اس سے فرمانے لگے کہ ”جو کچھ میں تجھے کرتے دیکھ رہا ہوں اس سے باز آ جاؤ۔“ (اب ذرا صحابی کا احترام ملاحظہ ہو) اس نے کہا تم ان باتوں میں دخل دینے والے کون ہوتے ہو؟ وہ صحابی یہ بات کر کے مسجد میں چلے گئے تو ہم نے ان سے عرض کی کہ آپ برسر عام اس بے وقوف کے منہ کیوں لگتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میرے پاس علم تھا، میں پسند نے کیا کہ جب تک اس کا برسر عام بیان نہ کر دوں۔ موت کے منہ میں نہ جاؤں، پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ بیمار ہو گئے اور اسی میں انتقال کر گئے۔ اسی بیماری میں ابن زیاد ان کی عیادت کو آیا تو پھر آپ نے اسی مضمون کی حدیث اس کو بیان کی۔

اس طرح کا ایک واقعہ مسلم کتاب الامارہ باب فضیلة الامام العادل وعقوبة الجائر میں ہے کہ حضرت عائذ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے نہایت نرمی سے ابن زیاد کو سمجھانا شروع کیا تو اس بد نہاد نے بجائے نصیحت کا اثر لینے کے انان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ

”حضرت عائذ بن عمرو نے جو صحابی تھے، ابن زیاد کے پاس آ کر فرمایا بیٹے! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ حکمرانوں میں سب سے برا وہ ہے جو لوگوں کو پیس کر رکھ دے۔ تو تم اپنے آپ کو ان میں شامل کرنے سے بچتے رہو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا (بڑے میاں) بیٹھ جاؤ تم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوگ (بھوسی) ہو۔ یہ سن کر حضرت عائذ رضی اللہ عنہ نے

فرمایا کیا صحابہ میں بھی پھوگ تھا؟ پھوگ تو بعد میں آنے والوں میں ہے اور ان میں جو صحابی نہیں ہیں۔ (مسلم ج 5: ص 122)

اسی قسم کا ایک واقعہ ابوداؤد میں منقول ہے۔ ابو داؤد کتاب السنۃ باب فی الحوض میں منقول ہے جس میں حضرت ابو بکرؓ اسلمی صحابی کا قصہ ہے مسلم بن ابراہیم ابو طاووت بن ابی حازم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں اس وقت موجود تھا جب ابو بکرؓ اسلمیؓ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس تشریف لائے۔ جیسے ہی عبید اللہ کی نظر حضرت پر پڑی تو کہنے لگا (لویہ) تمہارا محمدی ٹھکانا موٹا (آ گیا)۔ آپ اس کی بات کو سمجھ گئے تو فرمایا ”میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں ایسے لوگوں میں رہ جاؤں گا جو مجھے صحابی رسول ہونے کا طعنہ دیں گے۔ اب ابن زیاد نے بات بدل کر ان سے کہا صحبت محمد ﷺ تو آپ کیلئے زینت ہے، عیب نہیں۔ پھر کہنے لگا میں نے آپ کی طرف اس لیے آدمی بھیجا تھا کہ آپ نے حوض کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کو کچھ فرماتے سنا ہو۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا ہاں ایک دو دفعہ نہیں (کئی بار) سنا۔ جو مومن (کوثر) کا انکار کرے، اللہ تعالیٰ اس کو حوض سے کچھ نہ پلائے۔ اس کے بعد آپ غم کی حالت میں اس کے پاس سے چلے آئے۔“ (ج 3: ص 556)

مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ بسذل المجہود فی حل ابی داؤد ج 5: ص 226 پر فرماتے ہیں:

”عبید اللہ ابن زیاد فساد میں سے تھا۔ اس لیے آپ (ابو بکرؓ) کو بطور تمسخر و صراح یعنی ٹھکانا مونا کہا تھا مگر آپ نے اپنے بارے میں تو التفات نہ فرمایا۔ البتہ اس نے محمدی کہہ کر جو آپ کا مذاق اڑایا۔ اس پر آپ کو غصہ آ گیا کیونکہ اس سے خود رسول ﷺ کی ذات عالی کی توہین نکلتی ہے۔“

یہ تھا ابن زیاد کا طرز عمل صحابہ کرام سے اور عزت پیغمبر ﷺ پر اس نے جو ظلم و ستم ڈھایا، وہ ہر خاص و عام کو معلوم ہے۔

اس خبیث ابن زیاد کے بارے میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ تحفہ اثنا عشریہ ص: 45 باب اول در حدوث مذہب شیعہ میں لکھتے ہیں۔

”جب یہ خبر (خروج مختار و ابراہیم بن مالک اشترؓ) عبدالملک بن مروان کو پہنچی۔ عبید اللہ بن زیاد کو مع ایک لاکھ سوار کے رخصت کیا۔ پس ابراہیم بن مالک اشترؓ بارہ ہزار سوار سے اس کی لڑائی کو گئے۔ سخت مقابلہ پیش آیا۔ آخر، بہ برکت نام حضرت امام حسین علیہ السلام کے، غالب ہوئے۔ ابن زیاد ملعون مارا گیا۔ اس سبب سے قدر مختار کی شیعوں کے ذہن میں بہت بڑھ گئی، بڑی ثناء و ستائش کرتے تھے اور شیعہ مخلصین اہل سنت و جماعت بھی مروانیوں اور قتل ابن زیاد پر شکر الہی بجالائے۔“ (تحفہ کے ص: 11 پر شاہ صاحب یزیدی گروہ کو اشیقائے شام اور ابن زیاد کو رئیس اہل بغض و فساد لکھتے ہیں۔ تحفہ اثنا عشریہ کے ص: 12 پر شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ مختار نے ابن زیاد کو بہت لڑائیوں میں شکست دے کر آخر جہنم میں پہنچایا۔

صحابہ کے ساتھ ملعون ابن زیاد کی بد تمیزی آپ ملاحظہ کر چکے ہیں اب دیکھیں کہ بعد از قتل امام حسین علیہ السلام بھی اس خبیث نے تمام شہید اکابر بلا کے کٹے ہوئے سروں کی برسر عام نمائش کی اور جامع مسجد کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کر یہ بکواس بھی کی کہ ”اللہ کی حمد ہے جس نے حق کو اور اہل حق کو غلبہ دیا اور امیر المومنین یزید اور ان کے گردہ کو اور کذاب ابن کذاب حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا۔“

پھر یہ سارے سر یزید کے پاس دمشق بھیجے گئے اور اس نے بھرے دربار میں ان کی نمائش کی۔

(اس پوری داستان کی تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو طبری ج: 4، ص 309 تا 356، الکامل ابن اثیر ج: 3، ص 282 تا 299، البدایہ والنہایہ ابن کثیر ج: 8، ص 170 تا 204)
 زیاد تو تھا ہی بد نہاد، اس کا کیا گلہ اگر یزید میں انسانی شرافت کی بھی کوئی رمت
 ہوتی تو وہ سوچتا کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ ﷺ نے اس کے پورے
 خاندان پر کیا احسان کیا تھا اور اس ملعون کی حکومت نے ان کے خاندان
 کے ساتھ کیا سلوک کیا!

یہ واقعہ کربلا کا پس منظر ہے اور یہ کوئی وقتی اشتعال نہیں تھا۔ یہاں تک واقعہ کربلا کا
 پس منظر تھا۔ ان وجوہات کی بنا پر جو ان صفحات میں آپ نے ملاحظہ فرمائیں واقعہ کربلا پیش
 آیا اور نو اسیر رسول ﷺ نے بغیر کسی فوجی تیاری کے محض چند ساتھیوں کے ساتھ جان دیکر
 ایسا احتجاجی نوٹ ریکارڈ کر دیا کہ قیامت تک کے ظالم حکمران سب جواز سے محروم ہو گئے۔

تا قیامت قطع استبداد کرو
 موج خون او چمن ایجاد کرو

سیدنا امام حسین علیہ السلام اور واقعہ کربلا

گزرے ہیں اس جہان میں ایسے بھی کچھ شہید
 مقتول تا ابد رہا قاتل نہیں رہا

تاریخ کا مسافر ایسے دیرانے میں پہنچ کر حیران کھڑا ہے، جہاں ہر سو انسانوں کے
 کٹے ہوئے لاشے اور خون بکھرا پڑا ہے۔ لاشے نو جوانوں کے بھی ہیں اور معصوم بچوں کے
 بھی، بلکہ ایک طرف تو شیر خوار بچے کے حلق میں تیرا انکا ہوا ہے۔ بھلا اس نے کیا جرم کیا
 ہوگا؟ دوسری طرف ایک سر ہے جو نیزے پر لٹکا کر فضا میں لہرا دیا گیا ہے۔ قریب چند خیمے
 ہیں، جنہیں آگ لگائی جا چکی ہے۔ اب ان خیموں سے آہوں اور سسکیوں کے سوا کچھ
 سنائی نہیں دیتا۔ ان خیموں میں وہ پاک باز عورتیں ہیں جن کے چہروں کو کبھی آسمان نے بھی
 نہ دیکھا ہوگا۔ وطن سے دور صحرا میں ان عورتوں کا واحد سہارا ایک فرد ہے اور وہ بھی بیمار جس
 کے کمزور ناتواں کندھوں پر ان عورتوں کی نگرانی اور کفالت کا بوجھ ہے، وہاں اس کی وراثت
 فقط بے گور و کفن لاشے ہیں جنہیں دفن کرنے کے لئے کوئی اس کا ساتھ دینے والا بھی نہیں۔
 ذرا غور کیجئے! یہ خانہ ویرانی کس کی ہوئی؟ نیزے پر لہراتا ہوا سر کس کا ہے؟ خاک میں اٹے
 ہوئے یہ ہونٹ کس کے ہیں؟ ہاں! یہ وہی ہونٹ ہیں جنہیں وہ ہونٹ چومتے تھے جن سے
 وحی کے مقدس پھول جھڑتے تھے۔ یہ سر وہی ہے جسے جنتی جوانوں کی سرداری کا تاج
 پہنائے جانے کا وعدہ خود سر دارد وہاں نے دیا تھا۔ اب وہ سرتاج پوشی کیلئے تیار ہے۔ کٹنے
 والا یہ خاندان وہی تھا، جس کی رگوں میں اس نبی کا مقدس خون بہتا تھا جس نے زندگی بھر
 کسی کو ذرا تکلیف نہ دی تھی بلکہ پتھر مارنے والے کو جھولی پھیلا کر دعائیں دی تھیں۔

(مولانا محمد سلیم جباری، اہل حدیث عالم)

قبائے لا الہ خوئیں قبائے است

کہ بر بالائے نامرداں حرام است

لا الہ کا لباس خون آلود لباس ہے جو نامردوں کے جسم پر حرام ہے

محرم کے مہینہ کو شہر اللہ المحرم یعنی اللہ تعالیٰ کا محترم مہینہ کہا جاتا ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ مہینے سارے اللہ ہی کے ہیں مگر اس مہینہ کی شان بڑھانے کیلئے اسے اللہ کا مہینہ فرما دیا گیا اور گھر سارے اللہ ہی کے ہیں مگر کعبہ شریف کو بیت اللہ فرما دیا گیا۔

ساری دنیا کے نئے سال خوشی سے شروع ہوتے ہیں مگر مسلمانوں کا سال سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے شروع ہوتا ہے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر ختم ہوتا ہے۔ آل رسول علیہم السلام سے بغض رکھنے والے ذکر حسین علیہ السلام سے منع کرتے ہیں کہ یہ بھی کوئی دینی مسئلہ ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ سیدنا حسین علیہ السلام صرف کربلا میں ہی شہید نہیں ہوئے بلکہ ان پر تیروں کی بارش اب بھی ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کا سال قربانی سے شروع ہو کر قربانی پر ختم ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ ان کے قدم جس راستے پر ہیں وہ تلوار کی دھار پر چلنا ہے۔ دین کیلئے جان دے دینا ہی سارے دین کا خلاصہ ہے۔

نہ می بنی کہ آں شاہ نکو نام

بدست سربریدہ می دہد جام

تم دیکھتے نہیں کہ اللہ اپنی محبت کا جام ان کو پلاتا ہے جن کے سر کٹے ہوئے ہیں۔

اسلام کا اس طرح آغاز و انجام قربانیاں دینے اور پہلی قربانیوں کو یاد رکھنے کیلئے ہے۔ ابولکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا واقعہ کوئی شخصی واقعہ نہیں تھا۔ اس کا تعلق صرف اسلام کی تاریخ ہی سے نہیں بلکہ اسلام کی اصلی حقیقت سے ہے۔ یعنی وہ حقیقت جس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے ظہور ہوا تھا اور بتدریج ترقی کرتی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں پہنچ کر گم ہو گئی تھی، اس کو حضرت حسین علیہ السلام نے اپنی سر

فروشی سے مکمل کر دیا۔

اس بات کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ

غریب و سادہ و رنگیں ہے داستان حرم

نہایت اس کی صہیق ابتداء ہے اسماعیل

اسلام پر چلنا چاہتے ہو تو حجروں میں بیٹھ کر تسبیح گھا کر اسلام پر نہیں چلا جاسکتا۔ یہ دین جان مانگتا ہے جان بھی اس کی چاہتا ہے جو بے عیب ہو، جیسے ہم لوگ قربانی کیلئے بے عیب جانور تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے انتخاب میں تو غلطی ہو سکتی ہے مگر اللہ کا انتخاب بے عیب ہوتا ہے۔

در مسلح عشق بجز نکو را نہ کشند

لاغر صفتاں وزشت خو را نہ کشند

عشق کی قربان گاہ میں سوائے اچھے اور نیک لوگوں کے کوئی ذبح نہیں ہوتا، یہاں بری صفات والے اور بد خو قربان نہیں کئے جاتے۔ برے لوگوں کو اس راہ کی توفیق ہی نہیں دی جاتی۔ کچھ دانش فروش ہوتے ہیں جو حکومت وقت کی کاسہ لہسی سے مال کاتے ہیں مگر کچھ جان فروش ہوتے ہیں، وہ سیدنا حسین علیہ السلام کی طرح حق کیلئے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں صرف انبیاء علیہم السلام اور صالحین علیہم السلام کی قربانی پسند فرماتا ہے۔ لہذا جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نیک ہوتے تو کیوں مارے جاتے، تو یہ الٹ نتیجہ نکالنا ہے۔ نیک لوگوں کے خدا کی راہ میں قتل ہونے پر ہی تو قرآن مجید میں دو جگہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو۔

حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور مقام گرانے والے جب علمی دلائل سے زنج ہو جاتے ہیں تو پھر کہنے لگتے ہیں کہ چھوڑو جی! ہم نے اس واقعہ سے کیا لینا دینا ہے۔ جبکہ خود محرم میں جھوٹی کہانیوں سے بھرپور رسالے چھاپتے رہتے ہیں۔

سیدنا امام حسین علیہ السلام کا واقعہ اسلامی تاریخ میں روشنی کا مینار ہے جس کو حکومتیں لوگوں

کے دل سے گرانا چاہتی ہیں، حکمران اگرچہ بظاہر اس کے حق میں اخباروں میں رسمی بیان دے دیتے ہیں۔ ظالم حاکموں کیلئے امام حسین علیہ السلام ایٹم بم کی حیثیت رکھتے ہیں اگر وہ روح مسلمانوں میں پیدا ہو جائے کہ برے کے سامنے سر نہیں جھکا تا تو یہ ظالموں کی موت ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کے تخت پر زبردستی بیٹھنے والا اگر فرشتہ بھی ہو تو شیطان ہے۔ زبردستی بیعت لینا بذات خود سب سے بڑا جرم ہے اگرچہ وہ شراب نہ پئے، بدکاری نہ کرے، نمازی ہو، حاجی ہو، تب بھی انتہاء درجہ کا بد معاش ہے۔

قرآن کی تفسیر سمجھ ہی حسین علیہ السلام سے آتی ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو سمجھا تو پتہ چلا کہ مسلمان طاغوتوں اور ظالموں کے سامنے سر جھکانے کیلئے پیدا نہیں ہوا۔ جب سے اہل سنت اور اہل حدیث نے یہ نظریہ اپنالیا کہ متسلط اور مغلوب بھی تخت پر بیٹھ جائے تو نظریہ ضرورت کے تحت اس کو تسلیم کر دے، دین کی بربادی تب سے ہو رہی ہے۔ جس چیز سے یہ ڈرتے تھے کہ مقابلہ کیا تو خون ریزی ہوگی اس سے زیادہ خون ریزی ان ڈکٹیٹروں نے کی۔ ایک سے بڑھ کر ایک ظالم تخت پر بیٹھا اور امت آج تک بھگت رہی ہے۔ حکومت امت اور جمہور کی ملکیت ہے۔ اسلامی حکومت کو چلانے کیلئے جو لوگ آئیں گے وہ صرف اور صرف مشورہ سے آئیں گے، جس کی آج کل صورت ووٹ ہے۔ موروثی حکومت کی سنت شنیع (براطریقہ) بنوامیہ کی ایجاد ہے۔

سوچئے! ان ظالموں کے خلاف امام حسین علیہ السلام کیوں نہ نکلتے؟ امام علیہ السلام نے سوچا کہ آج نہ رسول کریمؐ موجود ہیں، نہ حضرت علیؑ، نہ حسنؑ، نہ صرف میں جانشین رسولؐ موجود ہوں اور یہ بات سب لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ ساری دنیا بھی کسی کی بیعت کرے تو اس کو وہ قانون حیثیت نہیں ملے گی، جو میرے بیعت کرنے کے بعد حاصل ہوگی۔ اگر میں یہ اعلان کر دوں کہ یہ خلیفہ برحق ہے جو نماز نہیں پڑھتا، شراب پیتا ہے، تو میں نے دین رسولؐ بچ دیا۔ میں جان دے سکتا ہوں، میرے بچے مارے جاسکتے ہیں، میری بچیاں قیدی بن کر شہر شہر دھکے کھا سکتی ہیں مگر میں دین کو دفن نہیں کر سکتا۔

کانپ اٹھے ارض و سما دشت و جبل تھرا اٹھے
خاک پر جس وقت تڑپا، فاطمہؑ کا لاڈلا
آج کے لوگوں کے لئے تو حسین علیہ السلام ایک نام ہے، مگر اس صدی کے لوگ تو جانتے تھے کہ یہ رسول کریمؐ کا کیا لگتا ہے اور ان کی بیعت کی کیا اہمیت ہے۔

امام حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام دونوں بھائیوں کیلئے متعلق ان دونوں کا قاتل یزید ہے، حضور ﷺ نے تو فرمایا کہ وہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں مگر ان کو آج کل کے ناصبی، نعوذ باللہ، احمق، مغرور اور نسلی غرور میں مبتلا ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اگر وہ ایسے ہی تھے تو جنت کے جوانوں کے سردار کس لئے تھے؟

وہ دونوں دور نبویؐ میں تو بچے تھے۔ انہوں نے اس وقت کون سا کارنامہ سرانجام دیا تھا جو ان کو اتنے بڑے مرتبہ کی نوید ستائی گئی، اگر امام حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام کے بعد والے کارناموں کو غلط ٹھہرائیں تو ان کو کیوں جنت کے جوانوں کے سردار فرمایا گیا؟ اگر کسی بد نصیب اور احمق کے دل میں یہ خیال آئے کہ تانا نے محض نواسے ہونے کی وجہ سے تعریف کر دی تو وہ کافر ہو جائے گا کہ رسول کریمؐ پر اقرباء پروری کا الزام لگاتا ہے۔ اس پورے خاندان کے فضائل صحیح احادیث سے مناسب مقام پر مذکور ہوں گے۔

ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ باقی صحابہ نے اس وقت بغاوت کیوں نہیں کی؟ ہم اہل سنت کی کتابوں سے ان کا عذر بیان کر چکے ہیں کہ جب سر پر تلوار لٹک رہی ہو تو جان بچانے کی دین نے اجازت دی ہے۔ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ یزید کے فسق میں تو کوئی شبہ نہیں۔ صحابہ کے دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک نے کہا کہ یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے لہذا صبر کرو اور اللہ سے دعا کرو لیکن امام حسین علیہ السلام اور ابن زبیرؓ نے کہا عزیمت کی راہ یہی ہے کہ میدان میں آؤ۔ سیدنا حسین علیہ السلام نے جو اشعار کہے وہی ان کا مشن تھا۔

وَأَنْ كَانَتْ الْإِبْدَانُ لِلْمَوْتِ انْشَلَتْ
فَقَتَلَ امْرَأَتِي فِي اللَّهِ أَوْلَى وَأَفْضَلُ

جب یہ بدن بنے ہی موت کیلئے ہیں تو پھر اللہ کی راہ میں موت بہتر اور افضل ہے
سیدنا حسین علیہ السلام سادہ لوح نہیں تھے جو لوگوں کے کہنے میں آگئے۔ وہ بہت دانا
تھے۔ وہ کوفہ میں رہ چکے تھے۔ وہ ایک ایک آدمی کو جانتے تھے۔ وہ لوگ ان کے والد کے
ساتھی تھے۔ ان کے بارے میں امام علیہ السلام کو کوئی شبہ نہ تھا اور نہ ان لوگوں نے کوئی دھوکہ
کیا۔ اس وقت ملوکیت کی شکل میں سب سے بڑی قیامت آچکی تھی۔ جب یہ قیامت آرہی
تھی تو امت کی زبانیں گنگ کر دی گئی تھیں اور ان کے ہاتھ باندھ دیئے گئے تو اس وقت
رسول کریم ﷺ کا وارث امام حسین علیہ السلام ہی میدان میں آیا۔ اگر اسلام میں سے
حسین علیہ السلام نکال دیا جائے تو اسلام کسی شے کا نام نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا احتجاج نوٹ کرا
دیا کہ جو ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے۔

یہ درست ہے کہ ہوتا پھر بھی وہی رہا اور اس طوفان کا راستہ روکا نہ جا سکا، اور بہتر
(72) ساتھیوں سے روکا جا بھی نہیں سکتا تھا۔ امام جانتے تھے کہ میرے باپ کو بھی ان
لوگوں نے اپنی چالاکوں سے بے بس کر دیا تھا، میرے بھائی حسن علیہ السلام کو حکومت چھوڑنا
پڑی، اب کون میری مدد کیلئے آئے گا؟ نہ کوئی مدد کو آنے والا تھا نہ وہ اس امید پر نکلے تھے
نا انصافی پر مبنی اکثریتی فیصلہ کو اکیلا جج بدل نہیں سکتا لیکن اختلافی نوٹ دے کر وہ تاریخ میں
زندہ ہو جاتا ہے۔ ملوکیت کو کالعدم قرار دینے کیلئے یہ ان کا آخری قدم تھا۔

جب خدا و رسول کے دشمن دنیا میں موجود ہیں تو حسین علیہ السلام کے دشمنوں کا کیا گمہ،
دشمن اپنی موت مرتے رہیں گے، وہ زندہ ہے۔

علی علیہ السلام و حسین علیہ السلام، امت کے پیشوا

دین کا ایک باب حضرت علی علیہ السلام نے مکمل کیا۔ وہ یہ کہ جب خلیفہ برحق ہو اور مسلمان
گروہ بغاوت کر دے تو باغیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ یہ صرف حضرت علی علیہ السلام کے
طرز عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی صورت میں خلیفہ برحق کو کیا کرنا چاہیے۔ مسلمان باغیوں
سے کیا سلوک کیا جائے، ان کے قیدیوں سے کیا سلوک ہو، ان کے مزدوروں سے کیا سلوک

ہو، ان کے اموال کے ساتھ کیا کیا جائے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ سب
امام کہتے ہیں کہ اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو یہ باب نامکمل رہ جاتا اور اس بارے میں وہی امت
کے پیشوا ہیں۔ یہ ہدایہ میں ہے، سورہ ہجرات کی تفسیر میں، فقہ میں کتاب البخاۃ اور احادیث
میں ہے۔ اگر حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو مسلمانوں کو یہ پتہ نہ چلتا کہ اگر مسلمانوں کی حکومت بگڑ
جائے تو اس کا کیا علاج کیا جائے اور بگڑے حکمران کا کیا حال ہے؟ اس بارے میں امت
کے امام حسین علیہ السلام ہیں۔ صاف بات یہ ہے کہ امیر معاویہ نے دین کا ستیاناس کر دیا۔ خود
ارشاد نبوی ہے کہ خلافت تیس سال تک ہے اور پھر ملک عضو ہے۔ اس ملک عضو
(کاٹ کھانے والی بادشاہت) کے مقابلہ میں ایک جوان مرد داغاجس کا نام حسین علیہ السلام ہے۔

شدم خاک و لیکن زبوں تربت ما

تواں شناخت کزیں خاک مرد می خیزد

ہم خاک ہو گئے لیکن ہماری قبر کی خوشبو سے معلوم ہوگا کہ قیامت والے دن اس قبر

سے کوئی جوان مرد اٹھے گا۔

امام حسین علیہ السلام کے برحق ہونے کی واقعاتی دلیل

آپ علیہ السلام برحق کے ہونے کی ایک واقعاتی دلیل یہ بھی ہے کہ جب آخری رات
آپ علیہ السلام نے چراغ بجھا دیا اور ساتھیوں سے فرمایا کہ تم چلے جاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا،
ان کی دشمنی صرف میرے ساتھ ہے۔ مگر ان میں سے ایک بھی نہیں گیا۔ اگر وہ سمجھتے کہ
امام علیہ السلام حق پر نہیں ہیں اور خواہ مخواہ ضد کر رہے ہیں تو ساتھی کیوں موت کا انتخاب کرتے،
آپ علیہ السلام کے ساتھ تو بہتر (72) اس لفظ کو بہتر بھی پڑھیں تو بجا ہے یعنی وہ 72 بہتر بھی
تھے، ساتھی تھے مگر رات کے پردے میں 100 کے قریب آدمی یزیدی لشکر سے آکر
امام علیہ السلام کے ساتھ مل گئے۔ انہوں نے بھی امام علیہ السلام کے ساتھ موت (دراصل دائمی
زندگی) کا انتخاب بلا جبر و اکراہ بخوشی کیا۔ حتیٰ کہ ان کا کمانڈر حر بن یزید ریاحی، جو قافلہ
امام علیہ السلام کو گھیر کر لایا تھا، وہ بھی صبح کے وقت گھوڑے کو ایڑ لگا کر آپ علیہ السلام کے پاس آ گیا

اور کہا امام! مجھے معاف کر دیں، میں ہی قصور وار ہوں، اگر میں سمجھتا کہ یہ ظالم اس حد تک چلے جائیں گے، میں کبھی آپ کو گھیر کر نہ لاتا، اس نے معافی مانگ لی اور امام علیہ السلام کی طرف سے شہید ہوا۔ اس نے 1,000 سپاہیوں کی کمان چھوڑی اور موت قبول کی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک بھی ادھر نہیں گیا، ادھر سے اتنے لوگ آ گئے، یہی برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔

جب ابن زیاد نے آپ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ خود کو اس کے حوالے کر دیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔

بزرگ فلسفہ قتل شاہ دین این است
کہ مرگ سرخ بہ از زندگی تنگیں است
نقش الا اللہ بر صحرا نوشت
سطر عنوان نجات ما نوشت

دینی یا اقتدار کی جنگ؟

واقعہ کربلا کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دینی جنگ نہیں بلکہ اقتدار کی جنگ تھی۔ یہ الفاظ ہی کہنے والے کے ذہن کی تنگی اور دین سے بے خبری کی دلیل ہیں۔ صدیوں کے پراپیگنڈے نے لوگوں کو اس طرح مسحور کر دیا کہ اپنی متاع مسروقتہ کی پہچان تک بھول گئے۔ اقتدار تو وہ شے ہے جس کے بغیر اللہ کا دین قائم ہی نہیں ہوتا۔ قیام دین کیلئے اقتدار کوئی طعنہ نہیں ہے۔ ظالم خود فرعون کی طرح اقتدار سے چمٹے رہتے ہیں، مگر جب کوئی اللہ کا بندہ اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے دین کے لئے اقتدار چاہتا ہے تاکہ اللہ کا دین نافذ ہو تو یہ لوگ وہی بات کہتے ہیں جو فرعون نے کہی تھی کہ موسیٰ و ہارون تو یہ چاہتے ہیں کہ مصر کی بادشاہی انہیں مل جائے۔

فرعون نے یہ بات دراصل اپنے درباریوں کو بے وقوف بنانے کے لئے کہی تھی۔ طلب اقتدار کا طعنہ دینے والوں سے کوئی نہیں پوچھتا اگر اقتدار اتنا ہی شجر ممنوعہ اور گندی چیز ہے تو آپ مہربانی کر کے اس کو چھوڑ دیں۔

اس بارے میں پہلے تو آپ اپنا ذہن صاف کریں کہ الاسلام و السلطان آخوان تو آسان یعنی اسلام اور طاقت دونوں جڑے ہوئے پیدا ہوئے والے بھائی ہیں۔ دونوں میں سے ایک نہ ہو تو دوسرا خراب یا ختم ہو جائے گا۔

اقتدار کی جنگ کا طعنہ دینے والوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اقتدار کی جنگ تو شروع سے ہی انبیاء کرام علیہم السلام لڑ رہے ہیں تاکہ اقتدار کفار اور بد معاش لوگوں کے پاس نہ رہے، اگر سیاست دین سے الگ ہو جائے تو سوائے ظلم کے اور کچھ بھی نہیں اسلام کی مثال عمارت کی بنیاد کی ہے۔ اگر بنیاد نہ ہو تو عمارت گر جائے گی۔ حکمران کی مثال عمارت کے محافظ کی ہے، اگر وہ نہ ہو تو عمارت ضائع ہو جائے گی۔ اسلام میں ایسا حکمران درکار ہے جو وقت کا سب سے بڑا ولی، مرشد اور طاقتور حکمران ہو۔ قیامت کے دن سب سے بڑا انعام بھی امام عادل کو ہی ملے گا اور سب سے بڑی سزا ظالم حکمران کو ملے گی۔ جو سات گروہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے ان میں پہلا امام عادل ہے۔

اسلام اور عمل مسلمین الگ الگ ہیں

امام ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کیوں ناکام ہوئے اور امیر معاویہ کیوں کامیاب ہوئے؟ صرف اس لئے کہ امیر معاویہ نے بیت المال کے دروازے اپنے حواریوں پر کھول دیئے۔ یہ حکمران کے پاس عوام کی امانت تھی جو لٹانا شروع کر دی۔ حتیٰ کہ حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے جعفر اور داماد، جو حضرت زینب علیہا السلام کے شوہر تھے یعنی عبداللہ بن جعفر طیار رحمہ اللہ کو بھی ایک لاکھ درہم دے کر ساتھ ملا لیا۔ بعد میں یزید نے ان کو دو لاکھ سالانہ دینا شروع کر دیئے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ سب کچھ دیکھ کر ہی اتنا بڑا اقدام کیا

کہ اب کوئی اور صورت باقی نہیں رہ گئی سوائے اس کے کہ اپنا احتجاج نوٹ کر ادیا جائے۔ چونکہ لوگ بک چکے ہیں لہذا جان دے کر بتا دیا جائے کہ سب کچھ غیر آئینی ہو رہا ہے اور یہ کہ اسلام حکمرانوں کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہے۔ انہوں نے لکیر کھینچ دی کہ اسلام اور ہے اور مسلمان جو کچھ کرتے ہیں وہ اور ہے۔ اسلام رسول کریم ﷺ کی تعلیمات کا نام ہے۔ شاہ ولی اللہ نے اسی لیے لکھا کہ تاریخ مسلمین اور تاریخ اسلام الگ الگ ہو گئے۔

تمام انقلابی تحریکوں کے لئے نمونہ حسین علیہ السلام ہیں۔

تاریخ میں جہاں کہیں کسی بھی انقلابی تاریخ کا ذکر آئے گا، وہاں سیدنا امام حسین علیہ السلام کا حوالہ ساتھ ہی ملے گا۔ لوگ اٹھے ہی اس لیے اور جانیں دیں کہ ایک طرف مصلحت ہے، دوسری طرف عشق ہے جو کہتا ہے کہ جان دے دو تاکہ اعلیٰ اقدار اور اصول تباہ نہ ہونے پائیں۔ آپ نے بے سروسامانی اور کسی فوج کے بغیر اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت سے ٹکر لی اور بقول معصب بن زبیر رضی اللہ عنہ کسی حلال زادے کیلئے کوئی بہانہ نہ چھوڑا۔ جو لوگ سود و زیاں کا حساب لگاتے ہیں وہ اس راہ پر نہیں چل سکتے مگر جو اس سے بے نیاز ہوں، وہی تاریخ میں جگہ پاتے ہیں۔ جبکہ مصلحت بین کیڑوں کی طرح مرنے کے بعد بے نشان ہو جاتے ہیں۔

جس درج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے

یہ جان تو آتی جانی ہے اس جاں کی تو کوئی بات نہیں

دیوانگان عشق اس لئے اقدار کی حفاظت کرتے ہیں کہ ان کی نظر میں طاقت نہیں بلکہ حق طاقت ہے۔

اکثریت پر نہیں حق اور صداقت کا مدار

دے کے سر سمجھا گئے ہم کو حسین ابن علی

واقعہ کربلا کی اہمیت

اسلام کے عالمی مبلغ و داعی سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ اپنی کتاب المرتضیٰ میں لکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں اولاد رسول ﷺ سے ہونے والے برے سلوک سے تمام مسلمانوں پر ذلت چھا گئی ہے۔ اس واقعہ کا وسیع پس منظر ہے، یہ کوئی وقتی اشتعال نہیں تھا، بات بہت پہلے سے شروع ہوتی ہے۔ مگر بد قسمتی سے لوگوں نے اسے دین کا حصہ نہ سمجھا۔ حالانکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں حدیثوں میں پیش گوئی اور بعد از شہادت روح پاک نبوی پر ہونے اثر کے متعلق صحیح احادیث کو مد نظر رکھا جاتا تو معلوم ہوتا کہ یہ کوئی سیاسی نہیں بلکہ دینی جنگ تھی۔ کچھ لوگوں نے اس واقعہ کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا اور کچھ نے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی کہ اس میں بڑے بڑے لوگوں کا نام آتا ہے بات کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کسی نے نہ کی۔ صاف بات یہ ہے کہ جس نے حسین علیہ السلام کا واقعہ نہیں سمجھا، اس کو اسلام کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہ صرف ایک شخصیت کا واقعہ نہیں بلکہ عین اسلام ہے۔ خدا کے سارے نبی علیہم السلام جس بات کو لے کر دنیا میں آئے وہ خلافت اسلامیہ کا قیام ہے۔ وہ صرف پوجا پاٹ کرانے کیلئے تشریف نہیں لائے۔ ان کے مشن کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید: 25/57 میں فرمایا: ”ہم نے کتاب بھی اتاری اور لوہا یعنی طاقت بھی“ کیونکہ اسلام حکومت کے بغیر بالکل یتیم ہے۔ اسلام حکومت کے بغیر وعظ و نصیحت ہو سکتا ہے، جس کی مرضی مانے، جس کی مرضی نہ مانے۔ خلیفہ المسلمین صرف ایک حکمران نہیں بلکہ نائب رسول ہے۔ اس نے وہ سارے فرائض ادا کرنے ہوتے ہیں جو رسول ﷺ اپنی مبارک زندگی میں ادا فرماتے تھے۔ وہ دین کا سب سے اعلیٰ نمونہ اور سیرت رسول کے سب سے قریب ہوتا ہے، اسی لیے خلیفہ کو امام کہا گیا ہے۔ امام عربی میں اس دھاگے کو کہتے ہیں جو معمار لوگ دیوار کو سیدھا رکھنے کے لئے تعمیر کے وقت دونوں سروں پر باندھ دیتے ہیں۔ اگر اس میں ٹیڑھ آ جائے تو ساری عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی۔

جب یہ امت غلط موڑ مڑ رہی تھی تو بد قسمتی سے لوگوں نے فرزند رسول ﷺ کا ساتھ

نہیں دیا۔ اگر ساتھ دیتے تو خرابی وہیں ختم ہو جاتی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم پر ایک سے بڑھ کر ایک بدمعاش حکمران بنا۔ واقعہ کر بلا ایک کہانی نہیں بلکہ نظام شریعت کو سمجھنے کیلئے، نظام شریعت کا قیام، غلبہ اسلام اور پوری دنیا میں دین کو قائم کرنے کے لئے، جو مسلمانوں کا اصل فریضہ ہے، بہت ضروری سبق ہے جب تک مشرق سے مغرب تک اسلام حکمران نہ بن جائے، مسلمانوں کو آرام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

حدیث میں ارشاد رسولؐ ہے کہ ساری زمین میرے لیے مسجد بنادی گئی ہے۔ جب تک اس مسجد کا کوئی حصہ کفار کے قبضہ میں ہے مسلمانوں پر آرام حرام ہے۔

الحذر اے گردش نہ آسمان
مسجد مومن بدست دیگران؟

زمانے کے اس نئے انقلاب سے پناہ! کہ مومن کی مسجد (زمین) کفار کے قبضہ میں ہے؟

دین صرف غلبہ کا نام ہے، غلام کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ اس لیے مسلمانوں کو قرآن مجید میں حکم دیا گیا، جو کفار کے علاقہ میں رہتے تھے، کہ یا تو وہاں سے ہجرت کر دیا وہاں اسلام کے غلبہ کی کوشش کرو ورنہ منافقوں میں شمار ہو گے۔

(سورہ نساء: 97/4) میں مکہ میں رہنے والے مسلمانوں، جنہوں نے ہجرت نہ کی تھی، بوقت حالت نزع فرشتوں کا مکالمہ نقل ہوا ہے جو سب مسلمانوں کیلئے نصیحت آموز ہے۔ ان لوگوں کو جو کفار کی ماتحتی میں رہ رہے تھے اگرچہ دور نبوی کے مسلمان تھے، دوزخ کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسلامی حکومت کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ شرک اور توحید کا مسئلہ ہے اور یہ شرک سے کم نہیں کہ خدا کی زمین پر بندے حکومت کریں اور اپنی من مرضی سے حکومت کریں۔ اسلامی حکومت میں خلیفہ من مرضی نہیں بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق حکومت چلاتا ہے اور خود کو خدا کے سامنے جوابدہ سمجھ کر حکومت کرتا ہے۔ اسی لیے وہ عوام سے زیادہ قانون کا پابند ہوتا ہے۔

جب حکومت خدا کے قانون سے آزاد ہو جاتی ہے تو طاغوت بن جاتی ہے اور جو اس کی فرماں برداری کرتے ہیں وہ بت پرستی کرتے ہیں۔ سیدنا حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے لکھ دیا کہ اگر لکھ گو بھی حکومت کرے مگر خدا کے قانون کے مطابق نہ کرے تو وہ بت ہے اور مشرک ہے۔ یہ تو سیکولر ازم ہے کہ دین عبادت خانوں میں رہے اور حکومت کو اپنی مرضی کرنے دو۔ یہ بہت بڑا فتنہ اور شرک ہے۔ قرآن مجید میں منافقین کا شرک یہی تحکم الی الطاغوت بیان ہوا ہے۔ جب کوئی حکمران یا عدالت خدا کی کتاب کو چھوڑ کر فیصلے دیتی ہے تو وہ طاغوت اور بت ہے اور جو ایسے حکمران یا ایسی عدالت سے فیصلے کراتا ہے وہ مشرک ہے۔ کر بلا دین کی بنیاد اور لا الہ الا اللہ کی تشریح ہے کہ حکمران کو دین سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ فتنہ آیا اسلام تباہ ہوا۔ اس عظیم واقعہ کی حقیقت شیعہ سنی کش مکش میں مہسپ کر رہ گئی۔ نواسرہ رسول علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ یہ نہ سوچا کہ ایسا کیوں ہوا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ دین کو برباد کیا برے بادشاہوں نے، برے درویشوں نے اور برے علماء نے

واقعہ کر بلا دو شخصیتوں کا نہیں بلکہ اسلامی حکومت کے دفاع کیلئے جان دینے والوں اور ظالم کے مسلمانوں کا سربراہ بن جانے کی دو علامتیں ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں جہاں نماز روزے کے احکام میں وہیں حکومت کرنے کے احکام بھی ہیں اور اس کی فرماں برداری کی حدود بھی بیان ہیں کہ کب تک حکومت کی تابعداری کی جائے گی۔

توحید یہ ہے کہ کسی بندے کو خود پر حکومت نہ کرنے دو بلکہ خدا کا قانون حکومت کرے۔ یہ بات مسلمانوں کے ذہنوں سے بڑی محنت سے نکالی گئی ہے اور یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو آجائے اسے سلام کرو۔ ظالموں سے تعاون کرنے میں حسین علیہ السلام کے نام لیوا سب سے آگے ہیں اور وہ وقت تک ہر یزید کا ساتھ دیتے ہیں۔

آساں نہیں ہے معرفت راز کر بلا
دل حق شناس دیدہ بیدار چاہیے

امام حسین علیہ السلام کے قاتل کون تھے؟

حضرت علی علیہ السلام سے لڑنے والوں اور امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والوں کا شجرہ نسب دیکھو کہ وہ کن کی اولاد ہیں۔ ان کے بڑے کس کس جنگ میں علی علیہ السلام کی تلوار سے قتل ہوئے؟ تو یہ بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے گا کہ یہ بعد کی بات نہیں یا حکومت کی رٹ قائم کرنے کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ دیرینہ دشمنی تھی۔ دونوں فریق سات پشتوں سے مد مقابل تھے، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ اس کے ساتھ ساتھ واقعہ 7 جو آپ پڑھ چکے ہیں، کو سامنے رکھیں تو معلوم ہوگا کہ انصار رضی اللہ عنہم سے پرانے بدلے لیے جارہے ہیں۔ یزید پاگل نہیں تھا بلکہ اس نے بدر میں اپنے بڑوں کے قتل کا بدلہ لیا۔ ادھر سیدنا حسین علیہ السلام کا اقدام بھی کڑھی کا وقتی ابال نہیں تھا بلکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ اسلام کو لگا تار نقصان پہنچاتے چلے آ رہے ہیں۔ حضور ﷺ کو معلوم تھا کہ کفار کی اولاد کو کلمہ پڑھ چکی ہے مگر پرانی دشمنی اور قتل ان کو بھولے نہیں۔ ان کے بڑے علی علیہ السلام و انصار کی تلواروں سے قتل ہوئے تھے، وہ یہ کیسے بھول سکتے تھے۔ جنگ بدر کے مقتولین ہی دیکھ لیں! ستر میں سے چوبیس کافر حضرت علی علیہ السلام نے قتل کئے۔ علی علیہ السلام کی تلوار کفار کیلئے مصیبت بن گئی۔ جن لوگوں کے نانا اور بھائی ان کی تلوار سے قتل ہوئے، انہوں نے بدلہ تو لینا ہی تھا۔ امیر معاویہ کا بھائی حنظلہ، امیر معاویہ کا نانا عقبہ اور ہند کا باپ، علی علیہ السلام کی تلوار سے بدر میں قتل ہوئے۔ عقبہ بن ابی معیط، جس نے حضور ﷺ پر اوجھڑی ڈالی تھی، وہ بھی بدر میں علی علیہ السلام کی تلوار سے قتل ہوا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کا فاسق بیٹا ولید بن عقبہ گورنر بن گیا تو علی علیہ السلام کی شامت تو آنی ہی تھی۔

جب بات حسین علیہ السلام سے شروع کی جاتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ادھوری ہے۔ بات بہت پہلے سے شروع ہوئی ہے۔ صرف پردہ ڈالنے کے لئے بات حسین علیہ السلام و یزید سے شروع کی جاتی ہے۔

حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے آئندہ ہونے والے واقعات کی پیشگی خبر دے دی تھی

اسی لیے آپ ﷺ فرما گئے تھے کہ علی علیہ السلام و انصار رضی اللہ عنہم سے محبت کرنے والوں سے اللہ محبت رکھے اور ان سے بغض رکھنے والوں سے اللہ بغض رکھے اور یہ کہ ان سے محبت ایمان اور بغض نفاق کی نشانی ہے جیسا کہ اپنے اپنے مقام پر گزر چکا۔

جس بات کا حضور ﷺ کو اپنے بعد اندیشہ تھا، وہی انصار کے ذہن میں بھی تھا۔ اسی لیے انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتخاب کے وقت یہ شرط رکھی تھی کہ قریشی و انصاری باری باری خلیفہ بننا چاہیے تاکہ ہر حکمران محتاط ہو کر کام کرے۔ اگر ان لوگوں کی اولاد کبھی حکمران بن گئی جن سے ہم نے جنگیں لڑی ہیں تو ہمارا بہت نقصان ہوگا۔ ان کا یہ خدشہ واقعہ 7 میں حقیقت بن کر سامنے آ گیا اور انصار نے بھٹکا۔

امام ابن حجر فتح الباری ج: 12، ص: 153 پر لکھتے ہیں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو دوران گفتگو، حضرت حباب ابن منذر بدری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ باری باری ایک امیر تم میں سے ہو اور ایک ہم میں سے ہو کرے گا۔ اس خلافت کے معاملہ میں ہم آپ سے حسد نہیں کرتے بلکہ ہم کو ڈر ہے کہ وہ لوگ حاکم بن جائیں گے، جن کے باپ اور بھائی ہم نے جنگوں میں قتل کئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر ایسا ہو گیا تو پھر مر جانا بہتر ہے۔ مگر ایسا ہو کر رہا۔

امام حسین علیہ السلام کا اصل مشن

امیر معاویہ کی وفات کی اطلاع ملنے پر کوفہ سے سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ ”شکر ہے آپ کے مخالف کی خدانے کمر توڑ دی ہے اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ وہ ڈکٹیٹر، دین کا مخالف، جس نے امت پر تلوار کے زور سے قبضہ کیا، امت سے سب کچھ چھین کر خود مالک بن گیا، امت کا خزانہ غصب کر لیا، امت خوش نہیں تھی مگر سر پر سوار

ہو گیا، امت کے نیک آدمیوں کو قتل کیا، بدترین لوگوں کو ترجیح دی، اللہ کا مال، بیت المال، اپنے ساتھیوں اور بد معاشوں میں بانٹا۔ جیسے قوم شہود دنیا سے دفع ہوئی، اسی طرح وہ بھی دنیا سے دور ہوا۔ (طبری، ج: 4، ص: 261-262)

امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الامم والملوک ج: 4، ص: 262 پر لکھتے ہیں کہ

حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب میں لکھا ”تم پر سلام ہو، میرا ارادہ ہنستہ ہو چکا ہے، میں آ رہا ہوں۔ اللہ کی قسم مسلمانوں کا سربراہ صرف وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے، انصاف کو اپنا طریقہ بنائے، حق پر قائم رہے اور خود کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر پابند کر رکھے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق میں سے چنا، ان کو نبوت کا تاج پہنایا، نبی ہونے کیلئے منتخب کیا، پھر ان کو اپنی طرف واپس بلا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی خیر خواہی کر گئے اور تمام دین پہنچا گئے۔ ہم خاندان رسالت تھے، ہمارے حق میں تاکید فرمائی۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بننے کے سب سے زیادہ حق دار تھے، مگر ہماری قوم نے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی، ہم راضی ہو گئے۔ امت میں اختلاف کو ہم نے پسند نہ کیا بلکہ خیر خواہی اور صلح کو پسند کیا حالانکہ ہم جانتے تھے کہ جو حکومت پر بیٹھ گئے ہم ان سے زیادہ حق دار ہیں اور زیادہ اچھے طریقہ سے حکومت چلا سکتے ہیں، مگر جو حکومت پر بیٹھے انہوں نے بہت اچھے کام کئے۔ مسلمانوں کی بہتری کی اور حق پر چلتے رہے۔ اللہ ان سب پر رحمت کرے، ان کو اور ہم کو بخشے۔ میں اپنے قاصد کو خط دے کر بھیج رہا ہوں اور میری اس تحریک کا مقصد آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانا ہے کہ ان کو قائم کرو۔ سنت مٹادی گئی اور بدعت زندہ کر دی گئی۔ اگر تم میری بات سنو گے اور مانو گے تو تحریک کامیاب ہوگی۔ میں تم کو راہ راست پر چلاؤں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“

امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 188-189 پر لکھتے ہیں کہ امام نے ان خطوط کی بنا پر کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ ابن کثیر ج: 8، ص: 182 پر لکھتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق پہلے عبداللہ بن یقطر اور دوسری بارقیس بن مسہر خط لے کر گئے۔

امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں

امام ناصر الدین البانی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ج: 1، حدیث نمبر 374 پر حدیث لائے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبدالطلب سید الشہداء تھے اور وہ بھی سید الشہداء ہوگا جو ظالم حکمران کو ظلم سے روکے اور ظالم اسے قتل کر دے۔

نسائی کتاب البیعت باب فضل من قال بالحق عند امام جانر میں طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکاب میں پاؤں رکھ چکے تھے، کہ کون سا جہاد افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر سلطان کے سامنے حق بات کہنا۔

کوفہ بلانے والے کون تھے؟

کوفہ میں بلانے والے حضرت سلیمان بن صرد صحابی رضی اللہ عنہ تھے جن کے بارے میں امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 255 میں لکھتے ہیں کہ صحابیاً جلیلاً نبیلاً عابداً زاہداً۔ انہوں نے اپنے گھر میں چار آدمیوں کو بلایا (ان کا ذکر جنگ تو ابون میں آئے گا) اور کہا کہ ایک طاغوت سے اللہ نے ہماری جان چھڑائی اور دوسرا ہم پر مسلط ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کو دعوت دو اور ان کا ساتھ دو تا کہ ان ظالموں سے جان چھڑائی جاسکے۔ انہی پانچ آدمیوں نے امام حسین علیہ السلام کو پہلا خط لکھا۔ اس عظیم صحابی کو لوگ بدنام کرتے ہیں کہ انہوں نے امام سے دھوکہ کیا۔

امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 281-283 پر لکھتے ہیں ان

لوگوں نے بعد میں اپنے وعدہ کو نبھایا۔ انہی لوگوں نے بعد میں تو ابون کی تحریک چلائی اور عین الوردہ کے مقام پر شہید ہوئے۔ حضرت سلیمان بن صردؓ کی عمر اس وقت 93 سال تھی، وہ پہلے مداس لیے نہ کر سکے کہ ابن زیاد نے کرفیو لگا کر امام کے ساتھیوں پر قابو پالیا۔ حصین بن نمیر کو تو ال نے تاکہ بندی کر دی کہ کوئی امام کی مدد کو نہ جاسکے۔ سلیمان بن صرد اور ان کے ساتھی بہت پچھتائے کہ وہ امام کی مدد نہ کر سکے۔

کوئی مجبور تھے، بے وفا نہیں تھے۔ کیونکہ مختار ثقفی نے جب امام کے قتل کا انتقام لیا تو اس کے ساتھ بھی زیادہ تر کوئی ہی تھے جیسا کہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 284 تا 294 پر لکھا ہے۔

امام بخاری نے اپنی صحیح میں (ج: 1، ص: 413) کتاب الاذان باب الکلام فی الاذان میں لکھا کہ سلیمان بن صردؓ نے اذان میں بات کی، پھر کتاب ج: 5، ص: 351 کتاب المغازی میں باب غزوہ الخندق وہی الاحزاب میں ان سے حدیث روایت کی ہے کہ جب کافر جنگ خندق کے بعد واپس لوٹ گئے تو نبی ﷺ نے فرمایا، اب ہم کفار پر حملہ کریں گے، وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ امام ابوداؤدؓ نے کتاب الصلوٰۃ، ابو اب السفر باب انزل القرآن علی سبعة احرف میں ج: 1، ص: 596 پر ان سے روایت نقل کی ہے۔

واقعہ کربلا اور صحابہ رضی اللہ عنہم

سلیمان بن صرد الخزامیؓ، امام حسین علیہ السلام کو کوفہ بلانے والے بھی صحابی تھے اور یہ بھی امر واقعہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مقابلہ میں کوئی صحابی کربلا میں نہ آیا بلکہ حضرت انس بن الحارث صحابیؓ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہوئے کربلا میں شہید ہوئے۔

عوام اور اکابر رضی اللہ عنہم کی نظر میں مقام حسین علیہ السلام

امام ابن کثیرؒ البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 104 پر لکھتے ہیں:

”عام لوگ دل سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ عبد اللہ بن زبیرؓ کو یزیدی لشکر، عمرو بن زبیر کی سرکردگی میں گرفتار کرنے آیا تو ابن زبیرؓ کو اللہ نے فتح دی۔ یزیدی فوج شکست کھا کر واپس ہو گئی۔ ابن زبیر نے یزیدی لشکر میں سے جتنے چاہے ہلاک کر دیے۔ اپنے بھائی عمرو بن زبیر کو پہلے خوب مارا، قید کر دیا، پوری طرح بدلہ لیا، تو بین کی۔ اس طرح حجاز کے علاقہ میں ابن زبیرؓ کو کامیابی ہوئی۔ ان کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ ان تمام کامیابیوں کے باوجود لوگوں کی نظروں میں ان کی اتنی عزت نہیں تھی جتنی امام حسین علیہ السلام کی تھی سارے لوگوں کا رجحان یقیناً امام حسین علیہ السلام کی طرف تھا کیونکہ وہ سید کبیر (بلند پایہ سردار) تھے اور رسول اللہ ﷺ کی بیٹی کے بیٹے تھے۔ پوری زمین پر ایک آدمی بھی ان کے برابر نہ تھا اور نہ ہم سر تھا مگر پوری یزیدی حکومت ان کی دشمن ہو گئی تھی۔“

جب عبد اللہ بن زبیرؓ کے بھائی مصعب بن زبیرؓ نے عبد الملک کے خلاف خروج کیا تو حالات کو نا موافق دیکھ کر ان کی بیوی حضرت سکینہؓ بنت الحسینؓ نے ان کو جنگ پر جانے سے منع کیا۔ تب مصعب بن زبیرؓ نے کہا تیرے باپ (حسین بن علی علیہ السلام) نے کسی حلال زادے کیلئے کوئی بہانہ نہیں چھوڑا۔ (البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 338)

امام ابن جریر طبریؒ لکھتے ہیں کہ جب حسین علیہ السلام قتل کر دیئے گئے تو ابن زبیرؓ نے اہل مکہ کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کی اور ان کے قتل کو بہت بڑا سانحہ قرار دیا۔ یہ بھی فرمایا کہ گوا اللہ نے کسی کو غیب کی خبر نہ دی کہ وہ ضرور قتل ہو کر رہے گا، تاہم آپ نے عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر

ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ حسین علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے اور ان کے قاتل کو رسوا کرے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ خدا کی قسم انہوں نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا جو رات کو دیر تک نمازوں میں کھڑے رہتے تھے اور دن کو کثرت سے روزے رکھتے تھے اور جو اقتدار ان کو (یزید کو) ملا ہے وہ اس کے ان (یزیدیوں) سے زیادہ حقدار اور دین اور فضیلت کے اعتبار سے زیادہ مستحق تھے۔ بخدا وہ تلاوت قرآن کی بجائے گانے بجانے اور خوف الہی سے رونے کی بجائے نغمہ و سرود کا شغل نہیں رکھتے تھے، نہ روزوں کی بجائے شراب نوشی میں مصروف رہتے تھے، نہ ذکر الہی کو چھوڑ کر شکار کی تلاش میں گھوڑے کو ایڑ لگایا کرتے تھے، سو یہ لوگ عنقریب آخر میں خرابی دیکھیں گے۔

امام طبریؒ لکھتے ہیں کہ ان کی باتیں یزید پر تعریض (طنز) تھیں۔

(تاریخ، ج: 5، ص: 474-475)

امام ابن حزمؒ لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی رائے میں بیعت یزید، بیعت ضلالت تھی۔

(انصاف، ج: 4، ص: 105)

سلسلة الاحادیث الصحیحة نمبر 564، بخاری کتاب المناقب باب مناقب الحسن علیہ السلام و الحسین علیہ السلام میں روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمرؓ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اگر احرام والا آدمی لکھی کو مار ڈالے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ عبد اللہ نے کہا عراق والے لکھی مارنے کے بارے میں پوچھتے ہیں جبکہ انہوں نے نواسہ رسولؐ کو قتل کر ڈالا حالانکہ نبیؐ نے ان دونوں کی نسبت فرمایا تھا کہ یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔

عبد اللہ بن عمرو بن عاص نے کہا اس وقت روئے زمین پر امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہیں ہے۔

(مجمع الزوائد، ج: 9، ص: 189)

کہو نہ حاجت ذکرِ شہید ہڈی کیا ہے؟
حسین ہی نے تو ثابت کیا خدا کیا ہے
غمِ حسین دلوں کا نفاق دھوتا ہے
بس اب نہ پوچھ کہ رونے کا فائدہ کیا ہے؟
رضائے حق کی ہر اک راہ میں ہے نقشِ حسین
میں کربلا سے نہ جاؤں تو راستہ کیا ہے؟
اگر حسین کی سیرت پہ ہو سکا نہ عمل
تو پھر یہ مجلس ماتم کا فائدہ کیا ہے؟
حسینیت سے جو ٹوٹا یزیدیت کا بھرم
تو پھر کھلا کہ اثرِ ارضِ کربلا کیا ہے؟
پلٹ نہ آئے جو دریا سے تشنہ لب عباس
تو کون جانتا اس دہر میں وفا کیا ہے؟
بقائے دیں کی ضمانت ہے فاطمہؓ کا پسر
نہیں حسین تو اسلام میں دھرا کیا ہے؟
یہ کربلا کے شہیدوں نے حل کیا ورنہ
کے خبر تھی فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟
(سید وحید الحسن ہاشمی)

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں:

”میں نے دو پہر کو سوتے ہوئے خواب میں حضور ﷺ کو دیکھا۔ آپ علیہ السلام کھڑے تھے، بال مبارک بکھرے ہوئے تھے، بدن مبارک گرد آلود تھا دست مبارک میں ایک شیشی تھی جس میں خون بھرا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے اکٹھا

کر رہا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے وہ وقت اور دن یاد رکھا۔ جب لٹا پٹا قافلہ واپس آیا تو معلوم ہوا کہ واقعی وہی دن اور وقت تھا جب عالم ارواح میں رسول کریم ﷺ بے چین تھے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کو روایت کیا احمد، طبرانی نے، احمد کے رجال صحیح اور تو ہیں۔“

(الفتح الرباني ج: 23، ص: 170 حديث نمبر 378 (الفصل الثالث)

ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار

جو نمازوں میں سدا پڑھتے رہے صل علیٰ

مشکوٰۃ کی اس روایت کو حافظ یوسف صلاح الدین اہل حدیث نے اپنی کتاب

تنفیح الرواة شرح مشکوٰۃ ج: 4، ص: 246-247) میں صحیح قرار دیا ہے۔ مگر جب

لوگ رسالے لکھتے ہیں تو ان کا کبھی ذکر نہیں کرتے۔ جب شرح لکھتے ہیں تو اس میں صحیح قرار

دیتے ہیں۔

شہادت حسین علیہ السلام کی بارگاہ خداوندی میں وہ اہمیت ہے کہ کسی اور کی

شہادت کی خبر دینے کیلئے کبھی فرشتہ نازل نہیں ہوا۔ سوائے آپ کی شہادت

کے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام فضل رضی اللہ عنہا،

انس فی اللہ، علی علیہ السلام، عائشہ رضی اللہ عنہا، زینب رضی اللہ عنہا، ابوالطفیل رضی اللہ عنہ سے صحیح طریق پر

مروی ہے کہ نبی ﷺ نے شہادت حسین علیہ السلام کا پیشگی اعلان فرما دیا تھا۔

بعد میں بشارتاً بعین نے یہ روایت بیان کی۔ امام عبد الرحمن بن النعمان مصریؒ

نے مسند احمد کی تجویب و شرح الفتح الربمانی ج: 2، 3، الباب الثانی

ص: 374 376 اور نزد کرسمس سزا دہر راورد کو سزا لے

حادثہ قتل حسین رضی اللہ عنہ کریم علیہ السلام روایت امام احمد جمع کردی ۱۳۱۳ھ بمطابق ۱۸۹۵ء

۱۲. عاوش کی پیش گوئی کا انوار سے انوار میں سہاگہ شاکہ مہر

اموال منشی حضرت امیر خسرو دہلویؒ : فی الحال نامعلوم

امام اکیں سرگت امام مہدیؑ سے کروں ہے سرمایہ اے امام مہدیؑ میرے

گھر میں اس وقت ایک فرشتہ داخل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔

اس نے مجھے حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیتے دیکھ کر پوچھا کیا آپ علیہ السلام اس بچے

سے پیار کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، اس نے کہا آپ کی امت اس کو قتل

کر دے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں، تو میں اس جگہ کی مٹی آپ ﷺ کو

دکھا دوں؟ پھر اس نے سرخ رنگ کی مٹی مجھے لا کر دی۔

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آ کر خبر دی

کہ میں اسے بچ (حسین علیہ السلام) قتل ہوگا۔ یہ کہا! پھر وہاں سے سرخ رنگ کی مٹی

اگر (۶)۔ (سلسلة الاحادیث الصحیحة ج: ۲، ص: ۴۶۴ حدیث نمبر

821، ج: ١، مستند ك: حاكم، ج: 3، ص: 176-177- يهفي في الدلائل ج: 6،

قتل کر کے مارے غیر اسلسلہ الاحادیث الصحیحہ میں

حصہ 822 بھی اور ج۔ ۱۸۷ ص ۱۸۷ کی مجموعہ الزوائد ج ۹، ص ۱۸۷

ہام زنگہ اکا۔ صاحب زرواست کہا اس کے رجال صحیح ہیں۔ ابوالطفیل

پرامام کے چھانہ کے ایک یوں۔

میں نے اس کو کہہ دیا کہ اس کی سند حسن ہے۔

صفہ: کہ جسے تھوڑے سے پہنچ کر سدا حسین علیہ السلام کو

سیدنا محمد علیہ السلام جب میں کو جادو سے روک رہے تھے تو یہاں تک کہ

مجاہد لڑے سرمایا ابو سید الدنا بابت شد ارباب بنو عبد مناف سے

لوگوں کے پوچھا سحرت یہ کیا بات ہے! سرمایہ میں ایک ریں بی بی جیہ

پاس لیا تو بہت رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کی آپ کی کیا بیماری ہے؟

کیا ہے؟ فرمایا نہیں ابی ایہ مرستہ آیا تھا۔ اس کے بنایا نہ میں نہیں

فراٹ کے کنارے مل لئے جائیں گے اس لیے مجھے اٹھوں پر قابو پونے

رہا۔ (احزابی، ج: 23، ص: 175)

الہامی کہتے ہیں کہ اس کی اسناد حسن ہیں۔

(صحیح حدیث نمبر 1171، المنہاج الحج، البحر، نمبر 884، ابو یعلیٰ نمبر 363، طبرانی، نمبر 2811)

اب یہ حالت ہے کہ

قافلہ حجاز میں ایک حسین علیہ السلام بھی نہیں
گرچہ ہیں تا بدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات

علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ج: 2، حدیث نمبر 821-822، ص: 484 تا 486 میں فرشتہ کا شہادت حسین علیہ السلام کی خبر دینا۔ مثی لا کر دکھانا، پہلی بار زمین پر آنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مسند کے احمد کے حوالہ سے لکھ کر کہا کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔

امام بیہقی رحمہ اللہ کی مجمع الزوائد ج: 9، ص: 187 پر امام نے لکھا کہ اسے احمد نے روایت کیا اور اس کے رجال صحیح ہیں۔ البانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ابوالطفیل والی روایت کی سند حسن ہے۔ اس شہادت کی خبر بذریعہ وحی ملنے کے سب علماء قائل ہیں۔ مشہور اہل حدیث عالم حافظ محمد لکھوی رحمہ اللہ مولانا معین الدین رحمہ اللہ کے پردادا اپنی کتاب زینت الاسلام پہلے حصہ میں ص: 18، پر نقدیر کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے خبر کا ذکر کرتے ہیں۔

بھئی سخت بیماری، دیکھ مشقت حضرت لا سدھائے
پھر دو ہترے پاک نبی دے پیارے سختی دے منہ آئے
اونہاں قتل شہادت خبر بھی نوں دجی ہو یا درگا ہوں
فاطمہ علی نوں دیا حضرت، ہو یا حکم الہیوں
اونہاں دی طرفوں غم دل گیری سھناں دے دل آہی
پر دم مارن دی کسے نہ طاقت اگے حکم الہی

امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 199-200 پر لکھتے ہیں

”حافظ محمد بن سعد وغیرہ نے متعدد اسانید سے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ جب آپ صفین کی طرف جا رہے تھے تو مقام کربلا میں حنظل (اندرائن) کے درختوں کے پاس سے گزرے۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو بتایا گیا کہ کربلا ہے۔ فرمایا کرب و بلا ہے۔ پھر سواری سے اتر کر

آپ نے وہاں ایک درخت کے پاس نماز پڑھی اور فرمایا کہ یہاں وہ شہداء قتل کئے جائیں گے جو صحابہ کے علاوہ بہترین شہداء ہوں گے اور بلا حساب جنت میں جائیں گے اور یہ فرماتے ہوئے آپ نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے وہاں کچھ نشانی بھی لگا دی چنانچہ حضرت حسین علیہ السلام اس جگہ پر قتل ہوئے۔

امیر معاویہ اور امام حسین علیہ السلام میں خط و کتابت

امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے امیر معاویہ کا خط نقل کیا ہے جو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو لکھا معاویہ کو لوگ اطلاع دیتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھی حضرت حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ مروان نے مدینہ سے معاویہ کو خط لکھا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ حسین علیہ السلام بغاوت کریں گے اور مقابلہ بہت بڑا ہوگا۔ اس پر معاویہ نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم کسی سے معاہدہ کرو تو پورا کرو۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کوفہ کے لوگ تمہارے پاس آتے ہیں اور تجھے دعوت دیتے ہیں کہ تو ہمارے خلاف اٹھے۔ عراقیوں کو تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ اور بڑے بھائی سے انہوں نے کیا سلوک کیا۔ حسین اللہ سے ڈرا اور معاہدہ پر قائم رہ! پھر دھمکی دیتے ہوئے لکھا کہ اگر تم میرے خلاف کوئی چال چلو گے تو میں بھی چال چلوں گا۔

سیدنا حسین علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے لکھا کہ تیرا خط ملا ہے۔ جو باتیں تم نے لکھی ہیں میں ان میں سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، میں بھائی کے معاہدہ پر قائم ہوں اور نیکی کا راستہ اللہ بھاتا ہے۔ فی الحال تیرے ساتھ نہ میرا جنگ کا کوئی ارادہ ہے نہ خلاف اٹھنے کا مگر تیرے خلاف جہاد نہ کرنے کا کوئی عذر مجھے بارگاہ خداوندی میں پیش کرنے کیلئے سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یہ جو تم

نے لکھا ہے کہ میں کسی فتنے میں نہ پڑ جاؤں تو میرے علم کے مطابق اس سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہے کہ تیرے جیسا آدمی اس امت کا سربراہ بن گیا ہے۔
(سیر اعلام النبلاء ج: 4، ص: 150، البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 175)

باغی کون؟

امام ابن حزم رحمہ اللہ الحلی ج: 9، ص: 362 پر لکھتے ہیں کہ باغی وہ ہوگا جو دین کو چھوڑے، چاہے وہ حکمران ہو یا عوام ہوں۔ اگر حکمران غلط ہے تو باغی عادل ہوں گے۔ جب بھی اس حکمران سے زیادہ عادل خروج کرے تو اس کا ساتھ دو۔ خروج نہ کرنے کے بارے میں اجماع کے دعویٰ کا رد کرتے ہوئے انہوں نے کہا اصحاب حرہ، حسین علیہ السلام اور ابن زبیر رضی اللہ عنہم اور حجاج کے خلاف اٹھنے والے 4,000 علماء سے بڑا فتنہ کون ہے جو اجماع کا دعویٰ کرے۔ اگر اجماع تھا تو یہ سارے نعوذ باللہ کافر ہو گئے؟
یہ حکمرانوں کی ڈکٹری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو باغی کہتے ہیں۔

بالکل یہی رائے امام ابو بکر جصاص حنفی رحمہ اللہ کی احکام القرآن ج: 4، ص: 1409 پر امام ابن حجر رحمہ اللہ کی فتح الباری ج: 12، ص: 285-286 پر امام محمد بن ابراہیم الوزیری مہمانی رحمہ اللہ کی العواصم والقواصم ج: 8، ص: 76 پر اور محمد خیر بیگل کی الجہاد والقتال میں ج: 1، ص: 167 تا 202 پر ہے۔
حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا تھا کہ منصور عباسی کے خلاف خروج میں ابراہیم بن عبد اللہ نفس رضیہ کا ساتھ دینا 50 یا 70 نفلی حج کرنے سے زیادہ ثواب کا کام ہے۔

(احکام القرآن للجصاص ج: 1، ص: 81، مناقب الامام الاعظم از ابن البزاز الکوردی ج: 2، ص: 71، مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ از الموفق بن احمد المکی ج: 2، ص: 83)

مسلمان حکمرانوں کے خلاف خروج و قتال حرام ہونے پر اجماع کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ فقہائے اسلام کا ایک بڑا گروہ جس میں اکابر اہل علم شامل ہیں، خروج کرنے والوں کو صرف اس صورت میں باغی قرار دیتا ہے جبکہ وہ امام عادل کے خلاف خروج کریں، ظالم و فاسق کے خلاف صلحاء کے خروج کو وہ قرآن مجید کی اصطلاح کے مطابق بغاوت کا مصداق نہیں ٹھہراتے اور نہ ان کے خلاف جنگ کو واجب قرار دیتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ظالم حاکموں کے خلاف جہاد کو نہ صرف جائز بلکہ سازگار حالات میں واجب سمجھتے تھے۔ (احکام القرآن للجصاص ج: 1، ص: 81، ج: 2، ص: 39)

بنی امیہ کے خلاف زید بن علی علیہ السلام کے خروج میں انہوں نے نہ صرف خود مالی مدد دی بلکہ دوسروں کو بھی تلقین کی۔ (احکام القرآن للجصاص ج: 1، ص: 81)

امام سرخسی السہوط۔ باب الخوارج اگرچہ خروج سے منع کرتے ہیں

مگر فقہائے حنفیہ کا یہ متفقہ مسلک نہیں ہے۔ امام ابن ہمام حنفی ہدایہ کی شرح فتح القدیر میں لکھتے ہیں کہ باغی وہ ہے جو امام حق کی اطاعت سے نکل جائے۔ حنابلہ میں سے ابن عقیل رحمہ اللہ اور ابن الجوزی رحمہ اللہ امام غیر عادل کے خلاف خروج کو جائز ٹھہراتے ہیں اور اس پر امام حسین علیہ السلام کے خروج سے استدلال کرتے ہیں۔ (الانصاف ج: 10، باب قتال اہل البغی)

امام شافعی رحمہ اللہ کتاب الام میں اس شخص کو باغی قرار دیتے ہیں جو امام عادل کے خلاف جنگ کرے۔ (ج: 4، ص: 135)

المدونہ میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا یہ مسلک نقل کیا گیا ہے کہ خروج کرنے والے اگر امام عادل کے خلاف جنگ کرنے کے لئے نکلیں تو ان کے خلاف مقابلہ کیا جائے گا۔ (ج: 1، ص: 407)

قاضی ابوبکر ابن العربی احکام القرآن میں ان کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی

شخص عمر بن عبدالعزیز جیسے امام عادل کے خلاف خروج کرے تو اس کو دفع کرنا واجب ہے، رہا کسی دوسری قسم کا امام تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ کسی دوسرے ظالم کے ذریعہ اس کو سزا دے گا اور پھر کسی تیسرے ظالم کے ذریعہ سے ان دونوں کو سزا دے گا۔ ایک اور قول امام مالک کا انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ جب ایک امام سے بیعت کی جا چکی ہو اور پھر اس کے بھائی اس کے مقابلے پر کھڑے ہو جائیں گے تو ان سے جنگ کی جائے گی اگر وہ امام عادل ہو رہے یہ ہمارے زمانے کے حکمران تو ان کیلئے کوئی بیعت نہیں کیونکہ ان کی بیعت زبردستی کی گئی ہے۔ پھر مالکی علماء کا جو مسلک صحون کے حوالہ سے قاضی ابوبکر نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ جنگ تو صرف امام عادل کے ساتھ مل کر کی جائے گی خواہ پہلا امام عادل ہو یا خروج کر نیوالا، لیکن دونوں عادل نہ ہوں تو دونوں سے الگ رہو، البتہ اگر تمہاری جان پر حملہ کیا جائے یا مسلمان ظلم کا شکار ہو رہے ہوں تو مدافعت کرو، یہ مسلک نقل کرنے کے بعد قاضی ابوبکر لکھتے ہیں ”ہم جنگ نہیں کریں گے مگر اس امام عادل کے ساتھ جسے اہل حق نے اپنی امامت کیلئے آگے بڑھایا ہو۔“

اگر خروج کرنے والے قلیل تعداد میں ہوں، نہ وہ زیادہ جنگی سامان رکھتے ہوں تو ان پر قانون بغاوت کا اطلاق نہ ہوگا بلکہ عام قانون تعزیرات کے مطابق برتاؤ کیا جائے گا۔ خروج کرنے والے اگر صرف باغیانہ خیالات کے اظہار تک محدود رہیں تو ان کو قتل یا قید نہیں کیا جاسکتا۔ ان کے خلاف جنگ صرف اس وقت کی جائے گی جب وہ عملاً مسلح بغاوت کر دیں اور جنگ سے پہلے ان کو بغاوت چھوڑنے کی دعوت دی جائے گی۔

(المبسوط باب الخوارج۔ فتح القدیر، باب البغاة۔ احکام القرآن للخصاص)

باغیوں سے لڑائی میں جن ضوابط کو ملحوظ رکھا جائے گا وہ نبی ﷺ کے اس ارشاد پر مبنی ہیں جسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالہ سے حاکم، المیزان اور البیہقار نے نقل کیا ہے ”حضور ﷺ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے ابن ام عبد جانتے ہو اس امت کے باغیوں کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے۔ انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کے

رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا ان کے زنجیوں پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا، ان کے قیدی کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کے بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کیا جائے گا اور ان کا مال، غنیمت کے طور پر تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ روایت صحیح نہیں۔

اس ضابطہ کا دوسرا ماخذ جس پر تمام فقہائے اسلام نے اعتماد کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول اور عمل ہے آپ نے جب جنگ جمل کی فتح کے بعد اعلان کیا کہ بھاگنے والوں کا تعاقب نہ کرو، دشمنی پر حملہ نہ کرو گرفتار ہو جانے والوں کو قتل نہ کرو جو ہتھیار ڈال دے اس کو امان دو، لوگوں کے گھروں میں نہ گھسواور عورتوں پر دست درازی نہ کرو خواہ وہ تمہیں گالیاں ہی کیوں نہ دیں، آپ کی فوج کے بعض لوگوں نے مطالبہ کیا کہ مخالفین کو ان کے بال بچوں کو غلام بنا کر تقسیم کر دیا جائے، اس پر غضب ناک ہو کر آپ نے فرمایا تم میں سے کون ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے حصہ میں لینا چاہتا ہے۔ اسی طرح گرفتار شدہ لوگوں کو یہ عہد لے کر کہ وہ پھر بغاوت نہیں کریں گے، رہا کر دیا جائے گا۔

(المبسوط، سرحدی)

ذکر حسین علیہ السلام

حکومتوں کی یہ پوری کوشش رہی ہے کہ ذکر حسین علیہ السلام کو منادیا جائے اور اس کیلئے علماء سے فتوے لکھوائے مثلاً امام غزالی کا فتویٰ بیان کیا جاتا ہے کہ عالم کے لئے امام حسین علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنا حرام ہے۔ یاد رکھو! حسین علیہ السلام اور یزید دو آدمی نہیں، دو نظریے ہیں۔ ان دونوں کو سمجھے بغیر اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی رضی اللہ عنہ کے فتاویٰ کا مجموعہ امداد الفتاویٰ کے نام سے چھپا ہے۔ اس کی ج: 5، ص: 265-266 پر کسی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے مولانا فرماتے ہیں کہ ”فی الحقیقت واقعہ جانکاہ جناب سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ و احبابہ و سخط علی قاتلیہ و اعداء (اللہ حسین علیہ السلام اور ان سے محبت کرنے والوں سے راضی

ہوا اور ان کے قاتلوں اور دشمنوں سے ناراض ہو۔) اس قابل ہے کہ اگر تمام زمین و آسمان و حور و ملک و جن و انس و جمادات و نباتات و حیوانات قیامت تک یہ کہہ کہہ کر رو دیں گے کہ اگر یہ مصیبتیں، جو ہم پر پڑیں دنوں پر پڑیں تو دن کا لے ہو جاتے تو بھی تھوڑا ہے۔ مگر خیال کرنے کی بات ہے کہ جن کی محبت میں روویں بیٹیں گے تو جو حرکات ان کے خلاف طبع ہوں ان کا ارتکاب ان حضرات کے ساتھ سخت عداوت ہے۔

دوستی بے خود چوں دشمنی ست
بے وقوف کی دوستی بھی دشمنی جیسی ہوتی ہے۔

مولانا ص: 266 پر فرماتے ہیں کہ ہاں البتہ اگر گاہے گاہے بہ نیت برکت بطور ذکر بزرگاں بلا تعین یوم و بلا انتظام اجتماع مجمع، بروایات صحیحہ معتبرہ، بلا شرکت و بدون افعال و اقوال نامشروع پڑھے اور غمگین ہو تو باعث برکت ہے۔“

پھر شعر لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے بار بار رسول اللہ ﷺ کی اولاد کا واقعہ سنا کیونکہ ان کا تذکرہ کستوری ہے جس کو جتنا رگڑو گے، خوشبو زیادہ پھیلے گی۔

شان اہل بیت ﷺ (یہ نہ ہوتے زمانے میں اندھیرا ہوتا)

اگر گوئی کہ عالی خاندانم
نظر بر خاندان مصطفیٰ کن

اگر تو کہتا ہے کہ میرا خاندان اعلیٰ ہے تو محمد مصطفیٰ ﷺ کے خاندان کو دیکھ (اہل بیت کی شان حدیث کی ہر کتاب میں بیان ہوئی ہے۔ چند احادیث مندرجہ ذیل ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا حسن و حسین ﷺ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اُن کی ماں فاطمہ ﷺ جنت کی عورتوں کی سردار ہے،

اور ان کا باپ (علی علیہ السلام) ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ (سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ج: 2، ص: 428، حدیث: 796) از ابن مسعود رضی اللہ عنہ بحوالہ متدرک حاکم ج: 3، ص: 167، حاکم نے صحیح کہا اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے موافقت کی۔

رشتہ آئین حق زنجیر پاس
پاس فرمان جناب مصطفیٰ ست
ورنہ گرد تڑپش گردیدے
جدہ ہا بر خاک او پاشیدے

جنت میں ایک مقام

سیدنا علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے گھر تشریف لائے، ہمارے ہاں رات گزاری، حسن و حسین ﷺ سو رہے تھے۔ رات کو حسن علیہ السلام نے پانی مانگا۔ رسول اللہ ﷺ مشکیزے کی طرف گئے، اس سے پیالہ میں پانی نکالا، پھر اسے پلانے کیلئے آئے۔ حسن علیہ السلام کی بجائے پیالہ حسین علیہ السلام نے پکڑنا چاہا لیکن آپ علیہ السلام نے نہ پینے دیا۔ پھر حسن علیہ السلام سے ابتدا فرمائی، سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! ایسے لگتا ہے کہ حسن علیہ السلام آپ علیہ السلام کو زیادہ پیارا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا یہ بات نہیں (در اصل) حسن علیہ السلام نے پانی پہلے مانگا تھا۔ پھر فرمایا، میں، یہ دونوں اور یہ سونے والا (علی علیہ السلام) روز قیامت ایک مقام میں ہوں گے۔

(سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، حدیث نمبر 3319، ابو داؤد طیالسی نمبر 190، طبرانی فی الکبیر نمبر 2622، البزار (الکشف نمبر 2616)،

ابو یعلیٰ نمبر 510 من طریق آخر و احمد ج: 1، ص: 101)

مادرال را اُسوة کامل بتول
مزرع تسلیم را حاصل بتول

سیدنا علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا علی علیہ السلام! تجھے

سے محبت کرے گا صرف مومن اور بغض رکھے گا صرف منافق
(صحیح حدیث نمبر 1720، مسلم نمبر 78، نسائی نمبر 5021، ترمذی نمبر 3786، ابن ماجہ نمبر 114)
سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ج: 3، ص: 1293 پر حدیث ہے کہ جس
نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ
عز وجل سے محبت کرتا ہے اور جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا
ہے اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ عز وجل سے بغض رکھتا ہے۔
ترمذی ابواب المناقب حسن بن علی علیہ السلام و حسن بن علی علیہ السلام میں یعلیٰ بن
مرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حسین علیہ السلام مجھ سے ہے
اور میں حسین علیہ السلام سے ہوں۔ جو حسین سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت
رکھتا ہے۔ حسین علیہ السلام نواسا ہے نواسوں میں سے۔

حب حسین حب رسالت کی ہے دلیل
گویا نبی کے پیار کی میزان بھی حسین

جامع ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی ج: 4، ص: 341 پر اس حدیث کی شرح
میں اہل حدیث عالم مولانا عبدالرحمن مبارکپوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں حسین علیہ السلام
مجھ سے ہے اور میں حسین علیہ السلام سے ہوں کا معنی یہ ہے کہ جو مجھ سے محبت
رکھتا ہے وہ حسین علیہ السلام سے محبت رکھے، جس طرح میرے ساتھ جنگ اور
دشمنی حرام ہے، اسی طرح حسین علیہ السلام سے جنگ اور دشمنی حرام ہے۔
حسین علیہ السلام کو اور مجھے ایک سمجھنا۔ پھر اس بات کو مزید مستحکم یہ فرما کر دیا کہ
حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔“

بخاری کتاب المناقب باب قریبۃ رسول اللہ ﷺ میں حضرت
مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فاطمہ علیہا السلام
میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔

مسلم کتاب الفضائل باب من فضائل فاطمہ علیہا السلام میں حضرت مسور
بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے اور ترمذی ابواب المناقب باب ماجا فی فضل فاطمہ علیہا السلام
میں مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا اور
آپ علیہ السلام منبر پر فرماتے تھے کہ بنی ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اجازت
چاہی کہ ہم اپنی لڑکی علی علیہ السلام ابن ابی طالب کو بیاہ دیں مگر میں اجازت نہیں
دیتا، اجازت نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا۔ اگر علی ابن ابی طالب کا ارادہ ابو
جہل کی لڑکی سے شادی کرنے کا ہو تو میری بیٹی کو طلاق دے دے اور اس کی
بیٹی سے نکاح کرے۔ اس لیے کہ وہ (فاطمہ علیہا السلام) میرے دل کا ٹکڑا ہے، جو
چیز اسے تکلیف دیتی ہے، وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔

اس سے آگے اسی باب میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام
نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کا ذکر کیا پھر یہ خبر نبی ﷺ کو بھی پہنچی تو فرمایا فاطمہ علیہا السلام
میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے دکھ دیتی ہے وہ مجھے دکھ دیتی ہے۔

اس حدیث کی شرح میں مولانا عبدالرحمن مبارکپوری رحمہ اللہ تحفۃ الاحوذی ج: 4،
ص: 361 پر لکھتے ہیں کہ نبی ﷺ کو دکھ دینا حرام ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ، بالاتفاق حرام
ہے، تو اس صحیح حدیث کے مطابق جس چیز سے بھی کبھی فاطمہ علیہا السلام کو دکھ پہنچا اس سے رسول
اللہ ﷺ کو دکھ پہنچا۔ فاطمہ علیہا السلام کو اس امت نے اس سے بڑا دکھ اور کیا دینا تھا کہ ان
کے بیٹے کو قتل کر دیا، مطالعہ کرنے سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جس نے اس کام میں حصہ لیا،
اسے دنیا میں ہی سخت سزا ملی اور آخرت کا عذاب بہت سخت ہے۔

اللہ و رسول ﷺ کو ایذا دینے والوں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں
لعنت کی ہے۔ (سورۃ احزاب: 57/33)

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے جس میں حضرت فاطمہ علیہا السلام
کے کان میں دو دفعہ نبی ﷺ کا سر گونشی کرنا مذکور ہے۔ اس کے آخر میں

فرمان نبوی ہے کہ فاطمہ کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ تو مومن عورتوں کی یا اس امت کی عورتوں کی سردار ہے؟ یہ سلسلہ الاحادیث حدیث نمبر 2948، بخاری حدیث نمبر 6286، مسلم میں حدیث نمبر 98 اور 2450، نسائی فی الکبریٰ حدیث نمبر 18368 اور ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1621 میں مذکور ہے۔

مستدرک حاکم ص 3 ج 148-149 پر حدیث ہے جس کو حاکم نے مسلم کی شرط پر صحیح اور امام ذہبی نے موافقت کی۔ جس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے درمیان خشوع و خضوع سے عبادت کرے، نمازیں پڑھے اور روزے رکھے، اگر وہ خدا کے سامنے اس حالت میں پیش ہوا کہ وہ آل رسول علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا۔

ایسی حدیث کسی اور کے حق میں نہیں آئی۔

علامہ البانی رحمہ اللہ سلسلہ الاحادیث الصحیحہ ج 5 ص 643، حدیث نمبر 2488 باب تحریم بغض اہل بیت کے تحت یہ حدیث لاتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اگر کوئی ہمارے اہل بیت سے بغض رکھے گا تو اللہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا۔ یہ حدیث حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے حاکم اور ابن حبان نے روایت کی۔

علامہ البانی رحمہ اللہ کی سلسلہ الاحادیث ج 7، جز نمبر 3 ص 1732 تا 1734 حدیث نمبر 4003 میں فرمایا گیا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ دنیا میں ہی جنتی آدمی دیکھ لے، وہ حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کو دیکھ لے۔

(بحوالہ مسند عن ابو یعلیٰ حدیث نمبر 1874، و عند ابن حبان حدیث نمبر 6966)

مسلم کتاب الفضائل باب من فضائل الحسن و الحسنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے اور ترمذی ابواب المناقب، باب مناقب اہل بیت النبی میں عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ، جو ربیب تھے نبی ﷺ کے، سے روایت ہے کہ جب یہ آیت تطہیر نبی ﷺ پر نازل ہوئی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر بلایا فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو اور ان پر ایک چادر ڈال دی، اور علی علیہ السلام ان کے پیچھے تھے، ان سب پر چادر ڈال دی، پھر فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، سو ان سے رجس دور کر دے، اور ان کو پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں یا رسول اللہ! فرمایا تم اپنی جگہ بیٹھی رہو، تم خیر پر ہو۔ زحشری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حدیث کساء اہل بیت کی فضیلت اور حضور ﷺ کی نبوت کی دلیل ہے۔ (کشاف ج 1 ص 375)

من کسیتم کہ با تو دم دوستی زغم
زچندیں سگان کوئے تو یک گم ترین سگم
نازم بچشم خود کہ جمال تو دیدہ است
افتم پچائے خود کہ بہ کوء ت رسیدہ است

ابن اثیر رحمہ اللہ اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ ج 2 ص 20 پر وائلہ بن الاسقع صحابی سے امام اوزاعی رحمہ اللہ کی روایت درج کرتے ہیں جو اوزاعی رحمہ اللہ نے شداد بن عبد اللہ سے روایت کی

”شداد نے بیان کیا میں نے وائلہ بن الاسقع کو یہ کہتے سنا کہ میرے سامنے حضرت حسین علیہ السلام کا سر یزید کے پاس لایا گیا۔ اس وقت یزید تخت پر بیٹھا تھا اور شامی درباریوں میں سے ایک نے اٹھ کر حضرت علی علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام پر لعنت کی (خدا ان پر لعنت کرنے والوں پر لعنت

کرے) حضرت وائلہؓ اٹھے اور کہا میں علیؑ، حسنؑ و حسینؑ اور فاطمہؑ کی محبت سے باز نہ آؤں گا کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ ﷺ سے سنا اور وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ میں ایک دن حضور ﷺ کی خدمت میں تھا اور آپ اس وقت ام المومنین حضرت ام سلمہؓ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حسنؑ تشریف لائے تو آپ ﷺ نے ان کو دائیں ران پر بٹھالیا اور ان کو چوما، پھر حسینؑ آئے تو ان کو بائیں ران پر بٹھالیا اور ان کو بھی چوما، پھر فاطمہؑ تشریف لائیں تو ان کو سامنے بٹھالیا، پھر حضرت علیؑ کو بلایا اور پھر آپ ﷺ تپہر تلاوت فرمائی۔

شداد بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے وائلہؓ سے پوچھا کہ رجس کیا ہے؟ حضرت وائلہؓ نے فرمایا، اس سے مراد روحانی پلیدی یعنی خدا کے بارے میں شک ہے۔ ان کے دلوں میں خدا کے بارے میں شک نہیں آئے گا اور ایمان سے ان کے دل ہر ہوجائیں گے۔

ابو احمد عسکریؒ کہتے ہیں امام اوزاعیؒ نے اس حدیث کے سوا اہل بیت کی شان میں کبھی حدیث بیان نہیں کی اور امام زہریؒ نے بھی اہل بیت کے بارے میں ایک کے سوا کبھی حدیث نہیں سنائی۔ ابن اثیرؒ اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں بنو امیہ سے ڈرتے تھے۔

حضرت مسور بن مخرمہؒ جو خانہ کعبہ پر بنو امیہ کی سنگ باری کے دوران پتھر لگنے سے شہید ہوئے، سے روایت ہے کہ حضرت حسنؑ کی بیٹی نے میری بیٹی سے نکاح کرنے کیلئے مجھے پیغام بھیجا۔ میں نے قاصد سے کہا، ان سے کہنا مجھے شام کو ملیں، حسنؑ نے ان سے ملاقات کی مسورؒ نے اللہ کی حمد و ثناء کے بعد کہا اللہ کی قسم مجھے کوئی نسبی، ازدواجی تعلق و قرابت تمہارے نسب و قرابت سے بڑھ کر پیارا نہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”فاطمہ میرے بدن کا ٹکرا ہے، جو چیز اسے

پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، جو چیز اسے خوش کرتی ہے، وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے اور قیامت والے دن سب نسب و قرابت کے رشتے ختم ہو جائیں گے سوائے میرے نسب، سر اور دامادی کے رشتوں کے“ (اس حدیث کے بعد غور کر کہ) تیرے گھر سیدہ فاطمہؑ کی بیٹی ہے۔ اگر میں نے اپنی بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کر دی تو وہ تنگ دل ہوگی (یہ بات حضرت فاطمہؑ کو دکھ دے گی تو میرا اور میری بیٹی کا کیا بنے گا؟) حسنؑ بن حسینؑ نے مسور بن مخرمہؒ کا عذر قبول کیا اور چلے گئے۔

امام رازیؒ اپنی تفسیر مفتاح الغیب میں سورہ کوثر کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”کوثر (بہت کثرت) کا ایک معنی نسل کی کثرت بھی ہے، یہ بات اس لیے مناسب ہے کہ عاص بن وائل نے حضور ﷺ کے تحت جگر قاسمؑ کی وفات پر طعنہ دیا تھا کہ آپ ﷺ اس دنیا سے ابترا (بے نام و نشان) جائیں گے (نعوذ باللہ) اس کافر کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کو بے اندازہ اولاد دیں گے کہ زمانہ گزرنے پر بھی وہ ختم نہ ہوگی۔ دیکھ کتنے ہی سید قتل کر دیئے گئے، پھر دیکھ کہ دنیا اب بھی ان سے بھری پڑی ہے جبکہ بنی امیہ میں سے ایک بھی ایسا نہ رہا جس کی لوگ عزت کرتے ہوں۔ پھر دیکھو اولاد رسول ﷺ میں سے کتنے چوٹی کے عالم ہوئے ہیں باقرؑ، صادقؑ، کاظمؑ اور رضاؑ جیسے اور نفس زکیہ اور ان کی مثال دوسرے۔“

(القول الثالث: ج: 32: ص: 124)

امام ابن کثیرؒ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں:

”یزید کے 15 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ ان کے نام لکھ کر امامؒ لکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک کی اولاد بھی اب دنیا میں نہیں رہی اور اس کو خدا نے ابترا کر دیا۔“ (ج: 8: ص: 256)

وفد نجران سے مہابلہ کے لیے بھی حضور ﷺ نے حضرت علیؑ و فاطمہؑ کو

حسین کو بلایا تھا کیونکہ عیسائیوں کا رات کو یہ مشورہ ہوا تھا کہ اگر سچائی ہے تو اپنے دل کے کھڑے مہالہ میں لائے گا۔ اگر ان کو لائے تو پھر مقابلہ نہیں کرنا، اگر دوستوں کو لائے تو پھر مہالہ کر لیتا کیونکہ اس صورت میں سچائی نہ ہوگا۔

امام ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری ج: 8، ص: 724 پر لکھتے ہیں:

”اگر وفد نجران مہالہ کر لیتا تو وہ سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیاں بھی بلند مرتبہ تھیں مثلاً جیسا کہ عروہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعل میری بیٹی افضل ہے، اسے میری وجہ سے تکلیف پہنچی۔

(سلسلہ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 3071، طبرانی فی الکبیر ج: 22، ص: 431، مستدرک حاکم ج: 4، ص: 43-44، مسند بزار حدیث نمبر 2666)

مسلم کتاب الفضائل باب من فضائل فاطمہ رضی اللہ عنہا میں مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت بذریعہ علی ابن الحسین مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے (خود) ابو جہل کی بیٹی سے شادی کا پیغام بھیجا اور اس وقت ان کے نکاح میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھیں۔ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ خبر سنی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برادری کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے لئے غصہ نہیں ہوتے اور یہ علی رضی اللہ عنہ ہیں جو ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں۔ مسور رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا میں نے اپنی لڑکی کا نکاح (نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم) ابو العاص بن ربیع سے کیا۔ اس نے جو بات مجھ سے کہی سچ کہی، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے بدن کا ٹکڑا ہے اور مجھے برا لگتا ہے کہ لوگ اس کو آزمائش میں ڈالیں۔ اللہ کی قسم! اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک مرد کے پاس بھی جمع نہ ہوں گی۔

یہ سن کر علی رضی اللہ عنہ نے پیام چھوڑ دیا (یعنی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ ترک کر دیا)۔ یہ روایت بخاری کتاب المناقب باب ذکر اصهار النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہم ابو العاص بن الربیع میں بھی ہے اور بخاری کتاب النکاح باب ذب الرجل عن ابنته فی الغیرة والانصاف اور کتاب الطلاق باب الشقاق میں بھی آئی ہے۔

بخاری کتاب الانبیاء باب قول اللہ تعالیٰ - واتخذ اللہ ابراہیم خلیلاً کی آخری حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ و حسین رضی اللہ عنہ پر ان کلمات سے دم کرتے تھے اور فرماتے تھے تمہارے دادا ابراہیم رضی اللہ عنہ بھی ان ہی کلمات سے حضرت الخلق رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہ پر دم کرتے تھے۔ وہ کلمات یہ ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وھامة ومن کل عین لامة یہی روایت ترمذی ابواب الطب باب ما جاء فی الرقیۃ من العین میں بھی آئی ہے۔

اہل بیت کیلئے علیہ السلام کا لقب

اہل بیت کرام علیہم السلام کیلئے علیہ السلام کے الفاظ استعمال کرنے پر بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو انبیاء کرام علیہم السلام کیلئے مخصوص ہیں۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ بخاری کتاب المناقب باب مناقب علی رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کتاب المغازی باب شہود الملائکہ بدر میں زہری سے مروی حدیث میں حسین رضی اللہ عنہ ابن علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا، باب تسمیہ من سی من اہل بدر فی الجامع میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی روایت میں فاطمہ رضی اللہ عنہا (قصہ فدک میں)، باب ما اصاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الجراح یوم احد میں فاطمہ رضی اللہ عنہا، باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث میں فاطمہ رضی اللہ عنہا (دفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کتاب النکاح باب، تیزوج اکثر من اربع میں علی ابن الحسین رضی اللہ عنہ (امام ابن العابدین رضی اللہ عنہ) کتاب التفسیر، تفسیر سورہ زاریات میں علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ بخاری کے متن میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس آخری حوالہ کی شرح میں علامہ وحید الزماں رحمہ اللہ کہتے ہیں ”اس کو فریابی نے وصل کیا، صحیح بخاری کے اکثر نسخوں میں یہاں یوں ہے قال علی رضی اللہ عنہ،“

قسطانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا معنی تو صحیح ہے مگر صحابہ میں مساوات کرنا چاہئے، کیونکہ یہ تعظیم کا کلمہ ہے تو شیخین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کے زیادہ مستحق ہیں اور سلام مثل صلوٰۃ کے ہے۔ بالانفراد پیغمبروں کے اور کسی کے لئے اس کا استعمال نہ کیا جائے۔ مترجم (علامہ وحید الزماں) کہتا ہے کہ اس کلام پر کیا دلیل ہے، یہ صرف ایک اصطلاح ہے باندھی ہوئی بات ہے کہ پیغمبروں کو صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو رضی اللہ عنہم کہتے ہیں تو امام بخاری نے حضرت علی کو علیہ السلام کہہ کر اس اصطلاح کا رد کیا ہے۔ اب قسطانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ شیخین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کلمے کے زیادہ مستحق ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں مساوات لازم ہے، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ شیخین رحمۃ اللہ علیہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے امام بخاری نے کہاں منع کیا ہے۔ پھر یہ اعتراض فضول ہے۔ اور جب صحابہ میں مساوات لازم ہے تو قسطانی رحمۃ اللہ علیہ تفصیل شیخین رحمۃ اللہ علیہ کے کیوں قائل ہیں؟ میں کہتا ہوں علی رضی اللہ عنہ میں بہ نسبت دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایک اور خصوصیت ہے۔ وہ یہ کہ آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش یافتہ اور قدیم الاسلام اور خاص داماد تھے اور آپ کا شمار اہل بیت میں ہے اور اہل بیت علیہم السلام کے لئے بہت سے خاص کام کئے گئے ہیں اسی طرح یہ بھی ہے کہ اہل بیت کے اسماء کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، جیسے کہتے، امام حسین علیہ السلام، و امام جعفر صادق علیہ السلام علی آباءہ السلام اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔“

سجدہ لمبا کرنا

نسائی کتاب الافتاح باب هل يجوز ان تكون سجده اطول من سجده (کیا ایک سجدہ دوسرے سجدہ سے لمبا ہو سکتا ہے) میں حضرت شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عشاء کی نماز پڑھانے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ یا حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھے اور ان کو زمین پر بٹھا دیا، پھر نماز کی تکبیر کہی اور نماز شروع کی، نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سجدے میں دیر کی تو میں نے سر اٹھایا دیکھا تو بچہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے۔ میں پھر سجدے میں چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے نماز کے دوران ایک سجدے میں دیر کی حتیٰ کہ ہم سمجھے کہ یقیناً کوئی واقعہ ہو گیا ہے یا وحی آنے لگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہ تھی، میرا بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تھا تو مجھے برا لگا کہ جلدی اٹھ کھڑا ہوں اور ابھی اس کا جی نہ بھرا ہو۔

خطبہ جمعہ موقوف کر دینا

نسائی کتاب الجمعہ باب نزول الام عن المنبر قبل فراغة من الجمعہ و قطعہ کلامہ و رجوعہ الیہ یوم الجمعہ میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اتنے میں حسن رضی اللہ عنہ و حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، دونوں سرخ رنگ کے کرتے پہنے ہوئے تھے اور (چونکہ چھوٹے تھے گرتے پڑتے چلے آتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر منبر سے نیچے اتر آئے، ان دونوں کو گود میں اٹھالیا، پھر منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ بیچ فرماتا ہے کہ تمہارے مال اور اولاد آزمائش ہیں۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا کہ اپنے کرتے میں گرتے چلے آ رہے ہیں تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا یہاں تک کہ میں نے خطبہ موقوف کیا اور ان کو اٹھالیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ان کے ساتھ حسن و حسین رضی اللہ عنہما بھی تھے، دونوں کندھوں پر ایک ایک سوار تھا۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کا بوسہ لیتے اور کبھی دوسرے کا حتیٰ کہ ہمارے پاس پہنچ گئے، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ ان سے محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ (سلسلة الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 2895، مسند احمد ج: 2، 440 وفی الفضائل حدیث نمبر 1386، مستدرک حاکم ج: 3، ص 166، البزار (الکشف روایت نمبر 2627) حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے جو آدمی اہل بیت علیہم السلام سے بغض رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔

(سلسلة الاحادیث الصحیحة حدیث نمبر 2488، مستدرک حاکم جلد نمبر 3، 150، ابن حبان حدیث نمبر 12978 البزار (الكشف نمبر 3348 من طریق آخر عنه)

امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا کہ وہ شیعہ ہیں تو انہوں نے کہا کزج کے زمانہ میں مثنیٰ میں یہ اعلان کر دو کہ اگر اہل بیت کی محبت شیعہ ہے تو جن و انس گواہ رہو کہ میں رافضی ہوں۔ انکا شعر مندرجہ ذیل ہے۔

إِنْ كَانَ رَفِضًا حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ
فَلَيْشَهِدِ الثَّقَلَيْنِ أَنِّي رَافِضٌ

امام نسائی، امام حاکم، ابونعیم، ابن مندہ اور بہت سے محدثین اہل سنت کے بارے میں لوگوں کو یہی شک تھا کہ وہ رافضی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں اب کوئی توحید کا بیان کرتا ہے تو اس کو وہابی مشہور کر دیتے ہیں۔ بھی اگر توحید ماننے سے کوئی وہابی ہوتا ہے تو کہتے رہو! ایسا تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، امام شافعی کے شعر کی طرز پر مولانا ثناء اللہ امرتسری نے بھی شعر کہا تھا جو اس صورتحال کی نشاندہی کرتا ہے۔

إِنْ كَانَ تَرْحِيدُ إِبْرَاهِيمَ تُوهْبًا
فَلَيْشَهِدِ الثَّقَلَيْنِ أَنِّي وَاهِبِي

اگر اللہ کو ایک ماننے سے آدمی وہابی ہو جاتا ہے تو جن و انس گواہ رہو کہ میں وہابی ہوں۔

حسین علیہ السلام کے نام بھی بے مثال ہیں

سیدنا حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام کے خصوصی امتیازات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ نام ان سے پہلے کسی کے نہیں رکھے گئے۔ ایک سعودی عالم نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام

معجم اہل البیت النبوی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام پوشیدہ رکھے، کسی کے ذہن میں یہ نام رکھنے کا خیال نہیں آیا حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے بچوں کے یہ نام رکھے، اس کی مثال قرآن مجید میں بھی ملتی ہے کہ جب سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوش خبری دی گئی تو ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ اس سے پہلے یحییٰ کسی کا نام نہیں رکھا گیا۔

اس عالم نے مزید لکھا ہے کہ حسن اور حسین نام حاتم طائی کے قبیلہ بنی طے میں دو آدمیوں کے تھے مگر حسن اور حسین کسی کے نام نہیں رکھے گئے۔ لفظ حسن کا معنی ہے ”ایسا خوبصورت جس کے حسن میں کبھی کمی نہ آئے، اور حسین چھوٹے حسن کو کہتے ہیں، یہ حسن سے اسم تصغیر ہے۔

یہی بات امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے بھی بیان کی گئی ہے۔ اس روایت کو مفضل نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نام پوشیدہ رکھے اور کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آنے دی کہ وہ اپنے بچوں کے یہ نام رکھے حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے بچوں کے رکھے۔ حضور ﷺ ان دونوں بھائیوں کو اپنے بیٹے فرماتے تھے مگر باہمی نہیں مانتے۔ یہ جس کے بیٹوں کو ماننا چاہتے ہیں مانیں، مگر حضور ﷺ کے منبر پر بیٹھ کر ان کی اولاد کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اگر حضور ﷺ کی اولاد کے دشمنوں کا کوئی منبر ہے تو وہاں چلے جائیں مگر منبر نبوی پر بیٹھ کر ان کی اولاد کے خلاف اور ان کے دشمنوں کی تعریف میں تقریریں نہ کریں۔

اہل بیت علیہم السلام سے نیک سلوک کرنے کی وصیت نبویؐ

مسلم کتاب الفضائل باب من فضائل علی علیہ السلام بن ابی طالب میں یزید بن حیان سے روایت ہے کہ میں اور حصین بن سبرہ اور عمر بن مسلم زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جب ہم ان کے پاس بیٹھے تو حصین نے کہا اے زید! تم نے تو خیر کثیر حاصل کی، تم نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا، آپ ﷺ سے حدیث سنی، آپ ﷺ کے ساتھ جہاد کیا، آپ ﷺ

کے پیچھے نماز پڑھی، تم نے بہت ثواب کمایا، ہمیں کوئی حدیث بیان کرو جو تم نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہو۔ زید رضی اللہ عنہ نے کہا اے میرے بھتیجے! میری عمر زیادہ ہو گئی اور مدت گزر گئی اور رسول اللہ ﷺ کی بعض باتیں جو میں یاد رکھتا تھا، بھول گئیں، تو جو میں بیان کروں اس کو قبول کرو اور جو نہ بیان کروں اس کے لئے مجھے تکلیف نہ دو پھر زید رضی اللہ عنہ نے کہا ایک دن رسول اللہ ﷺ ایک مقام پر جہاں پانی تھا، جس کو (غیر) خم کہتے تھے، اور وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور وعظ و نصیحت کی پھر اس کے بعد فرمایا اے لوگو! یقیناً میں بشر ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا (موت کا فرشتہ) آئے اور میں (موت) قبول کروں۔ میں تم میں دو عظیم الشان چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب (قرآن) ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور مضبوطی سے اس پر کار بند رہو، غرض آپ نے ترغیب دلائی کتاب اللہ کی طرف، پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت رضی اللہ عنہم ہیں، اپنے اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں تم کو خدا کا خوف یاد دلانا ہوں، (یہ دو دفعہ فرمایا۔ حسین نے پوچھا آپ ﷺ کے اہل بیت علیہم السلام کون ہیں، کیا آپ ﷺ کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا آپ ﷺ کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ لیکن اہل بیت وہ ہیں جن کو بعد میں صدقہ (خسرت) سے محروم کر دیا گیا، حسین نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا وہ علی رضی اللہ عنہ، عقیل رضی اللہ عنہ، جعفر رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں، پوچھا کیا یہ لوگ ہیں صدقہ سے محروم کر دیئے گئے کہا ہاں، اہل بیت سے حضور علیہم السلام نے نیک سلوک کرنے کی جتنی تاکید فرمائی اتنا ہی لوگوں نے اس کے الٹ عمل کیا۔

صدقہ سے مراد ٹرسٹ ہے جو رسول کریم ﷺ نے اپنی جائیداد واقع مدینہ، فک اور خیبر پر مشتمل قائم فرمایا تھا اور خود ہی اس ٹرسٹ کے نگران تھے ان کے علاوہ سات باغ مدینہ میں اور تھے جن کی نگرانی حیات نبوی میں ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سپرد تھی اور بعد میں بھی وہ انہی کے زیر انتظام رہے ان سات باغوں کے نام یہ ہیں الدلال، العفاف، الحسنی، الصافیہ، ملام ابراہیم، المیت، البرقہ (فروع کافی کتاب الوصایا باب صدقات النبی علیہ السلام و فاطمہ رضی اللہ عنہا و آئمہ رضی اللہ عنہم و وصایاہم)۔ ان باغوں کے علاوہ باقی جائیداد جو وقف تھی کے انتظام کو بھی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے سپرد کرنے کا مطالبہ کیا تھا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نہ مانا۔ جو جواب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیا تھا بعینہ وہی جواب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بعد میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مطالبہ پر ان کو دیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تائید میں گواہی دی تھی۔ تفصیل کے لئے مرآۃ العقول شرح الکافی از علامہ باقر مجلسی مندرجہ بالا باب فروع کافی میں ملاحظہ فرمائیں۔

کر بلا کی کہانی امام باقر علیہ السلام کی زبانی۔ ایک افسانہ

لاہور کے مشہور اہل حدیث عالم عطاء اللہ حنیف نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ”کر بلا کی کہانی ابو جعفر امام باقر علیہ السلام کی زبانی“ اس افسانے کی تہمت امام حسین علیہ السلام کے پوتے پر لگائی گئی ہے کہ یہ قصہ انہوں نے سنایا۔ جب اس قصہ کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو لوگوں نے بہت روکا مگر وہ باز نہ آئے۔ راستے میں جب ان کو مسلم بن عقیل کے قتل کی اطلاع ملی تو انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا مگر چچا زاد بھائیوں نے ضد کی کہ ہم تو بدلہ لیں گے۔ اس پر امام علیہ السلام مجبور ہو گئے اور کہا تمہارے بغیر تو

زندگی کا کوئی مزہ نہیں، ان کی ضد کی وجہ سے آگے چلنا پڑا۔ جب آگے گونج
نظر آئی تو تین شرطیں پیش کر دیں کہ

1- مجھے یزید کے پاس لے جاؤ تا کہ میں اس کی بیعت کر لوں۔

2- یا مجھے مدینہ واپس جانے دو۔

3- یا اسلامی سرحد کی طرف جانے دو تا کہ میں کفار سے جہاد کروں۔

عام آدمی تو کیا اچھا بھلا پڑھا لکھا شخص بھی جب یہ باتیں پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس جہاد کی کچھ بھی حقیقت نہیں۔ (معاذ اللہ) نادانی کی وجہ سے مار کھا گئے ورنہ اس رویے کا نہ جہاد سے تعلق ہے نہ یہ شہادت ہے۔ امام علیؑ تو جان بچانا چاہتے تھے۔ تاریخ امام علیؑ پر زیادہ سے زیادہ یہ مہربانی کرتی ہے کہ کوفہ کے چند دھوکہ باز لوگوں نے امام کو خطوط لکھے اور امام علیؑ ان کے درغلانے میں آ گئے۔ بعد میں جب کوفہ والوں کی مکاری کا راز کھلا تھا پھر آپ پچھتاتے رہے مگر نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا۔

حافظ صلاح الدین یوسف نے اپنی کتاب ”رسومات محرم اور سانحہ کربلاء میں یہی نتیجہ نکالا کہ امام علیؑ اپنے ناجائز غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے قتل ہوئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ میں تو لوالہ رسول ﷺ ہوں لہذا دوسروں سے بہتر ہوں۔ یہ نسلی غرور ان کو لے ڈوبا۔ یہ کتاب ہر اہل حدیث کے پاس ہے اور طوطے کی طرح اس کو رنٹے رہتے ہیں۔ کسی کو تو فتنی نہیں ہوتی کہ تحقیق کر لے کہ یہ باتیں صحیح ہیں یا غلط!

اس کتاب میں دوسرا نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ امام علیؑ کے (معاذ اللہ) نسلی غرور کے ساتھ ساتھ بے وقوفی ابن زیاد نے کی۔ اس نے ضد کی کہ پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کریں پھر یزید کے پاس بھیجا جائے گا۔ امام علیؑ نے انکار کیا تو ابن زیاد نے کہا چونکہ میں آئینی گورنر ہوں لہذا پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ امام نے انکار کیا اور ناجائز بات کہی کہ میں تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔

اس طرح ان لوگوں نے حضرت امام سید الشہداء کو معاذ اللہ ایک احمق، ضدی اور مغرور آدمی ثابت کیا ہے جو خواہ مخواہ اپنی جان گنوا بیٹھا۔ اس کتاب میں مزید گہرا افشاں یہ

بھی کی گئی ہے کہ یزید کو بیعت کا مطالبہ کرنے کا حق کیوں نہیں تھا؟ جب دو آدمیوں کے سوا یعنی ابن زبیرؓ اور امام حسینؑ کے سوا ساری سلطنت نے بیعت کر لی تھی تو یزید کیوں بیعت کا مطالبہ نہ کرتا؟ اس طرح امام علیؑ کو معاذ اللہ جھوٹا بھی ثابت کرنے کی کوشش کی۔

اصل حقیقت!

کربلا کی کہانی، ابو جعفر محمد باقر علیؑ کی زبانی نامی قصہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اس کے راویوں میں سے زکریا بن یحییٰ مجھول راوی ہے جیسا کہ یحییٰ بن معین کہتے ہیں۔ امام ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں، تاریخ الامم والملوک ابن جریر طبری جلد نمبر 4، ص 257 سے نقل کیا ہے، اس کی پوری سند طبری میں ہے۔

یہ کہانی خالد بن عبداللہ القسری نامی گورنر مکہ نے گھڑی ہے۔ وہ بنو امیہ کی طرف سے حجاج بن یوسف کا مقرر کردہ گورنر تھا، اور ہر جمعہ کے روز منبر پر حضرت علیؑ پر لعنت کیا کرتا تھا۔ (تہذیب التہذیب ج 3: ص 102) یہ بہت گندہ اور برا آدمی تھا۔

مکہ کے گورنروں کے حالات پر ایک کتاب غایۃ المرام لکھی گئی ہے، اس میں اس کے حالات پڑھیں۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ خالد بن عبداللہ القسری ناہمی تھا۔ (میزان الاعتدال ج 1: ص 633 نمبر 2436)

اس خالد بن عبداللہ القسری کے علاوہ دنیا میں کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ امام یزید کی بیعت پر تیار ہو گئے تھے۔

اس خالد کو بعد میں بنو امیہ نے ہی برطرف کر دیا، کوڑے لگائے۔ یہ بہت برے حالات میں مرا اور اس کا انجام بہت برا ہوا۔

امام حسینؑ پر ان تین شرطوں کی پیش کش کا الزام، اس جھوٹ کے گھڑنے والوں کے گلے پڑ گیا، اہل بیتؑ کے مخالفین کا اس دور میں امام، محمد الحضری یک تھا، اس نے اس دور میں ناہمیت پھیلائی، اس نے تاریخ پر ایک کتاب لکھی جس کا نام محاضرات الامم الاسلامیہ ہے، اس نے

جب یہ بات لکھی کہ امام نے یزید کے پاس جانے کی پیش کش کی تھی تو پھر لے جانا چاہئے تھا تا کہ جھگڑا ختم ہو جاتا، یہی بات مولانا محمد منظور نعمانی کے بیٹے عتیق الرحمن سنہلی نے لکھی، انہوں نے لکھا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب یہ پیش کش امام حسینؑ نے کر دی تھی ابن زیاد کیوں نہیں مانا، انہوں نے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا۔ مگر محمد انصاری بک نے دیکھا کہ تقدیر کا بہانہ بنا کر ابن زیاد کی جان نہیں چھوٹی لہذا اس نے لکھ دیا کہ یہ کہانی ہی بالکل جھوٹی ہے، حضرت امام حسینؑ نے ایسی کوئی پیش کش نہیں کی تھی، اس طرح ناصبیوں کا امام ہی مکر گیا کیونکہ یہ بہانہ بنانے سے مقدمہ خراب ہو جاتا ہے۔

محمد انصاری بک اپنی کتاب میں لکھتا ہے۔

”یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آپ نے یزیدی لشکر کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ وہ بیعت کے لئے یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کے لئے تیار ہیں، مگر ان لوگوں نے آپ کی پیش کش قبول نہ کی اور آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ابن زیاد کے فیصلہ پر سر تسلیم خم کریں۔“ (حاضرات الامام الاسلامیہ ج: 2 ص: 128)

عقبہ بن سمعان حضرت حسینؑ کی زوجہ محترمہ رباب کے غلام تھے اور عمر بن سعد نے ان کو غلام ہونے کے باعث زندہ چھوڑ دیا تھا۔ ان کی صاف تصریح کتب تاریخ میں مذکور ہے کہ جو حافظہ عز الدین ابن الاثیر جزی نے تاریخ الکامل میں لکھ دی ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

”اور بلاشبہ عقبہ بن سمعان سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان کیا میں حضرت حسینؑ کے ساتھ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے عراق تک ساتھ رہا اور ان کی شہادت تک ان سے کہیں جدا نہ ہوا۔ میں نے یوم شہادت تک ان کی تمام گفتگو سنی ہے جو آپ نے لوگوں سے فرمائی ہیں۔ سوال اللہ کی قسم! یہ بات

آپ نے لوگوں کے سامنے کبھی رکھی ہی نہیں جس کا لوگ ذکر کرتے ہیں کہ وہ یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں گے اور اس سے بیعت کر لیں گے۔ (اکامل ابن اثیر جلد نمبر 4 ص: 22، 33)

لہذا یہ دعویٰ نہ روایت کے اعتبار سے نہ درایت کے اعتبار سے صحیح کہ حضرت حسینؑ آخروقت میں یزید کی بیعت پر راضی ہو گئے تھے۔

حضرت امام حسینؑ کی مدینہ سے مکہ روانگی

امیر معاویہ کی وفات کے بعد گورنر مدینہ کو یزید نے جو پہلا خط لکھا وہ یہ تھا کہ حسینؑ اور عبداللہ بن زبیرؓ کو بلا کر میری بیعت لو اور ذرا نرمی نہ کرنا۔ ان دونوں کو ولید گورنر مدینہ نے بلایا، وہ دونوں وہاں گئے اور بیعت یزید کے مطالبہ پر بڑی حکمت سے جان چھڑا کر گورنر ہاؤس سے نکل آئے وہ راتوں رات مکہ روانہ ہو گئے۔ مروان لعنتی پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ولید کو کہا ان دونوں سے بیعت لے لویا ابھی قتل کر دو، ان کو باہر مت جانے دو، یہ تیرے ہاتھ پھر کبھی نہ آئیں گے۔ ولید شریف آدمی نکلا اس نے کہا کیا میں ان کو صرف اس بات پر قتل کر دوں کہ یہ بیعت نہیں کرتے؟

امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ، ج: 8 ص: 159 پر لکھتے ہیں کہ یزید نے گورنر کو لکھا کہ ہر حال میں حسینؑ سے بیعت لو، مگر امام راتوں رات مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے۔

مروان نے اسی وقت یزید کو اطلاع بھیجوا دی کہ ولید بن عقبہ گورنر مدینہ نے نرمی دکھائی اور شکار ہاتھ سے نکل گیا۔ یزید نے ولید بن عقبہ کو جو اس کا چچا زاد بھائی تھا، فوراً معزول کر دیا، اور اس کی جگہ عمرو بن سعید اشدق کو مدینہ کا گورنر بنا دیا۔ اشدق اتنا بڑا ظالم تھا کہ امام ابن کثیرؒ لکھتے ہیں کہ اس کے مظالم سے اب تک اسلام کی آنکھیں رو رہی ہیں۔

(البدایہ والنہایہ، ج: 8 ص: 161-162)

امام حسینؑ مکہ تشریف لے گئے، وہاں بھی یزید نے انتظام کیا کہ

حضرت حسین علیہ السلام کو دوران طواف قتل کر دیا جائے۔ یہی طریقہ بعد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو قتل کرنے کے لئے حجاج بن یوسف نے اختیار کیا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما طواف کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے دوران طواف زہر آلود نیزہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاؤں پر مار کر زخمی کر دیا اسی زہر کے اثر سے بعد میں ابن عمر رضی اللہ عنہما فوت ہوئے دوران بیماری حجاج ان کی عیادت کو آیا اور پوچھا آپ کو نیزہ کس نے مارا، انہوں نے جواب دیا اس نے، جس نے حرم میں ہتھیار داخل کئے۔ کبھی حرم میں بھی ہتھیار آئے تھے؟ ظالم مجھے نیزہ مروا کہ اب پوچھ رہا ہے؟

(بخاری کتاب العیدین باب ما بکروہ من حمل السلاح فی العید والحرم ج: 2، ص: 57)

جفا کردی و خود کشتی بہ تیغ ظلم عاشق را

بہانہ میں برائے پریش بیمار ی آئی

مکہ سے کر بلا کو روانگی

مدعائے سلطنت بودے اگر

خود نہ کردے با چین سامان سفر

امام حسین علیہ السلام اپنے قتل کے منصوبہ کی اطلاع پا کر 8 ذوالحجہ کو اچانک احرام

کھول کر مکہ سے نکل کھڑے ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کا کہنا تھا کہ حد و حرم

سے باہر ایک قدم نکل کر مرنا اس سے بہتر ہے کہ میں حرم کی بے حرمتی کا

باعث بنوں۔ (مجمع الزوائد امام بیہقی ج: 9، ص: 195)

حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرزدق کے پوچھنے پر بتایا کہ اگر میں مکہ سے نہ

نکلتا تو قتل کر دیا جاتا۔ (الہدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 181)

اسی لئے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بار بار اصرار پر بھی ان کی بات نہ مانی۔

حضرت امام حسین علیہ السلام کو انہی دنوں یمن آنے کی دعوت بھی ملی تھی۔

حضرت طرمج بن عدی رضی اللہ عنہ بن حاتم طائی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کہا

آپ یمن تشریف لے آئیں وہاں قبیلہ بنی طے کے دس ہزار جاں نثار ہر وقت اپنی جانیں آپ پر نچھاور کرنے کے لئے تیار رہیں گے۔ وہاں پہاڑوں کے درمیان ایسی غاریں ہیں جہاں شامی لشکر قیامت تک آپ کے قریب نہیں آسکیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا ابن عدی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ تمہیں خیر خواہی کا بہترین اجر دے، میں نے جس راستے کا انتخاب کر لیا ہے، وہی تقدیر میں لکھا ہے۔

امام علیہ السلام نے اپنی روانگی کی اطلاع دینے کے لئے قیس ابن مسہر رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ کوتوال شہر حسین بن نمیر نے قیس کو گرفتار کر لیا اور محل کی چھت پر لے جا کر کہا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام و حسین علیہ السلام پر لعنت کرے۔ قیس نے جمع ہونے والے لوگوں سے کہا لوگو! امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دو، وہ اس وقت زمین پر سب سے افضل ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت علی علیہ السلام و حسین علیہ السلام پر سلام بھیجا اور ابن زیاد پر لعنت کی۔ ابن زیاد کے حکم پر حضرت قیس کا سر کاٹ کر زمین پر پھینک دیا گیا اور لاش کو روند ا گیا، حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان کی شہادت کی اطلاع راستے میں ہی مل گئی، آپ علیہ السلام نے اتانہ پڑھا اور یہ آیت پڑھی کہ کچھ لوگ اپنا وعدہ پورا کر گئے اور کچھ انتظار میں ہیں۔

(الہدایہ، ج: 8، ص: 188)

یزید نے مکہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے خفیہ قتل کا منصوبہ اس خیال سے بنایا تھا

کہ حسن رضی اللہ عنہ زہر سے فوت ہو چکے تو کیا بنا؟ اب حسین رضی اللہ عنہ کو خاموشی سے

قتل کرادو۔ سیدنا حسین علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا کہ پہلے بھائی کی گمنام موت کا

کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لہذا اب برسر میدان مردوں کی طرح جان دوں گا۔ سیدنا

امام علیہ السلام نے اس اقدام کے بارے میں یہ فیصلہ کئے۔

1۔ باطل کی حمایت کسی صورت نہیں کرنا اور حق کا ڈنکا بجانا ہے۔

2- چاہے جتنا بھی مشتعل کیا جائے، خون ریزی میں پہل نہ کرنا۔ (اس طرح یزید یوں پر جھٹ تمام کر دی)۔

3- جب لڑائی شروع ہو جائے تو شیروں کی طرح مقابلہ کرنا ہے۔

راستے میں جب امام علیؑ کو عرب کا مشہور شاعر فرزدق ملا جو اپنی ماں کے ساتھ حج کو آ رہا تھا۔ اس نے مسائل حج پوچھے۔ امام علیؑ نے اس سے کوفہ کا حال پوچھا تو اس نے کہا ان کے دل آپ کے ساتھ اور تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ (ابن کثیر ج: 8، ص: 181، طبری ج: 4، ص: 290)

راستے میں امام علیؑ کو مسلم بن عقیلؓ اور ہانی بن عروہؓ کے قتل کی اطلاع ملی۔ آپ علیؑ نے ساتھیوں سے کہا جو واپس جانا چاہتا ہے، چلا جائے۔ مگر انہوں نے کہا ہمارا جینا مرنا آپ علیؑ کے ساتھ ہے۔

(الہدایہ ج: 8، ص: 182، 183)

جو لوگ راستے میں ساتھ شامل ہو جاتے ان کو بھی واپس کر دیتے کہ ہمارا سفر موت کا سفر ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ (الہدایہ ج: 8، ص: 183)

مقامِ عذیب پر ذرا اٹکھ آگئی، خواب دیکھا اور بعد میں بار بار اٹکھ پڑھا۔ جینے نے پوچھا تو بتایا کہ خواب میں دیکھا ایک کہنے والا کہہ رہا تھا کہ یہ قافلہ موت کی طرف سفر کر رہا ہے۔ (الہدایہ ج: 8، ص: 189)

ادھر سے حرؓ بن یزید ریاحی ایک ہزار کا لشکر لے کر امام کے قافلہ کے پاس پہنچ گیا اور اس کو ابن زیاد نے خط لکھا کہ امام علیؑ کو چھٹیل میدان میں اتار دو جہاں پانی نہ ہو۔ (طبری ج: 4، ص: 311)

امام نے حر سے کہا اگر آدمی بہادری کے ساتھ مار جائے اور وہ حق پر ہو تو موت کوئی طعنہ کی بات نہیں۔ (الہدایہ ج: 8، ص: 187)

امام حسین علیؑ نے حر بن یزید ریاحی اور اس کے لشکر سے مقامِ بیضہ پر

خطاب فرمایا جس کو امام ابن جریر طبری نے تاریخ ج: 4، ص: 303 پر نقل کیا ہے۔ اس خطاب کو مولانا احمد رضا خاں بریلوی نے رسائلِ رضویہ ج:

نمبر 2، ص: 208، 209 پر لکھا ہے، مولانا لکھتے ہیں کہ جب حر بن یزید ریاحی اول ہزار سواروں کے ساتھ مزاحم ہوئے تو امام نے خطبہ فرمایا:

”اے لوگو میں تمہارا بلایا آیا ہوں، تمہارے اپنی اور خطوط آئے کہ تشریف

لائے، ہم بے امام ہیں، تو میں آیا ہوں، اب اگر تم اپنے عہد پر قائم ہو تو میں

تمہارے شہر میں جلوہ فرما ہوں اور اگر تم عہد پر نہ ہو یا میرا تشریف لانا تمہیں

نا پسند ہو، تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ وہ خاموش

رہے، پھر بعد نماز عصر خطبہ فرمایا اور اس کے آخر میں بھی وہی ارشاد کیا کہ اگر

تم ہمیں نا پسند رکھتے ہو تو واپس جاتا ہوں، خُرنے کہا ہمیں تو یہ حکم ہے کہ

آپ سے جدا نہ ہوں جب تک ابن زیاد کے پاس آپ کو کوفہ نہ پہنچا دیں۔

جب نینوا پہنچے تو حُمر کے نام ابن زیادِ خبیث کا خط آیا کہ حسین کو پڑ پٹ

میدان میں اترنے پر مجبور کر دو جہاں پانی نہ ہو اور یہ میرا اپنی تمہارے

ساتھ رہے گا کہ تم میرا حکم بجالاتے ہو یا نہیں، حُمر نے حضرت امام کو ناپاک

خط کا مضمون سنایا اور ایسی جگہ اترنے پر مجبور کیا۔ زہیر بن القینؓ نے

عرض کی اے ابنِ رسولؐ! آگے جو لشکر آنے والے ہیں وہ ان سے

بہت زائد ہیں۔ اذن دیجئے کہ ان سے لڑیں۔ فرمایا میں قتال میں پہل نہیں

کروں گا۔ جب خبیث ابنِ طیب یعنی عمر بن سعد اپنا لشکر لے کر پہنچا،

حضرت امام سے دریافت کیا کیسے آئے ہو؟ فرمایا تمہارے شہر والوں نے

بلایا تھا، اب کہ میں انہیں نا گوار ہوں تو واپس چلا جاتا ہوں۔ ابن سعد نے

یہ ارشاد ابن زیاد کو لکھا۔ اس خبیث نے نہ مانا، اللہ اس پر لعنت کرے۔ شب

کو ابن سعد سے خلوت میں گفتگو ہوئی۔ اس میں بھی حضرت امام نے فرمایا

مجھے چھوڑ دو کہ میں مدینہ طیبہ واپس چلا جاؤں۔ ابن سعد نے ابن زیاد کو لکھا اس بار وہ راضی ہوا تھا کہ شرمزد و دود غیبیٹ نے باز رکھا۔ عین معرکہ میں قتال سے پہلے فرمایا اے لوگو! جب کہ تم مجھے پسند نہیں کرتے تو چھوڑ دو کہ اپنی امن کی جگہ چلا جاؤں۔ اشقیاء نے نہ مانا۔ غرض جب سے برابر قصد امن تھا مگر ممکن نہ ہوا کہ منظور رب یونہی تھا۔ جنت آراستہ ہو چکی تھی، اپنے دولہا کا انتظار کر رہی تھی، وصال محو حقیقہ کی گھڑی آگئی تھی۔ تو ہرگز لڑائی میں امام کی طرف سے پہل نہ تھی ان خبیثوں ہی نے مجبور کیا۔ اب دو ہی صورتیں تھیں، یا بخوف جاں اس پلید کی وہ بیعت قبول نہ جاتی کہ بیزید کا حکم ماننا ہوگا اگرچہ خلاف قرآن و سنت ہو، یہ رخصت تھی، ثواب کچھ نہ تھا یا جان دے دی جاتی اور وہ ناپاک بیعت نہ کی جاتی، یہ عزیمت تھی اور اس پر ثواب عظیم اور یہی ان کی شان رفیع کے شایاں تھا اسی کو اختیار فرمایا۔

امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو! رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھتا ہو، جو اللہ کے عہد کو توڑتا ہو اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کے خلاف عمل پیرا ہو، جو رعایا کے ساتھ ظلم و جور سے پیش آتا ہو، اگر ان افعال کو دیکھنے والا شخص قولاً یا فعلاً اسے نہیں روکتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی اس ظالم کے اعمال میں شریک کرے گا۔ سنو ان حاکموں نے شیطان کی اطاعت قبول کر لی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ترک کر دی ہے۔ فساد کو فروغ، حدود شرع کو معطل، غنیمت کو ذاتی مال، اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام اور اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر رکھا ہے۔ ان پر اعتراض کرنے کا سب سے زیادہ حق مجھے ہے۔ تم لوگوں نے مجھے خط لکھے، تمہارے اچٹی میرے پاس تمہاری طرف سے اس بات کی بیعت کرنے آتے کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے مجھے دشمن کے حوالے نہ کرو گے، اگر تم اپنی بیعت کو پورا کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ میں حسین علیہ السلام ہوں، علی علیہ السلام کا بیٹا ہوں فاطمہ علیہ السلام بنت

رسول اللہ ﷺ کا فرزند ہوں، میری جان تمہاری جان کے ساتھ ہے، میرے اہل و عیال تمہارے اہل و عیال کے ساتھ ہیں، میں تمہارا پیشوا ہوں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور اپنا عہد توڑو گے تو تمہاری طرف سے یہ کوئی نئی بات نہیں، یہی سلوک تم نے میرے باپ اور بھائی کے ساتھ بھی کیا ہے۔ اللہ مجھے تم سے بے نیاز کر دے گا۔

ابن زیاد بد نہاد کا مطالبہ

امام ابن کثیر نے البدایہ میں ج: 8 ص 201 پر ابن زیاد کے حالات لکھتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ اس کی سرکشی یہ بھی ہے کہ اس نے حکم دیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو میرے روبرو پیش کرو، چاہے قتل کر کے پیش کرو۔ میں امام کے امان کا کوئی وعدہ نہیں کرتا، وہ آ کر غیر مشروط طور پر میرے پاس پیش ہوں، یہ میں بعد میں دیکھوں گا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی واپس جانے کی پیش کش ماننا فرض تھی، مگر شمر بن ذی الجوشن کے مشورہ پر انکار کر دیا اور جو شمر کہہ رہا تھا مان لیا۔ امام نے انکار کر دیا۔ ابن زیاد مردود اور نامراد ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ ابن رسول کے یہ شایاں نہیں تھا کہ وہ ابن مرجانہ غیبیٹ کے سامنے پیش ہوتے۔

امام نے ابن سعد کے قاصد کثیر بن عبد اللہ الشعمی، جو تہمی اور حبیب ابن مظاہر رضی اللہ عنہ کے خاندان کا بھانجا تھا، کو کہا اگر میرا آنا ناگوار ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں اس پر عمر بن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا۔ (طبری، ج: 4 ص 311) امام ابن جریر طبری رضی اللہ عنہ آگے لکھتے ہیں کہ ابن زیاد نے خط کے جواب میں لکھا کہ حسین علیہ السلام یا تو بیزید کی بیعت کریں یا خود کو میرے رحم و کرم پر چھوڑیں۔ (ابن زیاد نے پھر خط لکھا کہ امام علیہ السلام کا پانی بند کرو۔) (طبری، ج: 4 ص 311) امام نے عباس رضی اللہ عنہ اور زہیر بن قیس رضی اللہ عنہ کے ذریعہ ابن سعد سے پوچھا کہ میری تجویز کا کیا جواب آیا ہے؟ اس نے کہا میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو

ورنہ لڑائی کے لئے تیار ہو جاؤ۔ (طبری، ج: 4، ص: 315)

امام نے ایک رات کی مہلت طلب کی (طبری، ج: 4، ص: 316) امام علیہ السلام کو ایک رات کی زندگی سے کیا فائدہ تھا؟ دراصل امام مہلت لئے نہیں رہے تھے بلکہ مہلت دے رہے تھے کہ خوب سوچ لو، دوزخ جانا ہے یا جنت جانا ہے۔ اسی رات بہت سے خوش نصیب مخالف فوج سے نکل کر آپ کے ساتھ شامل ہو گئے۔

نماز عشاء کے بعد امام نے ساتھیوں سے خطاب فرمایا اور کہا تم واپس چلے جاؤ، یہ لوگ صرف میری جان لینا چاہتے ہیں۔

(طبری، ج: 4، ص: 317، البدایہ، ج: 191، 192)

اس پر مسلم بن عوسجہ اسدی سمیت تمام ساتھیوں نے باری باری وفاداری کا یقین دلایا اور کہا یہ تو ایک بار مرنا ہے، اگر بار بار بھی مرنا ہوتا تو بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑتے۔ امام نے ان کو دعا دی۔ (طبری، ج: 4، ص: 318)

خبیث ابن طیب، عمر ابن سعد

دومحرم 61ھ کو امام کا قافلہ کربلا میں پہنچا۔ اسی کے دوسرے دن عمر بن سعد چار ہزار سپاہ کے ساتھ کوفہ سے وہاں وارد ہوا۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحابی کا بیٹا تھا۔ وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ عمر بن سعد کے شر سے اس کے باپ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بھی پناہ مانگی تھی۔

مسلم کتاب الزہد کے شروع میں بارہویں روایت (ج: 6، ص: 482، 483)

میں عامر بن سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے اونٹوں میں تھے۔ اتنے میں ان کا بیٹا عمر آیا۔ جب سعد رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا کہا میں اس سوار کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر وہ اتر ااور بولا: ”تم اپنے اونٹوں اور بکریوں میں اترے ہو اور لوگوں کو چھوڑ دیا، وہ

سلطنت کیلئے جھگڑ رہے ہیں۔“ سعد رضی اللہ عنہ نے اس کے سینہ پر مارا اور کہا چپ رہ! میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ فرماتے تھے اللہ اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو پرہیزگار ہو، مال دار ہو اور فتنہ کے وقت ایک کونے میں چھپا بیٹھا ہو۔

یہ عمر بن سعد رے کی گورنری کا امیدوار تھا۔ ابن زیاد نے اسے ديلم پر لشکر کشی کا حکم دیا تھا۔ یہ فوج کے ساتھ کوفہ سے باہر مقیم تھا کہ انہی دنوں امام حسین علیہ السلام کا معاملہ پیش آ گیا۔ ابن زیاد نے سعد کو بلایا اور کہا پہلے یہ معاملہ نپٹاؤ، اسی شرط پر تمہیں رے کی گورنری ملے گی اور یہی تمہاری وفاداری کا امتحان ہے۔

عمر بن سعد نے ایک رات کی مہلت طلب کی اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ مشورہ کیا۔ تمام لوگوں نے اسے اس حرکت سے منع کیا۔ اس کے بھانجے حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ نے بھی کہا خدا کے واسطے امام حسین علیہ السلام کے مقابلہ سے باز رہو۔ اس میں اللہ کی معصیت بھی ہے اور قطع رحمی بھی، اس دنیا کے تمام مال و دولت سے محروم ہونا اور حکومت چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے سامنے حسین علیہ السلام کے قتل میں ملوث ہو کر جاؤ۔

(طبری، ج: 4، ص: 309، 310)

رات اسی کش مکش میں گزار کر صبح ابن زیاد کے پاس گیا کہ میری جگہ کسی اور کو بھیج دو کوفہ میں اتنے بہادر ہیں۔ ابن زیاد نے کہا میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، اگر تم نہیں جانا چاہتے تو سیدھی طرح بتاؤ۔ پھر یہ لشکر لے کر کوفہ سے کربلا پہنچ گیا۔

امام زین العابدین علی بن حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نومحرم کی شام میری پھوپھی زینب علیہا السلام میری تیمارداری کر رہی تھیں اور ابا جان اس مضمون کے

شعر بار بار پڑھ رہے تھے۔ ”اے دہرنا پائیدار تجھ پر افسوس۔ کیا برادر دوست ہے تو کہ صبح و شام کسی دوست یا دشمن کو مار دیتا ہے۔ ایک کے عوض دوسرے کو قبول نہیں کرتا۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جو زندہ ہے اسے اسی راستے سے واپس جانا ہے۔ (طبری، ج: 4، ص: 318، الہدایہ، ج: 8، ص: 192)

جب سیدہ زینب علیہا السلام نے یہ شعر سن کر بے قراری ظاہر کی تو فرمایا بہن! دیکھنا کہیں شیطان تیرے علم کو ضائع نہ کر دے۔ صبر کرو، زمین پر سب مرنے والے ہیں۔ اللہ کے سوا سب چیزیں مٹ جانے والی ہیں۔ میرے باپ اور بھائی مجھ سے بہتر تھے، میری ماں تجھ سے بہتر تھیں۔ مجھے اور سب مسلمانوں کو رسول اللہ ﷺ کے حال سے سکون حاصل کرنا چاہئے۔ میرے بعد میرے مشن کو تم نے مکمل کرنا ہے۔ کل کے بعد تم پر اس سخت مصائب آنے والے ہیں۔ ان بچوں کا اللہ کے بعد تم ہی واحد سہارا ہو۔

(طبری، ج: 4، ص: 319، الہدایہ، ج: 8، ص: 192، 193)

اس کے بعد سیدہ زینب علیہا السلام نے صبر و استقلال کا بے مثال مظاہرہ کیا اور کسی نے ان کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھے۔

اس رات حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھی رات بھر عبادت کرتے رہے۔ آپ کا ایک ساتھی روایت کرتا ہے کہ میں خیمے کے پاس سے گزرا تو آپ علیہ السلام سورہ آل عمران 179/3 تلاوت فرما رہے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے۔

”اور کافر لوگ یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو مہلت انہیں دے رہے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں بلکہ ہم ان کو مہلت اس لئے دے رہے ہیں کہ اور گناہ کر لیں، آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ جب تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، اللہ مومنوں کو اس حال میں نہ رہنے دے گا۔“

(الہدایہ، ج: 8، ص: 193)

دس محرم، سانحہ کربلا

سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جھنڈے پر یہ شعر درج تھا

وَأَنْ كَانَتْ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ انْثَنَتْ

فَقُتِلَ أَمْرِي فِي اللَّهِ أَوْلَى وَأَفْضَلُ

جب یہ جسم بنے ہی موت کے لئے ہیں تو پھر اللہ کی راہ میں موت بہتر اور افضل ہے۔ فارسی کا یہ شعر سیدنا امام حسین علیہ السلام پر بالکل صادق آتا ہے۔

شدیم خاک و لیکن زبوں تربت ما

تو اس شناخت کہ ازیں خاک مرد می خیزد

”ہم خاک ہو گئے لیکن ہماری قبر کی خوشبو سے تو پہچان لے گا کہ اس قبر سے

قیامت کے دن کوئی مرد اٹھے گا۔“

10 محرم 61ھ کو سیدنا حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز ادا

کی۔ اس کے بعد اپنی فوج کی صفیں درست کیں۔ آپ نے دائیں ہاتھ پر

(یمینہ) زہیر بن قیس، بائیں ہاتھ (میسرہ) پر حبیب ابن مظاہر کو مقرر

فرمایا، علم اپنے بھائی عباس بن علی علیہ السلام کو دیا۔ آپ نے اور آپ کے

ساتھیوں نے حنوط لگا لیا، وہ خوشبو جو میت کو لگاتے ہیں۔ سیدنا امام علیہ السلام نے

اپنے خیموں کی پشت پر آگ جلا دی تاکہ دشمن عقب سے حملہ آور نہ ہو

سکے۔ شہر ادھر سے گزرا تو کہنے لگا حسین علیہ السلام تم نے قیامت سے پہلے ہی

آگ میں جانے کی جلدی کی۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا او بکریاں چرا نے

والی کے بیٹے! آگ میں تو جلے گا۔ حضرت مسلم بن عوجہ نے عرض کی اے

ابن رسول! میں آپ پر فدا، کہیں تو میں اس کو تیرا ماروں، یہ میری زد میں

ہے۔ آپ نے کہا نہیں میں خونریزی کی ابتداء نہیں کروں گا۔

(الہدایہ والنبایہ، ص: 193، ج: 8، ص: 193)

شرکی پھوپھی ام البنین بنت حرام حضرت علی کے نکاح میں تھیں۔ ان کے بطن سے عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان پیدا ہوئے تھے۔ شمر نے ابن زیاد سے ان کے لئے امان حاصل کر لی تھی۔ اس نے فوجوں کے درمیان آ کر ان چاروں کو بلایا اور کہا کہ تم لوگوں کے لئے امان ہے۔ انہوں نے کہا تجھ پر بھی لعنت اور تیری امان پر بھی لعنت، تو ہم کو امن دیتا ہے اور ابن رسول ﷺ کی جان کے درپے ہے۔ (طبری ج: 4، 314)

امام حسین ﷺ فوجوں کے درمیان سوار ہو کر آئے اور بلند آواز میں فرمایا سنو! میرے ساتھ جنگ میں جلدی نہ کرو اور تم لوگوں کے پاس آنے کا عذر بیان کرنے دوں۔ اگر میری بات کو صحیح سمجھو گے تو نیکی حاصل کرو گے، میرے ساتھ انصاف کرو، یہ تمہارے لئے فلاح کا راستہ ہے۔ پھر آپ نے سورہ یونس: 71/10 اور سورہ اعراف: 96/7 تلاوت فرمائی۔ سورہ یونس کی آیت کا ترجمہ یہ ہے ”اور ان کو نوح ﷺ کا قصہ پڑھ کر سنا دو۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے قوم! اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور خدا کی آیات سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں خدا پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر جو کام میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو اور وہ تمہاری جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے۔ پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔“

سورہ اعراف کی آیت کا ترجمہ یہ ہے۔

”اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے۔ مگر انہوں نے تو تکذیب کی۔ سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔“

۱ کے بعد حمد و ثناء کی، درود پڑھا اور فرمایا کہ میرے خاندان کا خیال کرو

میں کون ہوں؟ پھر اپنے دل سے پوچھو کیا یہ قتل کرنا اور میری توہین کرنا تم لوگوں کے لئے جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی ﷺ کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے وحی اور ابن عم کا فرزند نہیں ہوں؟ جو کہ سب سے پہلے اپنے رب پر ایمان لائے اور نبی ﷺ کی تصدیق کی۔ کیا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ میرے باپ کے چچا نہیں؟ کیا جعفر طیار رضی اللہ عنہ میرے چچا نہیں؟ کیا تم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں ارشاد رسول ﷺ نہیں سنا کہ ہم دونوں جنت کے سردار ہیں۔ میں نے تم سے جو بھی کہا وہی حق بات ہے۔ اگر تم میری تصدیق کرو گے تو سن لو جب سے مجھے یہ علم ہوا ہے کہ اللہ جھوٹ بولنے والوں سے بے زار ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو تم میں ایسے موجود ہیں جو میری بات کی تصدیق کریں گے۔ تم میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، ساعدی، زید بن ارقم اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں یہی فرمایا ہے۔ کیا یہ امر بھی میرا خون بہانے سے تم لوگوں کو مانع نہیں؟

پھر آپ نے کہا اگر میری اس بات میں شک ہے تو اس بات میں تو شک نہیں کہ میں تمہارے نبی ﷺ کا نواسہ ہوں۔ اللہ کی قسم! مشرق و مغرب میں اور کوئی بھی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تم لوگ کیوں میری جان لینا چاہتے ہو..... کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے یا کسی کا مال لوٹا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے، جس کا قصاص تم مجھ سے لینا چاہتے ہو؟

پھر آپ نے ان لوگوں کا نام لے لے کر پکارا جنہوں نے آپ کو خط لکھے تھے اور فرمایا کیا تم نے نہیں لکھا تھا کہ میوے پک گئے، باغ سرسبز ہو گئے

ہیں، تالاب چھلک رہے ہیں، آپ کی مدد کیلئے لشکر یہاں تیار ہیں، آپ آئیے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم! تم لوگوں نے ہی خط لکھے تھے لوگو! اگر میرا آنا تمہیں ناگوار ہے تو میں کسی گوشامن کی طرف نکل جاتا ہوں۔

(طبری ج: 4، ص: 322-323، الہدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 193)

یزیدی فوج میں سے قیس ابن اشعث نے کہا تم اپنے قربت داروں کے آگے سرکیوں نہیں جھکا دیتے؟ آپ نے جواب دیا کہ آخر تو محمد ابن اشعث کا بھائی ہے۔ اب تو یہ چاہتا ہے کہ مسلم ابن عقیل ؓ کے خون سے بڑھ کر بنی ہاشم کو تجھ سے مطالبہ ہو؟ اللہ کی قسم، میں نہ تو ذلت سے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا اور نہ ہی غلاموں کی طرح اقرار کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔

”موسیٰ نے کہا میں ہر متکبر سے جو حساب کے دن یعنی قیامت پر ایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں۔“

(سورہ موسیٰ: 40، آیت: 27) (الہدایہ والنہایہ ابن کثیر، ج: 8، ص: 195)

راوی کہتا ہے کہ میں نے ایسی فصیح و بلیغ تقریر (پھر ایسے نازک حالات میں) اس سے پہلے سنی نہ اس کے بعد سنی۔“

جب ابن سعد حملے کے لئے آگے بڑھا تو حر ؓ نے پوچھا اللہ تیرا بھلا کرے، کیا تو ان سے لڑے گا؟ کیا تم اس کی بات نہ مانو گے؟ عمر بن سعد نے کہا اللہ کی قسم اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں ایسا ہی کرتا لیکن تیرا امیر (ابن زیاد) نہیں مانتا۔

(طبری ج: 4، ص: 325، الہدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 195)

یہ سن کر خرنے امام حسین ؓ کے لشکر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس کی برادری کا ایک آدمی مہاجر ابن اوس اسے دیکھ رہا تھا۔ ابن اوس نے کہا میں

نے تمہاری یہ حالت کبھی نہیں دیکھی۔ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ کون سا بے بہادر آدمی کونسا ہے تو میں تیرا ہی نام لوں گا۔ حرنے جواب دیا اپنے دل سے پوچھ رہا ہوں کہ دوزخ جانا چاہتا ہے یا جنت میں، یہ کہہ کر حرنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام حسین ؓ کے پاس پہنچ گیا۔

اس نے عرض کی اے ابن رسول! میری جان آپ پر فدا، میں ہی وہ شخص ہوں جس نے آپ کو اس جگہ ٹھہرنے پر مجبور کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم! میں نہیں سمجھتا تھا کہ حالات اس نہج پر پہنچ جائیں گے۔ اگر مجھے اس بات کا اندازہ ہوتا کہ یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو میں کبھی یہ کام نہ کرتا۔ مجھ سے جو قصور ہوا، میں اپنے رب سے معافی مانگنے اور اپنی جان آپ پر قربان کرنے آیا ہوں۔ یہ فرمائیے میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا: ہاں اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول کر کے تجھے بخش دے گا۔ امام نے پوچھا، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا تھا؟ اس نے کہا حرا! فرمایا جا تو دوزخ کی آگ سے آزاد ہو گیا، اب گھوڑے سے اتر آ۔ حرنے عرض کی اب مجھے اجازت عطا فرمائیں، اب گھوڑے پر رہنا اترنے سے بہتر ہے۔ میں ان لوگوں سے لڑوں گا اور موت کے بعد ہی گھوڑے سے اتروں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا اللہ تم پر رحم کرے۔

اس کے بعد حرا اپنے ساتھیوں کی طرف مڑا اور کہنے لگا۔

”لوگو! حسین ؓ نے جو باتیں تمہیں پیش کیں وہ تم نہیں مانتے، خدا تم کو ان سے جنگ میں مبتلا ہونے سے بچائے۔ اللہ تمہیں ہلاک کرے، تم نے انہیں بلایا۔ جب وہ چلے آئے تو انہیں دشمن کے حوالے کر دیا۔ تم کہتے تھے کہ ہم ان پر جاں نثار کر دیں گے۔ اب انہی کی جان لینے پر تلے ہوئے ہو؟ انہیں اللہ کی بنائی وسیع زمین میں کسی طرف جانے نہیں دیا تا کہ وہ اپنے اہل

بیت کے ساتھ امن سے رہیں۔ تم نے ان کے اہل خانہ، بچوں اور ساتھیوں کو فرات کا پانی پینے سے روکا، جسے یہودی، مجوسی اور عیسائی پیتے ہیں۔ پیاس کی شدت سے بچے ہلک رہے ہیں۔ اگر تم اپنے ارادے سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی محشر میں سیراب نہ کرے۔

(الہدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 196)

خروہاں سے پلٹ کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے آکھڑے ہوئے۔

عروس دھر سنا ہے کہ چند دیوانے
لبو کے عطر سے گیسو ترے سنوار آئے

اس سے پہلے عمر بن سعد جنگ میں ٹال مٹول کر چکا تھا۔ پھر شمر لعین ابن زیاد کا سخت پیغام لیکر آیا اور ارادہ پوچھا۔ عمر بن سعد نے پیغام سن کر کہا لشکر تجھے نہیں ملے گا، یہ کام میں خود کروں گا۔ (طبری، ج: 4، ص: 314، 315)

لشکر کو دیکھ کر حضرت زینب علیہا السلام امام کے پاس تشریف لائیں تو اس وقت امام تلوار کے دستے پر سر کی ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ حضرت زینب علیہا السلام نے لشکر کی طرف توجہ دلائی تو امام علیہ السلام نے اپنا خواب سنایا کہ خواب میں حضور ﷺ نے فرمایا تھا، حسین علیہ السلام اب ہمارے پاس آ جاؤ۔

(طبری، ج: 4، ص: 315، الہدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 197)

حر بن یزید ریاحی رحمہ اللہ کی تقریر کے بعد عمر بن سعد نے اپنی کمان میں تیر چوڑا اور لشکر سے کہنے لگا کہ تم سب ابن زیاد کے سامنے میری گواہی دینا کہ سب سے پہلا تیر میں نے مارا ہے۔ (الہدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 197)

جنگ سے پہلے امام کے ساتھیوں اور اہل بیت علیہم السلام میں اس بات پر بحث ہوئی کہ پہلے ہم جانیں دیں گے۔ جنگ شروع ہوئی تو امام کے ساتھیوں نے بہادری کے بے مثال مظاہرے کئے۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے سب سے پہلے مسلم بن عوجہ شہید ہوئے۔

جب وہ زخمی ہو کر گرے تو امام کی طرف ہاتھ اٹھا کر ساتھیوں سے کہا میں تمہیں امام کی مدد کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ حبیب بن مظاہر رحمہ اللہ نے کہا واللہ ہم ایسا ہی کریں گے۔

(طبری، ج: 4، ص: 331)

سیدنا امام حسین علیہ السلام کے مؤذن حضرت ابو ثمامہ عمرو بن عبد اللہ الصامدی رحمہ اللہ تھے۔ (طبری، ج: 4، ص: 334)

جب ظہر کی نماز کا اوّل وقت شروع ہوا تو ابو ثمامہ نے عرض کی ”ابو عبد اللہ میری جان آپ پر فدا، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نماز کے بعد میں حق تعالیٰ سے ملاقات کروں گا۔ آپ نے سراٹھا کر دیکھا اور فرمایا اللہ تجھے سچے نمازیوں اور اہل ذکر میں شمار کرے کہ تم نے نماز یاد دلائی۔ ہاں یہ نماز کا اوّل وقت ہے۔ ان لوگوں سے پوچھ ہمیں اتنی مہلت دیں تاکہ ہم نماز پڑھ لیں۔ مگر وہ لوگ جنگ سے باز نہ آئے۔ ابو ثمامہ رحمہ اللہ نے اذان دی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے صلوٰۃ الخوف ادا فرمائی۔ چند ساتھی آپ کے سامنے پہرہ دے رہے تھے۔ دشمن آپ علیہ السلام کے بہت قریب پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر سعید بن عبد اللہ رحمہ اللہ آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آپ کو بچاتے ہوئے بے شمار تیروں کا نشانہ بن کر گر گئے، اور شہید ہو گئے۔

(طبری، ج: 4، ص: 336)

امام نے ایسے حالات میں بھی نماز نہ چھوڑی۔ اہل بیت میں سے سب سے اوّل علی اکبر علیہ السلام بن امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے۔ انہیں مڑہ نے برچھی مار کر گرا دیا۔ دشمنوں نے آپ کو گرنے کے بعد تلواریں مار مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اسی طرح حضرت امام کے بھائی بختیہ، بھانجے شہید ہوتے رہے اور امام ان کی لاشیں اٹھاتے رہے۔

امام حسین علیہ السلام پر جو بھی حملہ آور ہوتا وہ قریب پہنچ کر واپس چلا جاتا۔ ہر شخص آپ کو قتل کرنے اور اس گناہ کو سر لینے سے گریز کرتا تھا۔ آخر مالک بن نیر کندی نے آپ کے

سر پر تلوار ماری۔ خون سے آپ ﷺ کی ٹوپی لبریز ہو گئی۔ آپ تھکن اور زخموں کی شدت سے نڈھال ہو کر اپنے خیمے کے سامنے گر گئے۔ کسی نے پچھلا کر آپ کی گود میں بٹھا دیا۔ یہ بچہ عبداللہ بن حسین ﷺ تھا جس کو عام طور پر علی اصغر ﷺ کہتے ہیں۔ بچے کی عمر اس وقت 6 ماہ تھی۔ حملہ نے تیر مارا جو بچے کے حلق پر لگا۔ خون کا فوارہ چھوٹا۔ امام نے دونوں ہاتھوں میں خون بھر کر اچھالا اور کہا اے اللہ! اگر تو اس بات پر راضی ہے کہ اپنے نبی ﷺ کے بچوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھے تو میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ آپ زخموں سے نڈھال ہو چکے تھے۔ پیاس کی شدت نے آپ کا برا حال کر دیا تھا۔ لیکن اس حالت میں بھی

آپ ﷺ میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ (اختصار از طبری، ج: 4، ص: 337-345)

ہاں وہ حسین جس کا صبر آزما ثبات
کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات
یعنی درون پردہ صد رنگ کائنات
اک کار ساز ذہن ہے اک ذی شعور ذات
مجدوں سے کھینچتا ہے جو مہبود کی طرف
تہا جو اک اشارہ ہے مہبود کی طرف
(جوش ملیح آبادی)

سیدنا امام حسین ﷺ کو بڑی فوج کے ایک سپاہی عبداللہ نے یوں خراج تحسین پیش کیا۔ ”واللہ میں نے کسی بے کس اور بے بس کو، جس کی اولاد و انصار قتل ہو چکے ہوں، اتنے ہوش و حواس سے انتہائی استقامت، جرات اور دلیری سے لڑتے نہیں دیکھا۔ میں نے ان کی مثل نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں، ان کے دائیں بائیں سے حملہ آور اس طرح بھاگ رہے تھے جیسے شیر سے ڈر کر بکریاں بھاگتی ہیں۔“ (الہدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 204)

ہر شخص امام حسین ﷺ کے قتل سے بچنا چاہتا تھا۔ آخر شمر لعین نے لاکار، تمہاری مائیں تمہیں روئیں، اب کس بات کا انتظار ہے، انہیں قتل کر دو۔ پھر ہر طرف سے حملہ شروع

ہوا۔ پہلے تیر مارے۔ پھر زرعہ بن شریک نے امام ﷺ کے بائیں کندھے پر تلوار ماری۔ سنان نے نیزہ مارا، آپ ﷺ گر پڑے۔ سنان بن انس غنی لعنہ اللہ علیہ نے آپ ﷺ کو زخ کر کے سر کاٹ لیا۔ (طبری، ج: 4، ص: 346)

یہ اس شخص سے سلوک تھا جس کے بارے میں عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا تھا اس وقت روئے زمین پر حسین ﷺ سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہیں۔ (مجمع الزوائد، ج: 9، ص: 179)
ابن اثیر رحمہ اللہ اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ، ج: 2، ص: 21 پر لکھتے ہیں کہ جب حسین ﷺ کو قتل کر دیا گیا تو عمر بن سعد نے ایک گروہ کو حکم دیا کہ امام کے بدن کو گھوڑوں پر سوار ہو کر روند دو۔ چنانچہ وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور امام کے بدن پاک کو روندنا۔

گرچہ ہر مرگ است بر مومن شکر
مرگ پور مرتضیٰ چیزے دگر

ابن اثیر اسد الغابہ فی معرفۃ صحابہ، ج: 2، ص: 205 پر لکھتے ہیں کہ جب حسین ﷺ کو قتل کر دیا گیا تو عمر بن سعد نے ایک گروہ کو حکم دیا کہ امام کے بدن کو گھوڑوں پر سوار ہو کر روند دو چنانچہ وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور امام کے بدن پاک کو روندنا

الہدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 205 پر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ دس سواروں نے آپ کی لاش کو پامال کیا۔ یہی طبری ج: 4، ص: 347 پر اور شہادت حسین ص: 62 پر ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔

آپ کی شہادت کے بعد قاتلوں نے آپ کا لباس اتار لیا، خیموں کو لوٹ لیا۔ عورتوں کے سروں سے چادریں تک اتار لیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے چھ بھائی، دو بیٹے اور تین بھتیجے شہید ہوئے۔ (الہدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 205-204، طبری، ج: 4، ص: 347)

ظلم سبے جو کہے نہیں جا سکدے
اے پر صبر دے بنے دکھا دتے

کربل وچ حسینؑ نے خون دے کے
ذڑے ریت دے تارے بنا دتے

امام کے بدن مبارک کو پامال کرنے کے بعد عورتوں اور بچوں کو قید کر کے شہداء کی لاشوں کے پاس سے گزرا گیا۔ اس وقت سیدہ زینبؓ نے مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا، یا رسول اللہ ﷺ دیکھیں! گرم ریت پر کس طرح آپ ﷺ کا بیٹا بے لباس پڑا ہوا ہے۔ وہ اور ان کے ساتھی بے سرو بدن کے پڑے ہیں۔ ہوا کے ساتھ زینت اڑ کر ان کے بدن پر پڑ رہی ہے اور وہ ہی ان کا کفن ہے۔

اس وقت دشمن کی فوج میں کوئی ایک شخص بھی نہ رہا جو نہ رویا ہو۔

چھ ماہ کا معصوم بیٹا مقتول علی اصغر علیہ علی آباء السلام جس کا ننھا جسم گرم ریت پر بے کفن پڑا ہوا ہے اور بے بس قیدی ماں پاس سے اونٹ پر بندھی ہوئی گزر رہی ہے۔

اے اسلام کے دعویٰ دارو!

پوتا علیؑ کا تم سے طلب گار آب ہے
دے دو کہ اس میں ناموری ہے، ثواب ہے
(میراثیں)

جے کرمن دے بیت رسولی تے پانی بند کیوں کر دے ہو
جے کر لحاظ سرور را کر دے تے خیمے تنو کیوں سڑ دے ہو
پانی پین فرات دا سور کتے
کھڑیاں پییاں رہن ترہائیاں نہیں

یزیدی فوج نے اپنے سب مقتول خبیثوں کا جنازہ پڑھا اور دفن کیا۔ مگر اہل بیت کرام اور ان کے ساتھی شہیدوں کی لاشیں وہیں پڑی رہنے دیں۔ نہ جنازہ پڑھا نہ دفن کیا۔ عراق کے سابقہ وزیر، ہبہ الدین اسینیؒ نے بالکل صحیح لکھا کہ امام اور ان کے ساتھیوں کو اس بات کی حاجت ہی نہیں تھی کہ یزیدی ملعون ان کا جنازہ پڑھتے۔ ان پر تو اللہ کے فرشتے درود و سلام پڑھ رہے تھے۔

حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے بھائی مصعب بن زبیرؓ کی اہلیہ سکینہ بنت حسینؓ تھیں۔ جب مصعب، عبدالملک کے خلاف جنگ کے لیے جانے لگے تو ناموافق حالات کے پیش نظر سکینہؓ نے انہیں روکا۔ مصعب نے کہا سکینہ! تیرے باپ حسینؓ نے کسی حلال زادے کے لیے کوئی بہانہ نہیں چھوڑا۔ (الہدایہ و النہایہ، ج: 8، ص: 338)

اکثریت پر نہیں حق اور صداقت کا مدار
دے کے سر سمجھا گئے ہم کو حسین ابن علیؑ

عمر بن سعد محمد شین کی نظر میں

کیا کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جو عمر بن سعد کو برا نہ جانے؟ میزان الاعتدال میں امام ذہبی لکھتے ہیں کہ امام حسینؓ سے جنگ عمر بن سعد نے اس لیے کی تاکہ سرداری مل سکے اور بہت سے ایسے کثوت کئے جو نہ کرنے والے تھے۔ شعبہ نے ابی الحنفی سے اور اس نے عیزار بن حریش سے اور روایت کیا کہ ایک دن عیزار بن حریش نے کہا عمر بن سعد یہ روایت کرتا ہے تو اسی وقت ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور کہا اے عیزار! تجھے خدا کا خوف نہیں کہ تو عمر بن سعد سے روایت کرتا ہے؟ عیزار بن حریش رو پڑے اور کہا آج کے بعد اس سے روایت نہیں کروں گا۔

احمد بن زہیر بیان کرتے ہیں کہ امام یحییٰ ابن معینؒ سے کہا گیا کہ عمر بن سعد ہے تو ثقہ امام نے فرمایا حسینؓ کو قتل کرنے والا ثقہ کیسے ہو سکتا ہے۔

مولانا امیر علی لکھتے ہیں کہ یہ جو اجلی تابعی نے کہا کہ عمر بن سعد ثقہ ہے تو اس بات سے میرے روٹ گئے کھڑے ہو گئے۔ رب کی قسم! اجلی تابعی کی بات کی طرف کان تک نہ دھریں گے نہ اسے قبول کریں گے۔ صرف ایک عذر کی وجہ سے احمری کو معافی دے سکتے ہیں کہ روایت کرتے وقت عمر بن سعد کا جھوٹ اس کے سامنے نہ آیا ہو۔ یہ تاویل ہو سکتا ہے اجلی تابعی کے ذہن میں ہو اور یہ جو تاویل ہے، یہ صرف ظن ہے۔ اندازہ، جبکہ دوسری طرف عمر بن سعد کا عظیم فتنہ علانیہ ظاہر ہے

تو اس کے مقابلے میں ظن ہے، اندازہ ہے، جبکہ دوسری طرف عمر بن سعد کا عظیم فسق علانیہ ظاہر ہے تو اس کے مقابلے میں ظن اور اندازہ کہاں باقی رہ گیا؟ اگر کوئی کہے کہ اس نے حاکم کی بات مانی تو یہ تاویل باطل ہے کیونکہ لا طاعة للمخلوق فی معصیۃ الخالق، اور گناہ بھی کیا؟ قتل حسین علیہ السلام!

مولانا امیر علی ملیح آبادیؒ کر بلا کے ایک دوسرے کردار شمر لعین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میزان الاعتدال میں امام ذہبیؒ نے لکھا کہ نماز کے بعد شمر بن ذوالجوشن (اس کا باپ ذوالجوشن صحابی تھا) دعا کرتا تھا ”اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں بڑا شریف (معزز) ہوں، میری دعا قبول کر، یہ سن کر ایک آدمی بولا تیری دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے جبکہ تو نے حسین علیہ السلام سے کیا جو کیا۔ شمر لعین بولا، ہم کیا کرتے، ہم نے حاکم وقت کا حکم مانا۔

امام ذہبیؒ فرماتے ہیں کہ شمر کا یہ بہانہ بالکل غلط ہے۔

مولانا امیر علی ملیح آبادیؒ نے تعقیب التہذیب میں یہ خلاصہ نکالا:

”عمر بن سعد اور ان کے ساتھی کم از کم فاسق ضرور تھے۔ ان لوگوں کو رد کرنے ہی میں مسلمانوں کے دلوں کی ٹھنڈک اور اسلام کی عزت ہے۔ اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ فاسق ہر بات میں جھوٹ ہی بولے۔ ان سے کوئی روایت قبول نہ کی جائے گی۔“

شمر کے بارے میں مولانا امیر علیؒ لکھتے ہیں کہ اس نے ابن رسول اللہ ﷺ کو قتل کیا۔ وہ خبیث اور فسق الفساق تھا۔ وہ اس قابل نہیں کہ اس سے روایت لی جائے۔

(تقریب التہذیب، ابن حجر، مع حاشیہ، تعقیب التہذیب از مولانا امیر علی، شاگرد میان نذیر حسین محدث دہلویؒ، ص 226)

شمر کا باپ ذی الجوشن ابوداؤد کا راوی ہے۔ وہ صحابی تھا۔ اس نیک آدمی سے مطرود (لعنتی) شمر پیدا ہوا جس نے ابن رسول ﷺ پر اسلحہ اٹھایا۔ (ایضاً ص: 152)

بعد از شہادت حسین علیہ السلام

بخاری کتاب المناقب باب مناقب الحسن و الحسين میں حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس امام حسین علیہ السلام کا سر لایا گیا جو ایک طشت میں رکھا ہوا تھا۔ وہ ایک چھڑی آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر مارنے لگا اور آپ علیہ السلام کی خوبصورتی کے متعلق کچھ کہنے لگا (کہ میں نے تو سنا تھا حسین علیہ السلام بہت خوبصورت ہے، یہ طعنا کہا)۔ حضرت انسؓ نے کہا امام حسین علیہ السلام سب لوگوں علیہ السلام میں رسول اللہ ﷺ سے بہت مشابہ تھے۔ ان کی داڑھی اور سر کے بالوں پر دسے کا خضاب تھا۔ (ابن حجر، فتح الباری ج: 7، ص: 94)

مولانا ابوالکلام آزادؒ شہادت حسین، ص: 68 پر لکھتے ہیں کہ ابن زیاد نے حضرت حسین علیہ السلام کا سر بانس پر نصب کر کے دحر بن قیس کے ہاتھ یزید کے پاس بھیج دیا۔ مولانا اس کتاب کے ص: 67-68 پر لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد ابن زیاد نے جامع مسجد میں شہر والوں کو جمع کیا اور خطبہ دیتے ہوئے اس خدا کی تعریف کی جس نے حق کو ظاہر کیا اور حق والوں کو فتح یاب کیا۔ امیر المومنین یزید بن معاویہ اور ان کی جماعت غالب ہوئی اور کذاب ابن کذاب حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ یہ سن کر عبداللہ بن عقیف از دیؒ (جو علی علیہ السلام کے مشہور ساتھی ہیں اور جنگ جمل صفین میں زخمی ہو کر اپنی دونوں آنکھیں کھو چکے تھے) کھڑے ہو گئے اور چلائے، خدا کی قسم اے ابن مرجانہ کذاب ابن کذاب تو ہے نہ حسین ابن علی علیہ السلام، ابن زیاد نے یہ سن کر ان کو قتل کر ڈالا۔“

مفتی محمد شفیع دیوبندیؒ اپنی کتاب شہید کر بلا میں لکھتے ہیں ”ابن زیاد کی شقاوت

نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حکم دیا کہ حضرت حسین علیہ السلام کے سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوئٹہ کے بازاروں اور گلی کوچوں میں گھمایا جائے تاکہ سب لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد اس کو اور دوسرے سروں کو یزید کے پاس ملک شام بھیج دیا۔“

مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ کہتے ہیں عمر بن سعد کو حکم تھا کہ حسین علیہ السلام کی لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالے۔ اب یہ تقدیر بھی امام مظلوم کے جسد پاک پر پوری ہوئی۔ دس شہسواروں نے گھوڑے دوڑا کر جسم مبارک کو روند ڈالا۔“

پھر فرماتے ہیں کہ دوسرے دن عمر بن سعد نے میدان جنگ سے کوچ کیا۔ تمام مقتولوں کے سر کاٹ کر ساتھ لے گئے..... ابن زیاد نے حضرت سید الشہداء کا سر ایک بانس پر نصب کیا اور اہل بیت علیہم السلام کے معصوم و مظلوم بچوں اور عورتوں کے ساتھ یزید کے پاس دمشق بھیج دیا۔ (خدا مالدین لاہور۔ جون 1963ء)

جب ابن زیاد چہرہ مبارک پر چھڑیاں مار رہا تھا تو صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے ابن زیاد سے کہا اس چھڑی کو ہٹا۔ اللہ کی قسم! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ کو بوسے دیتے دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت زید رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا خدا تجھے رلائے اگر تو بڑھا کھوسٹ نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے ”اے قوم عرب آج کے بعد تم سب غلام ہو گئے۔ تم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے کو قتل کیا، ابن مرجانہ کو حاکم بنایا، جو تم میں سے جن جن کر نیک آدمیوں کو قتل کرتا ہے اور شریروں کو تم پر مسلط کرتا ہے۔ تم نے ذلت کو گوارا کر لیا۔ ذلت قبول کرنے والوں پر اللہ کی مار۔“ (یہ تھا ابن زیاد کی نظر میں صحابی کا احترام)

(تح الباری، ج: 7، ص: 96۔ البدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 207)

ابن زیاد کے سامنے حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور دیگر عورتوں اور بچوں کو بھی پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے کہا: ”خدا کا شکر ہے جس نے تم لوگوں کو رسوا کیا، انہیں قتل کیا اور تمہاری کہانیوں کو جھوٹا کیا۔“ سیدہ رضی اللہ عنہا نے

جواب دیا ”اللہ کا شکر اور حمد ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے ہم کو عزت بخشی، ہمیں پاک کیا، رسوا اور جھوٹا وہ ہوتا ہے جو فاسق و فاجر ہو۔“ ابن زیاد نے کہا ”تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے خاندان کے ساتھ خدا نے کیا سلوک کیا۔“ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا ”ان کے نصیب میں شہید ہونا لکھا تھا۔ وہ اپنے مقتل کی طرف چلے آئے۔ اب تو بھی اور وہ لوگ بھی اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ وہیں نیکوں کو ان کا اجر اور فاسقوں کو سزا ملے گی۔“

(البدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 209-210)

ابن زیاد نے جب حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ جب بتایا گیا تو کہنے لگا کہ ایسے کیوں چھوڑ دیا، اسے بھی قتل کر دو۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام سے لپٹ گئیں اور کہنے لگیں ”ابن زیاد خدا کا خوف کر، جتنا ظلم ہم پر کر چکا ہے اس سے تمہارا دل نہیں بھرا؟ اگر اسے قتل کرنا چاہتا ہے تو مجھے بھی ساتھ قتل کر دے۔“

وہ ظالم بہت دیر تک حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو دیکھتا رہا اور کہنے لگا کہ خون کے اس جوش پر مجھے تعجب ہے کہ یہ جتنے کے ساتھ قتل ہونے کو تیار ہے، اچھا اس لڑکے کو چھوڑ دو۔

(البدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 210)

اس طرح کے واقعات کے بعد حسین علیہ السلام کا سر مبارک کوفہ میں نصب کر دیا گیا پھر شہر میں پھرایا گیا پھر باقی شہدائے کربلا کے سروں کے ساتھ، قیدی اہل بیت اطہار سمیت یزید کے پاس دمشق بھیج دیا گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کی گردن میں طوق ڈال کر لے جایا جائے۔ (البدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 210)

یہ قافلہ اس شان سے روانہ ہوا کہ اس میں لاچارو بے بس عورتیں اور بچے تھے اور آگے آگے حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کرام علیہم السلام کے سر بلند ہو کر جارہے تھے۔ یہ عورتیں اور بچے اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل اور پاکباز گھرانے کے افراد

تھے۔ لیکن ان کو جس طرح شہر بہ شہر اور گلیوں اور بازاروں میں بے پردہ کر کے پھرایا اور رسوا کیا گیا وہ ثابت کرتا ہے کہ بدر کا بدلہ لیا جا رہا تھا۔ اگر یزید اور اس کے اہل کاروں میں انسانی شرافت کا ذرہ بھی ہوتا تو سوچنا کہ فتح مکہ والے دن اس کے بڑوں کو اس قافلہ کے نانائے شہر نے معافی دے دی تھی اور بدلہ نہیں لیا تھا، لہذا میں بھی بعد از فتح کم از کم وہ سلوک تو کروں۔ مگر یزید کے نصیب میں ابلیس کی طرح ناقیامت لعنت آگئی۔ جو سارا سال بلا ناغہ اسے عوام کی طرف سے پہنچتی رہتی ہے۔

اس اقدام سے یزید یوں کا مقصد یہ تھا کہ عوام پر دہشت بیٹھ جائے اور یہ باور کر لیں کہ اگر ہم روئے زمین کے سب سے اعلیٰ خاندان سے یہ سلوک کر سکتے ہیں تو دوسرے لوگ کس باغ کی مولیٰ ہیں۔ اگر کسی نے حکومت کے خلاف کوئی کوشش کی تو اس کا انجام یہی ہوگا۔ اور بعد کے دو سالوں میں یزید نے یہ ثابت کیا کہ اس کے راستے میں جو بھی آئے گا وہ اس کے خلاف کسی بھی حد تک جانے کے لئے تیار ہے چاہے اسے مدینہ پر حملہ کر کے دس ہزار لوگ حرم مدنی میں قتل کرنا پڑیں یا خانہ کعبہ پر ہی حملہ کیوں نہ کرنا پڑے۔

یزید پلید کے دربار میں

زمانے کی نیرنگی دیکھئے کہ دنیا کے افضل ترین لوگ، اس وقت کے بدترین شخص کے سامنے پیش کئے گئے۔

یزید نے سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا: ”تمہارے باپ نے میرے حق کو نہ جانا اور مجھ سے حکومت چھیننا چاہی۔ دیکھو اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟“

سیدنا امام علی ابن الحسین علیہ السلام نے جواب میں سورہ الحدید: 22/57 کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ”کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوئی ہو اور ہم نے اور یہ کام خدا کیلئے بہت آسان ہے۔“

حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق
یکے حسین رقم کرد و دیگرے زینب

یزید نے جواباً سورہ الشوریٰ: 42/30 پڑھی
”اور جو مصیبت تم پر واقعی ہوئی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اور وہ (اللہ) بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔“

اور اس کے ساتھ سورہ آل عمران: 26/3 پڑھی
”کہو اے اللہ! اے بادشاہی کے مالک! تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے اختیار میں ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔“

سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ بنت الحسین بیان فرماتی ہیں کہ یزید کے دربار میں پیشی کے وقت ایک بد بخت شامی نے یزید سے کہا یہ لڑکی (یعنی فاطمہ) مجھے دے دیں۔ میں اس زمانہ میں کم سن اور خوبصورت تھی۔ میں ڈر گئی اور اپنی پھوپھی زینب کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ حضرت زینب علیہا السلام نے اس شامی سے کہا، نہ تمہاری یہ مجال ہے اور نہ یزید کی۔ یزید بولا واللہ تم نے غلط کہا۔ مجھے یہ اختیار ہے، میں اگر چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں۔ حضرت زینب علیہا السلام نے کہا، واللہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یہ اختیار تجھے نہیں دیا۔ ہاں اگر دین چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کر لے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ یزید نے غضبناک ہو کر کہا دین سے تیرا باپ اور بھائی نکل گئے تھے۔ زینب علیہا السلام نے جواب دیا، میرے باپ، بھائی اور نانا کے دین سے تو تیرے باپ دادا نے ہدایت پائی۔ یزید نے کہا دشمن خدا تو جھوٹ بول ہی ہے۔ زینب علیہا السلام نے کہا تو حاکم ہے اس لیے دباتا ہے۔ یہ سن کر یزید خاموش ہو گیا۔ شامی بد بخت نے پھر وہی مطالبہ دہرایا تو یزید نے کہا۔ خاموش رہ، خدا تجھے موت دے کر تیرا فیصلہ کرے۔

(الہدایہ والنہایہ، ابن کثیر، ج: 8، ص: 211)

بعد میں سیدنا حسین علیہ السلام کے قتل سے یزید اپنا دامن بچانا چاہتا تھا اور ابن زیاد اپنا دامن بچانا چاہتا تھا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد سے کہا، جو خط میں نے تمہیں قتل حسین علیہ السلام کا حکم دینے کیلئے لکھا تھا، وہ مجھے واپس کر دو۔ ابن سعد نے کہا وہ گم ہو گیا ہے۔ ابن زیاد بضد ہوا تو ابن سعد نے کہا کہ اس کا علم تو بوڑھی عورتوں تک کو ہو چکا ہے۔ میں نے تجھے حسین کے بارے میں ایسا خیر خواہی کا مشورہ دیا تھا کہ اپنے باپ سعد رضی اللہ عنہ کو بھی دیتا تو ان کا حق ادا کر دیتا۔ ابن زیاد کے بھائی عثمان بن زیاد نے کہا میں تو کہتا ہوں کہ حسین علیہ السلام قتل نہ ہوتے چاہے بنی زید کی ناک میں کیل چڑھادی جاتی۔ (الہدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 226)

تاریخ میں کچھ ایسی روایات ملتی ہیں کہ یزید نے قتل حسین پر افسوس کا اظہار کیا تھا اور ابن زیاد کے بارے میں کہا ابن مر جانہ پر لعنت ہو، اگر حسین علیہ السلام میرے پاس آتے تو جو کہتے میں مان لیتا۔ ایسی روایات ناصبیوں نے گھڑی ہیں۔ یزید اس قتل میں پوری طرح ملوث تھا۔ اور یہ معاملہ ایک دن میں اس نوبت تک نہیں پہنچا تھا کہ سب کچھ اچانک ہو گیا ہو۔ یزید نے تو تخت نشین ہوتے ہی گورنر مدینہ کو پہلا خط ان سے بیعت لینے کیلئے لکھا تھا کہ ہر حال میں بیعت لو۔ امام مدینہ سے مکہ اور پھر کوفہ روانہ ہوئے۔ تقریباً چھ ماہ یہ معاملات چلتے رہے۔ کیا یزید اتنا ہی بے خبر تھا کہ اسے خبر نہ ہوئی جبکہ باقی خبریں پل پل کی اسے ملتی تھیں۔ اگر بے خبر تھا تو یہ بھی اسی کی نااہلی ہے۔ بالفرض اگر وہ بے خبر تھا، اس قتل سے راضی نہ تھا تو پھر اس نے خبیث ابن زیاد کو کیا سزا دی؟ معزول تک نہ کیا۔ بلکہ مدینہ اور مکہ پر حملہ کیلئے اس کہا تو ابن زیاد لعین نے جواباً کہا میں اس فاسق (یزید) کیلئے دو گناہ اپنے سر نہیں لے سکتا کہ نواسہ رسول علیہ السلام کو قتل کروں اور خانہ کعبہ پر حملہ کروں۔ (الہدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 237)

محمد بن حنفیہ کا یزید کے پاس رہنا اور اس کی صفائی دینا، یہ قصہ بالکل بے بنیاد ہے اور اس کی روایت منقطع ہے۔ (انساب الاشراف للبلاذری ج: 3، ص: 143)

قتل حسین علیہ السلام کے بعد یزید نے مدینہ اجاڑا، مکہ اور کعبہ شریف پر حملہ کرایا، اور اسی حملہ کے دوران دنیا کو اپنے وجود سے پاک کمر گیا۔ پھر یہ خاندان تک کر حکومت نہ کر سکا۔ جگہ

جگہ بغاوتیں ہوئیں اور واقعہ کربلا میں شریک ہر شخص برے انجام سے دوچار ہوا۔ یزید کی موت کے ساتھ ہی خاندان معاویہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ خسر الدنیا ولا آخرہ

حضرت امام حسین علیہ السلام کی تحریک اور مشن کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ لکھتے ہیں ”مقابلہ کیلئے ضروری نہیں کہ تمہارے پاس وہ تمام شوکت و مادی اسباب موجود ہوں جو ظالموں کے پاس ہیں۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے پاس چند ضعیف بوڑھوں اور بچوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ حق و صداقت کی راہ نتائج کی فکر سے بے پروا ہے۔ نتائج کا مرتب کرنا تمہارا کام نہیں۔ یہ قوت قادرہ عادلہ الہیہ کا کام ہے جو حق کو ضعف کے باوجود کامیاب کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چند انسانوں کے ساتھ اس عظیم الشان حکومت قاہر و جابر کا کیا مقابلہ جس کی سرحدیں ملتان اور فرانس تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دل کے ٹکڑوں کو بھوک پیاس کی شدت سے تڑپتے دیکھا، پھر ایک دن ہر ایک وجود مقدس کو مقتول ہوتے ہوئے دیکھا اور جاں بحق تسلیم ہوا۔ یہ بھی سچ ہے کہ وہ دشمنوں سے نہ تو پینے کا پانی چھین سکا اور نہ زندہ رہنے کیلئے غذا حاصل کر سکا۔ اس میں بھی شک نہیں کہ وہ سر سے پاؤں تک زخموں سے چور ہوا، اس خلعت شہادت لالہ گلوں سے آراستہ ہو کر تیار ہوا تا کہ اس کرشمہ ساز حظیرۃ القدس کے وصال میں پہنچے جو دوستوں کو خاک و خون میں تڑپاتا اور دشمنوں کو مہلت دیتا ہے۔ تاہم فتح اس کی تھی، فیروز مندی کا تاج اس کے زخم خوردہ سر پر رکھا جاسکتا تھا۔ وہ تڑپا اور خاک و خون میں لوٹا اور اس کے خون کے ایک قطرہ نے عالم اضطراب میں جو اس کے زیر سنگ بہا، انقلاب تغیرات کے وہ سیلاب ہائے آتشیں پیدا کر دیئے جس کو نہ مسلم بن عقبہ کی خون آشامی روک سکی، نہ حجاج بن یوسف کی بے اماں خونخواری اور نہ عبدالملک کی تدبیر و سیاست، وہ بڑھتے اور بڑھتے ہی رہے۔ ظلم و جبر کا پانی تیل بن کر ان کے شعلوں کی پرورش کرتا رہا۔ اور حکومت و تسلط کا غرور ہوا بن کر ان کی ایک ایک چنگاری کو آتش کدہ سوزاں بنا تا رہا۔ یہاں تک کہ آخری وقت آ گیا۔ اور جو کچھ 61ھ میں کربلا کے اندر ہوا تھا وہ سب 132ھ میں نہ صرف دمشق بلکہ تمام

عالم اسلامی کے اندر ہوا۔ صاحبانِ تخت و تاج خاک و خون میں تڑپے۔ ان کی لاشیں گھوڑوں کے سموں سے پامال کی گئیں۔ فتح مندوں نے قبریں تک اکھاڑ ڈالیں اور مردوں کی ہڈیوں تک کو ذلت و حقارت سے محفوظ نہ چھوڑا اور قرآن پاک کا یہ فرمان سچ ہوا ”اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ وہ کون سی جگہ لوٹائے جاتے ہیں۔“

دید ی کہ خون ناحق پروانہ شمع را
چنداں اماں نہ داد کہ شب را سحر کند

حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے موت کا فیصلہ اچانک نہیں آیا تھا۔ انہوں نے مکمل ہوشمندی کے ساتھ اس راستہ کا انتخاب کیا۔ حزن نے جب آپ علیہ السلام کو پیچھے آنے والی فوج سے ڈرایا تو امام علیہ السلام نے قبیلہ اوس کے اس صحابی رضی اللہ عنہ کے شعر سنائے جسے اس کے بھائی نے موت سے ڈرایا تو اس صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ مرنا قطعاً بہتک اور طعنے کی بات نہیں اگر وہ حق پر مرے۔“ (الہدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 188-189)

ابن زیاد لعین کا انجام

واقعہ کربلا کے پانچ سال بعد جبکہ اس خونی درندے کی عمر 28 سال تھی، ابراہیم بن مالک الاشتر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ابن زیاد جہنم رسید ہوا۔ عمارہ بن عمیر سے روایت ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر مسجد میں لا کر رکھ دئے گئے، جوڑہ میں ہے، (اور وہ نام ہے ایک مقام کا) سو میں وہاں گیا۔ لوگ کہنے لگے آیا آیا۔ اور وہ ایک سانپ تھا کہ لوگوں میں سے ہو کر آیا اور عبید اللہ کے ناک میں تھوڑی دیر گھسار ہا پھر نکلا اور چلا گیا اور غائب ہو گیا پھر لوگوں نے کہا آیا آیا اور پھر گھسا اسی طرح تین بار گیا یا دوبار۔“

امام ترمذی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت حسن ہے صحیح ہے۔

مولانا عبد الرحمن مبارکپوری لکھتے ہیں کہ خدا نے اس ظالم اور فاسق کو سزا دی۔ یہ واقعہ ذوالحجہ کے 8 دن باقی تھے جب پیش آیا۔ وہ ہفتہ کا دن تھا اور 66ھ کا سال تھا۔ ابراہیم الاشتر اس کا سر کاٹ کر مختار ثقفی کے سامنے لایا تھا۔ (تختہ الاخوانی شرح ترمذی ج: 4، ص: 341-342)

یزید کے شامی فوجیوں کی لاف زنی

ابن زیاد لعین نے زحر بن قیس کی معیت میں تمام شہدائے کربلا کے مبارک سروں کو یزید بن معاویہ کے پاس دمشق روانہ کر دیا۔ دربار یزید پہنچ کر زحر بن قیس نے اپنے سیاہ کارنامہ کو جن الفاظ میں پیش کیا، وہ یہ ہیں۔

”امیر المومنین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو فتح و نصرت کی بشارت ہو۔ حسین ابن علی علیہ السلام ابن ابی طالب اور ان کے اہل بیت کے اٹھارہ افراد اور ان کے شیعیان میں سے ساٹھ اشخاص ہمارے یہاں وارد ہوئے تو ہم بھی ان کی طرف چل پڑے۔ اور ہم نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ امیر عبید اللہ بن زیاد کے آگے سر تسلیم خم کر دیں اور اس کے حکم پر اپنے آپ کو ہمارے حوالہ کر دیں یا پھر جنگ کیلئے تیار ہو جائیں۔ انہوں نے جنگ ہی کو پسند کیا تو ہم نے صبح سویرے جیسے ہی آفتاب چمکا، ان لوگوں کو جالیا اور ہر طرف سے ان کو گھیر لیا۔ آخر جب تلواروں نے ان کی کھوپڑیوں کی صحیح گرفت شروع کی تو یہ ادھر ادھر بھاگنے لگے جدھر بھاگنے کی ان کیلئے کوئی جگہ نہ تھی نہ جائے پناہ اور جس طرح باز سے کبوتر پناہ ڈھونڈتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ٹیلوں اور گڑھوں میں ہم سے پناہ ڈھونڈنے لگے۔ سو خدا کی قسم! بس جتنی دیر میں اونٹ کاٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، یا قیلولہ کرنے والا اپنی نیند پوری کر لیتا ہے، اتنی دیر میں ہم نے ان کے آخری فرد کا کام تمام کر دیا۔ سواب ان کی لاشیں ٹنگی پڑی ہیں اور ان کے کپڑے لیے جاکے ہیں۔ ان کے رخسار خاک میں لتھڑے ہوئے ہیں، دھوپ ان کو جلارہی ہے، اور ہوا ان پر خاک اڑاتی ہے، عقاب اور گدھ ان لاشوں پر منڈلا رہے ہیں۔“ (البدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 191)

خیال رہے کہ یہ لاف زنی وہ شخص کر رہا ہے جو اتنا بہادر تھا کہ جو لوگ پانچ ہزار فوج صرف 72 اشخاص کے مقابلہ میں لے کر گئے تھے، ان کے ساتھ یہ بھی شامل باجہ تھا۔ جبکہ ان 72 اشخاص میں بہت سی عورتیں، بوڑھے اور بچے شامل تھے اور ان ”باغیوں میں ایک 6 ماہ کی عمر کا ”باغی“ بھی تھا۔ دوسری بات یہ کہ خاندان رسالت علیہ السلام کو قتل کرنے کا حال جس خوشی اور جوش و جذبہ سے بیان کیا جا رہا ہے اور سننے والا سن رہا ہے اس سے صاف

معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں اس مقدس ترین خاندان کے خلاف انتہائی بغض تھا اور واقعی بدر کا بدلہ لیا گیا۔ تیسری بات یہ کہ لکھنے والے یعنی امام ابن کثیر شامی ہیں۔ وہ بنو امیہ کی آخری حد تک براءت کی کوشش کرتے ہیں لیکن انہوں نے بھی وہی لکھا جو لکھنے پر صداقت کے ہاتھوں مجبور تھے۔

مسلم کتاب الفضائل باب من فضائل فاطمہ علیہا السلام میں امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب یزید بن معاویہ کے پاس سے واپس مدینہ آئے تو ان سے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ ملے اور پوچھا کہ کوئی کام ہو تو بتائیں۔ میں نے کہا کوئی کام نہیں۔ مسور رضی اللہ عنہ نے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مجھے دے دیں کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ لوگ آپ سے زبردستی نہ چھین لیں۔ اللہ کی قسم! اگر آپ وہ تلوار مجھے دے دیں تو جب تک میری جان میں جان ہے، کوئی اس کو نہ لے سکے گا۔ یہ حالات تھے جن میں لٹنے اور اجڑنے کے بعد بھی اہل بیت کو امن نہیں تھا۔

بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اس کی بیعت کر لی اور اس کیلئے دعائے خیر کی تو یہ بالکل بے بنیاد اور گھڑی ہوئی بات ہے۔ اس کے راویوں میں سے ایک ابی بکر بن عبد اللہ بن ابی سبرہ ہے جو وضع حدیث میں متہم ہے۔ یزید کی منقبت ایسے ہی ناکارہ لوگوں کی روایت سے ثابت ہو سکتی ہے۔ (طبقات ابن سعد، ج: 5، ص: 215)

بلکہ اس کے الٹ یزیدی کمانڈر مسلم بن عقبہ جسے سلف مجرم یا مسرف بن عقبہ کے برے نام سے یاد کرتے ہیں، نے حضرت امام زین العابدین سے بدتمیزی کی اگرچہ امام علیہ السلام واقعہ حرہ میں بالکل الگ رہے۔ اس کی تفصیل امام ابن کثیر یوں بیان کرتے ہیں کہ مسلم بن عقبہ نے حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کو طلب کیا۔ وہ مروان اور اس کے بیٹے عبد الملک کے درمیان پیدل چل کر اس کے پاس پہنچے تاکہ ان کے ذریعے امان لے سکیں۔ ان کے علم میں یہ بات نہ تھی کہ یزید نے ان کے بارے میں مسلم کو کہہ دیا ہے۔ چنانچہ جب آپ اس کے

سامنے آ کر بیٹھ گئے تو مروان نے کچھ پینے کیلئے مانگا۔ مسلم بن عقبہ جب شام سے مدینہ آیا تھا تو اپنے ساتھ وہاں سے برف لے کر آیا تھا اور وہ برف اس کے مشروب میں ڈال دی جاتی تھی۔ چنانچہ جب پینے کیلئے لایا گیا تو مروان نے اس میں سے تھوڑا سا پی کر باقی علی بن الحسین علیہ السلام کو دے دیا تاکہ اس کے ذریعہ سے ان کے لئے امان حاصل کر لی جائے۔ مروان علی بن الحسین علیہ السلام کا دوست بنا ہوا تھا۔ مسلم بن عقبہ کی جیسے ہی نظر اس پر پڑی کہ برتن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اٹھا لیا تو کہنے لگا ہمارا پانی نہ پینا اور پھر کہا تو ان دونوں کے ساتھ اس لیے آیا ہے کہ ان کے ذریعے امان حاصل کر سکے۔ یہ سن کر آپ کا ہاتھ کاٹنے لگا اور نہ ہی برتن رکھا جاسکتا تھا نہ ہی اسے پی سکتے تھے۔ تب اس شقی نے کہا اگر امیر المومنین نے تمہارا خیال رکھنے کی تاکید نہ کی ہوتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔

(البدایہ والنہایہ ج: 8 ص: 220)

طبقات ابن سعد میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب کنکریاں مارنے جرات کی طرف جاتے تو پیدل جاتے۔ مٹی میں آپ علیہ السلام کا ایک مکان تھا۔ اہل شام آپ کو ستایا کرتے تھے۔ اس لیے آپ اپنے مکان سے قرن الثعالب یا اس کے قریب آ گئے۔ اب آپ سواری پر آنے لگے۔

(طبقات ابن سعد ج: 5 ص: 219)

منہال بن عمرو سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی بن الحسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، صبح کس حال میں ہوئی؟ فرمایا میں نہ سمجھتا تھا کہ شہر میں آپ جیسا بزرگ بھی نہیں جانتا کہ ہم نے صبح کس حال میں کی۔ اور جب آپ نہیں جانتے تو پھر میں بتائے دیتا ہوں کہ ہم نے صبح کس حال میں کی۔ اور جب آپ نہیں جانتے تو پھر میں بتائے دیتا ہوں کہ ہم نے اپنی قوم کے ساتھ اس حال میں صبح کی جس طرح بنی اسرائیل نے کی تھی کہ وہ فرعون بنی ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر دیتے تھے اور ان کی عورتوں کو جینے دیتے تھے۔ اور ہمارے بزرگ اور سردار (سیدنا علی علیہ السلام) کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ برسر منبر ان کو گالیاں دے کر ہمارے دشمن کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔

آگے فرماتے ہیں کہ قریش (مراد بنی امیہ) نے اس حال میں صبح کی کہ خود تو ہمارا حق لے چکے مگر اپنے اوپر ہمارا کوئی حق نہیں سمجھتے اب سنو! اگر تمہیں علم نہیں کہ ہمیں صبح کس حال میں آئی ہے تو اس حال میں آئی ہے۔

(طبقات ابن سعد ج: 5 ص: 219 تا 220)

اہل بیت پر ظلم کے بعد بنو معاویہ کی جو بربادی ہوئی اور حکومت چھین گئی تو اس حال سے عبرت حاصل کر کے عبدالملک مروانی نے تخت حاصل کرنے کے بعد حجاج بن یوسف کو تاکید کر دی تھی کہ بنو ہاشم کو تنگ نہ کیا جائے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بلاشبہ حجاج نے جو کہ بڑا اہل کو اور سخت خوں ریز تھا اور اس نے خلق کثیر کو قتل کیا تاہم اشراف بنی ہاشم میں کسی کو قتل نہ کیا بلکہ اس کو اس کے سلطان عبدالملک نے بنی ہاشم سے جو اشراف کہلاتے تھے، کسی قسم کا تعرض کرنے سے منع کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ بنو حرب (ابوسفیان کی اولاد) نے جب بنو ہاشم کو تنگ کیا تو ان کی شامت آگئی یعنی جب حسین علیہ السلام کو قتل کیا تو برباد ہو گئے۔

(فتاویٰ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ج: 4 ص: 504)

مجانِ اہل بیت کی خدمت میں

علامہ باقر مجلسی مرآۃ العقول ج: 8، ص: 35 شرح الکافی باب خوف ورجاء میں لکھتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر الصادق علیہ السلام کو کہا کہ بہت سے لوگ آپ کی محبت کے دعویدار ہیں مگر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ امام نے فرمایا بالکل جھوٹے ہیں۔ وہ ہم سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ ایسا گروہ ہیں جن کو ان کی آرزوئیں جھولے جھلارہی ہیں۔ جس کو کسی شے کی امید ہوتی ہے اس کیلئے محنت کرتا ہے اور جو کسی شے سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے۔

ایک طرف یہ حال ہے کہ ایسے لوگ بھی شیعان علی علیہ السلام کہلاتے ہیں جبکہ دوسری طرف یہ حال ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کا اعلان کرتا ہے، اس کو شیعہ کہہ دیتے ہیں جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو کہا گیا۔ اس پر امام نے شعر کہا

إِنْ كَانَ ذَنْبِي حُبَّ آلِ مُحَمَّدٍ
فَذَلِكَ ذَنْبٌ لَسْتُ عَنْهُ أَتُوبُ

”اگر میرا گناہ آل رسول ﷺ کی محبت ہے تو یہ وہ گناہ ہے۔ جس سے میں تائب نہیں ہوں گا۔“

علامہ باقر مجلسی بحار الانوار ج: 23، ص: 231-230 (عیون اخبار رضا اردو،

ج: 2، ص: 504) پر لکھتے ہیں:

حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے سامنے مامون نے ان کے بھائی کو پیش کیا۔ اس کا نام زید بن موسیٰ کاظم علیہ السلام تھا۔ اس زید نے مدینہ میں حکمرانی کا دعویٰ کیا، بغاوت کی قتل کئے اور عمارتوں کو آگ لگائی۔ اس لیے اس کا نام زید مخرق (جھلانے والا) اور زید النار (آگ والا زید) پڑ گیا۔ مامون نے فوج بھیج کر اسے گرفتار کیا۔ اسے مامون کے پاس لے جایا گیا۔ مامون نے کہا اسے اس کے بھائی علی رضا علیہ السلام کے پاس لے جاؤ۔ جب اس کو پیش کیا گیا تو اس سے ابو الحسن علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اے زید! تجھے کوفہ کے بیوقوف لوگوں کی اس بات نے دھوکہ دے دیا کہ فاطمہ علیہا السلام پاک تھیں اور اللہ نے ان کی نسل پر دوزخ کو حرام کر دیا۔ اس نسل سے مراد صرف حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام ہیں۔ (یعنی قیامت تک پیدا ہونیوالے سید نہیں)۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ اسی طرح گناہ کرتے کرتے، شریعت کی خلاف ورزی کرتے کرتے جنت میں داخل ہو جائے گا اور تیرا یہ خیال صحیح نکلے یعنی تو جنت میں داخل ہو بھی جائے اور تیرا میرا باپ موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہ کی فرماں برداری کرے، نیک کام کرے، ظلم سے بچے، اور وہ اتنی نیکیاں کر کے جنت میں داخل ہو، اور تو اتنے گناہ کر کے جنت میں داخل ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک تیری شان موسیٰ کاظم علیہ السلام سے زیادہ ہے (کیونکہ جنت اگر اسی طرح گناہ کر کے مل جاتی تو انہیں نیکیاں کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟) اللہ کی قسم اللہ کے پاس جو اجر و ثواب ہے، وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں پاسکتا جب تک وہ اللہ کے احکام کی اطاعت نہ کرے۔ جبکہ تیرا خیال یہ ہے کہ یہ سارے انعام گناہ کرنے کے باوجود مل جائیں گے۔ تیرا خیال کتنا غلط ہے!

علامہ طبری تفسیر مجمع البیان ج: 7، ص: 354 پر سورہ احزاب: 30-31 کی تفسیر میں محمد بن ابی عمیر عن ابراہیم بن عبد الحمید عن علی ابن عبد اللہ ابن

الحسین علیہ السلام عن ابیہ علی علیہ السلام ابن الحسین علیہ السلام زین العابدین سے یہ روایت درج ہے کہ ایک آدمی نے کہا آپ تو رسول اللہ ﷺ کے وہ اہل بیعت ہیں جو بخشے بخشائے ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام اس بات پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا ایسی باتیں کر کے ہمیں گمراہ نہ کیا کرو۔ سن لو! ہم پر وہی قانون جاری ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی بیویوں رضی اللہ عنہن کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ ہمیں اپنے رب سے امید ہے کہ ہم میں سے جو نیکی کرے گا تو اسے دو ہزار ثواب ملے گا اور ہم میں سے گناہ کرنے والے کو دگنا عذاب ہوگا۔

پھر امام علیہ السلام نے سورۃ احزاب: 30-31 تلاوت فرمائیں۔

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَّفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرًا ۝ وَمَنْ يَفْعَلْ مِنْكُمْ لَلّٰهِ وِدًّا ۖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا ۖ نُؤْتِهَا اَجْرَهَا مَوْتَتَيْنِ ۖ وَاعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ۝

طبرسی نے دوسری روایت ابو حمزہ ثمالی عن زید ابن علی ابن الحسین (زید شہید علیہ السلام) سے درج کی ہے۔ سیدنا زید شہید علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم سے جو نیکی ہوگا اس کیلئے دگنے اجر کے امیدوار ہیں اور سیدوں میں سے جو برا کام کرے گا اس کے بارے میں خوف ہے کہ اسے دگنا عذاب ہوگا جیسا کہ ازواج النبی ﷺ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ان حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی کو جب اہل بیت کے پردہ میں بد معاشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم 61ھ کو دوران جنگ ظہر اؤل وقت پڑھی۔ اب اگر ان کی محبت کا دعویٰ در نماز کے نزدیک بھی نہ جائے تو اس کے دعویٰ میں کہاں تک سچائی ہے؟

امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا ایک شاگرد ابو بصیر ان کی بیوی ام حمیدہ کے پاس آیا۔ ام حمیدہ نے فرمایا بیٹا! کاش تم اس وقت امام کے پاس ہوتے جب وہ فوت ہوئے تھے۔ شاگرد نے پوچھا اماں! اس وقت انہوں نے کیا فرمایا تھا۔ اماں نے کہا،

انہوں نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ جس نے نماز کو معمولی کام سمجھا (یعنی جب وقت ملا پڑھ لیس گئے) اس کو ہماری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ (محمد کاظم طباطبائی، العروة الوثقی، ص: 179-180) ابو بصیر سے روایت ہے کہ امام علی رضا (ابو الحسن الاول) نے فرمایا کہ میرے والد نے وفات کے وقت فرمایا اے میرے بیٹے جس نے نماز کو معمولی کام سمجھا اس کو ہماری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ (الکافی کتاب الصلوٰۃ باب من حافظ علی صلاحہ او ضعیفہا حدیث: 15) برطانوی ہندوستان میں ایک انگریز مستشرق جو آئی سی ایس اور بورڈ آف ریونیو کا صدر تھا، نے کہا ”تاریخ اسلام میں حسین علیہ السلام ایک ایسا متاثرہ حق ہے کہ اگر ہندوستان کے صرف مٹھی بھر شیعہ اپنے ہیرو کی اسپرٹ کو جذب کر کے اس کے راستے پر گامزن ہو جائیں تو ہماری برٹش حکومت کا ایوان پاش پاش ہو کر رہ جائے۔“

آساں نہیں ہے معرفتِ راز کر بلا
دل حق شناس دیدہ بیدار چاہیے
آتی ہے کر بلا سے یہ آواز آج بھی
ہاں حق کا اعتراف سر دار چاہیے

بنو امیہ مدت تک 10 محرم کو عید کی طرح مناتے رہے۔ ذکر حسین علیہ السلام بند کر دیا گیا۔ اب بھی اخباروں میں دس محرم کے ایڈیشن میں مضامین لکھے جاتے ہیں کہ اس دن غسل کرو، سرمہ لگاؤ، خوشبو لگاؤ، بہت سے کھانے پکاو۔ ایک روایت بھی اس سلسلہ میں گھڑی کہ جو عاشورہ والے دن اپنے بال بچوں پر کھلا خرچ کرے، سال بھر اس کی روزی فراخ کردی جاتی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اس پر لکھتے ہیں کہ تمام طرق سے یہ روایت ضعیف ہے اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا یہ من گھڑت (موضوع) روایت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سفیان ثوری کا شکوہ کیا کہ وہ کہتے ہیں تجربہ سے یہ بات صحیح معلوم ہوئی ہے کہ اس دن کھانے پکانے سے رزق بڑھتا ہے۔ اس پر البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایسے تجربات سے شریعت کا حکم ثابت نہیں ہوتا۔

دوسری طرف معز الدولہ دیلمی شیعہ حاکم مصر آل بویہ نے 352ھ میں لوگوں کو حکم دیا کہ عاشورہ والے دن بازار بند کرو، سرنگے کر کے سڑوں میں خاک ڈالو۔ انہوں نے ماتم شروع کر دیا۔ (البدایہ والنہایہ ج: 11، ص: 181)

دونوں فریقوں نے دین سے ہٹ کر اپنی مرضی کی۔

ایران کے شیعہ حکمران عباس صفوی کے کہنے پر علامہ بہاؤ الدین عاملی، مشہور شیعہ عالم، نے جامع عباسی کے نام سے شریعت کے احکام بادشاہ کی رہنمائی کیلئے لکھ کر دیئے۔ اس میں علامہ نے لکھا کہ جو ماتم کرے وہ کفارہ یمنین (قسم کا کفارہ) ادا کرے۔ (جامع عباسی ج: 2، ص: 52 کفارہ نمبر 8 اور 9)

اگر حسینؑ کی سیرت پہ ہو سکا نہ عمل

تو پھر یہ مجلس ماتم کا فائدہ کیا ہے

(سید وحید الدین ہاشمی)

یاد حسینؑ اب جو منانے کو رہ گئی

اک رسم تھی ہمارے نبھانے کو رہ گئی

اس کا سبق تو ہم سے فراموش ہو چکا

بس داستاں ہی اس کی سنانے کو رہ گئی

کرنا تھا جس گھڑی حق و باطل میں امتیاز

وہ کیفیت بھی رونے رلانے کو رہ گئی

کیا چیز کھو گئی تھی سر دھب کر بلا

جس کی تلاش ایک زمانے کو رہ گئی

ریگ عراق منتظر، کشت حجاز تشنہ لب

خون حسینؑ باز وہ کوفہ و شام خویش را

توابون

توابون سے مراد وہ گروہ ہے جس نے حضرت سلیمان بن صد مصحابیؓ کی زیر سرکردگی سیدنا امام حسینؑ کو کوفہ بلایا تھا مگر ابن زیاد کے کرفیو کی وجہ سے امام عالی مقام کی مدد نہ کر سکے۔ واقعہ کربلا کے بعد انہوں نے اپنی اس مجبورانہ کوتاہی کا کفارہ جنگ توابون کی شکل میں ادا کیا۔

امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ ج: 8، ص: 275 پر حضرت سلیمان بن صد مصحابیؓ کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ وہ صحابی، جلیل، بیلا، عابد آزاد تھے۔ جن پانچ سرداروں نے مل کر امام عالی مقام کو بلایا تھا ان کے نام یہ ہیں۔ سلیمان بن صد الخزاعیؓ، مسیب بن نفیلؓ، نجہؓ، عبداللہ بن سعد بن طفیلؓ، عبداللہ بن والؓ اور قاعد بن شدادؓ، یہ لوگ تھے جنہوں نے امیر معاویہ کی وفات کے بعد حضرت حسینؑ کو خط لکھا تھا کہ امیر معاویہ نے وعدہ خلائی کر کے اپنے بیٹے کو ولی عہد نامزد کر دیا ہے جبکہ صلح حسن میں یہ شرط تھی کہ امیر معاویہ کے بعد کوئی آدمی ولی عہد نامزد نہ ہوگا۔ چونکہ وعدہ خلائی کے بعد، حضرت حسنؑ کی صلح کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے، لہذا آپ خروج کریں۔

سلیمان بن صد خزاعی، مسلم اور دوسری کتب حدیث کے راوی ہیں۔ آپ حضرت علیؑ کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے۔ شیعان علی کا اجتماع ان کے گھر میں ہوتا تھا۔ انہوں نے امام حسینؑ کو عراق بلانے کیلئے خط لکھا تھا، جو پیچھے گزر چکا۔ جب امام کربلا آئے تو یہ لوگ بے بس ہونے کی وجہ سے مدد نہ کر سکے۔

واقعہ کربلا کے بعد انہوں نے اجتماع کیا اور کہا کہ امام حسینؑ کے کربلا آنے کا

سبب ہم لوگ بنے جس کے نتیجے میں حضرت حسین علیہ السلام اور اہل بیت قتل ہو گئے۔ اس پردہ نادم ہوئے۔ وہ دوبارہ اکٹھے ہوئے اور لشکر تیار کیا جس کا نام تو ابوان (توبہ کرنے والے) رکھا۔ حضرت سلیمان بن مرد اسخر اعی رضی اللہ عنہ جن کی عمر اس وقت 93 سال تھی، کو امیر لشکر مقرر کیا۔ واقعہ کربلا کے چار سال بعد 65ھ میں عین الوردہ کے مقام پر سلیمان بن مرد رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اللہ ان پر رحمت کرے۔

ان کا اور میسب بن نجہ رضی اللہ عنہ کا سرکاٹ کر مروان بن حکم کے پاس بھیج دیا گیا۔ امام ابن کثیر البدایہ ج: 8، ص: 273 پر لکھتے ہیں کہ جب تو ابوان نے اپنی تیاری کر لی تو میسب بن نجہ خطبہ دیتے کیلئے کھڑے ہوئے اور حمد و ثناء کے بعد کہا ہم امتحان میں ڈال دئے گئے۔ اللہ نے ہمیں لمبی عمر دی اور فتنے بہت پھیل گئے۔ اللہ نے ہماری آزمائش کی اور ہم جھوٹے نکلے۔ ہم ابن رسول علیہ السلام کی مدد نہ کر سکے حالانکہ ان کو ہم نے خط لکھے تھے۔ وہ اسی لیے یہاں آئے تھے کہ ہم لوگ ان کی مدد کریں گے۔ ہم نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ ان کو کربلا میں ایسے قصائیوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے امام اور ان کے خاندان کو قتل کر دیا۔ نہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان کی مدد کر سکے نہ اپنی زبان سے کوئی بیان دے سکے اور نہ مالی مدد کر سکے۔ اب ہمارے لیے صرف تباہی ہے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے عذاب ہم سے کبھی ختم نہ ہوگا۔ اب ایک ہی حل ہے کہ یا تو ان کے قاتل کو قتل کریں یا ہم مارے جائیں۔ نتیجہ ہمارے گھراؤ جائیں گے اور مال لوٹ لئے جائیں گے اور شہر ویران ہو جائے گا۔ اب سارے کے سارے ایک آدمی (تن واحد) کی طرح اٹھو۔ پھر انہوں نے سورۃ البقرہ: 54/2 پڑھی:

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُومُ إِلَيْكُمْ طَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ
الْبَعَجَلِ فَتَوَبُّوا إِلَى بَارِيكُمْ ط فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ط ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ
عِنْدَ بَارِيكُمْ ط فَتَابَ عَلَيْكُمْ ط إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ○

جس میں فرمایا گیا ہے کہ اپنے رب کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو،

تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ انہوں نے اس کے علاوہ بھی تقریر کی۔

حضرت سلیمان بن مرد رضی اللہ عنہ نے مدائن میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے سعد بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھی مدد کیلئے خط لکھا۔ سعد نے بھی ان سے اتفاق کیا اور اپنے ساتھیوں کو تیار کر لیا۔ اسی دوران بات باہر نکل گئی۔ حکومت کو پتہ چل گیا اور ان لوگوں کو قبل از وقت جنگ لڑنا پڑی۔ لشکر نکل پڑا شہر سے باہر نکل کر حضرت سلیمان بن مرد رضی اللہ عنہ نے کہا اگر کوئی ہمارے ساتھ دنیا کے لالچ کیلئے آیا ہے تو میں اس کو قسم دیتا ہوں کہ وہ ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلا جائے اور جو ہمارے ساتھ اس لیے نکلا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور آخرت کا ثواب ملے وہ ہمارا ہے اور ہم اس کے ہیں۔ جو دنیا کیلئے نکلا ہے نہ وہ ہمارا ہے نہ ہم اس کے ہیں۔ اس پر بہت سے لوگوں نے کہا ہم دنیا کیلئے نہیں بلکہ آخرت کیلئے نکلے ہیں۔

ربیع الاول کی پانچ تاریخ کو بروز جمعہ 65ھ یہ لشکر حملہ کرنے کیلئے چل پڑا۔ عین الوردہ کے مقام پر شامی فوجوں سے ٹکرا ہوئی۔ تو ابوان چار ہزار تھے جبکہ 30 ہزار سے زیادہ شامی لشکر میں تھے۔ اس وقت حضرت سلیمان بن مرد رضی اللہ عنہ نے کہا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ خدا سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے اور جو جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ میری طرف آ جائے۔

حضرت سلیمان بن مرد رضی اللہ عنہ کو جب تیر لگے تو انہوں نے کہا کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔

امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ پھر میسب بن نجہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے ساتھیوں سے جا ملے یعنی شہید ہو گئے۔ اللہ ان پر رحمت فرمائے۔

تو ابوان میں سے بہت سے لوگ شہید ہو گئے اور بہت کم بچے جن کو رات کے اندھیرے میں رفاعہ بن شداد بچا کر لے گئے۔

تو ابوان کا حال امام ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے ابن کثیر، ج: 8، ص: 266، 276 پر لکھا ہے۔

کیلئے مختار کا قبضہ ہوا مگر مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ نے پھر کوفہ پر قبضہ کر لیا۔ عبدالملک بن مروان نے 72ھ میں حجاج بن یوسف کی قیادت میں شامی افواج عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجیں۔ اس فوج نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ چھ ماہ تک جاری رہا۔ محاصرے کے دوران منجیقوں سے مکہ پر پتھر برسائے گئے۔ محاصرہ سے تنگ آ کر ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کی بڑی تعداد ان کا ساتھ چھوڑ گئی۔ یہاں تک کہ ان کے بیٹے حمزہ اور خبیب بھی حجاج کی امان میں چلے گئے۔ لوگوں کی بے وفائی دیکھ کر آپ اپنی والدہ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور تمام حالات گوش گزار کئے۔ پھر کہا کہ میرے دشمن مجھے امان دینے پر آمادہ ہیں بتائیے کیا کروں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا بیٹے اپنے حالات سے تم خود کو زیادہ واقف ہو۔ اگر حق پر تھے تو قائم رہو۔ اپنی گردن دوسروں کے قبضہ میں مت دو کہ بنی امیہ کے نو عمر لڑکے اس سے کھیلتے پھریں۔ اگر تمہاری جدوجہد دنیا کیلئے تھی تو تم بدترین خلاق ہو کہ خود کو بھی مصیبت میں ڈالا اور ہندگان خدا کی جانیں بھی ناحق ضائع کیں۔ اگر تم خود کو حق پر جانتے ہو مگر لوگوں کی طرف سے ساتھ چھوڑنے پر کمزوری محسوس کرنے لگے ہو تو یہ شریف آدمی کا طریقہ نہیں ہے۔ دنیا میں تم ہمیشہ نہیں رہ سکتے۔

ماں کی باتیں سن کر آپ اپنی والدہ کے قریب ہوئے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا خدا کی قسم میں نے نہ تو دنیا کی طرف توجہ کی نہ میں یہاں مزید رہنا چاہتا ہوں۔ حکومت کیلئے کوشش ذاتی غرض کیلئے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیلئے تھی۔ پھر اور باتوں کے بعد ماں سے دعا کی درخواست کی۔ انہوں نے ان کے لیے دعا کی:

”اے اللہ تو اس کے لمبی راتوں میں طویل قیام اور مکہ و مدینہ کی گرم دوپہر میں عبادت، آہ و زاری اور روزے میں شدت پیاس برداشت کرنے اور اپنے باپ اور مجھ سے حسن سلوک کی وجہ سے رحم فرما۔ اے اللہ میں نے معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے۔ تو اس بارے میں جو بھی فیصلہ کرے، میں اس پر خوش ہوں۔ میرے بیٹے عبداللہ کی وجہ سے تو مجھے صبر اور شکر کرنے والوں

مختار ثقفی کی طرف سے شہداء کر بلا کا انتقام

مختار ثقفی کا قصہ امام ابن کثیر نے الہدایہ والنتہایہ ج: 8، ص: 284 تا 296 پر لکھا ہے۔ مختار صحابی رسول حضرت ابوعبید ثقفی رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا۔ تحریک تو ابون کے بعد وہ خون حسین رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کیلئے اٹھا۔ اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور کہا میں امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ اہل کوفہ کے نام خط لکھ دیں کہ مختار ہمارا آدمی ہے، اس کی مدد کریں۔ انہوں نے خط لکھ دیا۔ مختار یہ خط لکھ کر کوفہ آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں سے ملا مگر اس کو زیادہ پذیرائی نہ ملی کیونکہ وہ لوگ حضرت سلیمان بن صرد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ مختار انہی سرگرمیوں کی وجہ سے گرفتار ہو گیا۔ چونکہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا سالہ تھا، اس لیے ان کی سفارش پر رہا ہو گیا۔ تو ابون کی تحریک کے خاتمہ کے بعد مختار کو بڑی کامیابی ملی۔ لوگ اس کے پاس آنا شروع ہوئے۔ آہستہ آہستہ یہ تحریک زور پکڑنے لگی۔ پھر ابراہیم بن مالک الاشتر رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ وہ بہت بہادر اور قابل جرنیل تھے۔ مختار نے کوفہ پر قبضہ کر لیا اس نے پہلے اپنی حکومت کو مضبوط کیا اور بعد میں اس نے جن جن کر قاتلین حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا۔

عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت

یزید کی وفات کے بعد مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تھی۔ بعد میں کوفہ، بصرہ اور خراسان پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا تھا۔ کوفہ پر مختصر عرصہ

میں شامل کر۔“

اس کے بعد ماں بیٹا ملے، اور ماں کے کہنے پر آپ نے زرہ اتارادی۔ آخری رات ابن زبیر رضی اللہ عنہ ساری رات عبادت میں مشغول رہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تیار ہو کر لڑائی کیلئے نکلے۔ اس معرکے میں شریک حص کا سردار بیان کرتا ہے کہ 500 آدمیوں پر مشتمل دستے کو وہ اکیلے پسا کر دیتے تھے۔ ان کے پاس جانے کی کسی کی جرأت نہ تھی۔ حرم کعبہ کے تمام دروازوں پر شامیوں کا قبضہ ہو گیا تھا لیکن آپ اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے۔ آخر ایک اینٹ آپ کے چہرے پر لگی آپ لہو لہان ہو گئے دشمن نے گھیرا تنگ کیا اور بالآخر قتل کر دیا۔

حجاج نے آپ کا سر اتار کر پہلے مدینہ پھر عبدالملک کے پاس دمشق بھجوا دیا۔ ان کی لاش کو شہر سے باہر لٹکا دیا گیا کئی ماہ تک ایسے ہی لاش لٹکی رہی۔ ایک دن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا لوٹنے کے ساتھ وہاں گئیں اور جب معلوم ہوا کہ لاش ابھی تک لٹک رہی ہے تو فرمایا ”کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ سوار اپنی سواری سے اتر جائے۔ جب حجاج لعین کو اطلاع ہوئی تو اس نے لاش اتروا کر دفن کر دی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ الہدایہ و لنہایہ، ج: 8، ص: 354 تا 356 پر لکھا ہوا ہے۔

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی فضیلت

آپ بہت نیک اور عابد و زاہد صحابی تھے۔ راتوں کو لمبا قیام کرتے اور دن کو روزے سے رہتے۔ کئی کئی دن کا روزہ سحری و افطاری کے بغیر رکھتے تھے۔ اس کو صوم وصال کہتے ہیں۔ اس ریاضت نے انہیں بہت طاقتور بنا دیا تھا۔ ان کے والد زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے چھوٹے زاد بھائی تھے۔ ان کی والدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسماء رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عبداللہ کو بیٹا بنا رکھا تھا اور ان کے نام پر اپنی کنیت ام عبداللہ رکھی تھی۔ مدینہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے بارے میں یہودیوں نے مشہور کر دیا تھا کہ ہمارے جادو کی وجہ سے مسلمانوں کے کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا۔

ہجرت کے بعد جو پہلا بچہ پیدا ہوا وہ یہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے پیدا ہونے کی خبر سن کر صحابہ نے نعرہ بگیر بلند کیا تھا۔ اور ایک نعرہ بگیر حجاج لعین کی فوج نے ان کی شہادت پر بلند کیا تھا۔ آپ 7/8 سال کے تھے جب حضور ﷺ سے بیعت کی تھی۔

بخاری کتاب العقیقہ باب تسمیہ المولود غداة یولد لمن لم یعق عنه و تحنیکہ میں حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ان کو مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا پیٹ رہا۔ وہ پورے دنوں مکہ سے نکلتیں۔ جب مدینہ آئیں تو قبا میں اتریں۔ وہاں عبداللہ پیدا ہوئے۔ اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں عبداللہ کو لے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئی اور آپ ﷺ کی گود میں بٹھا دیا۔ ایک کھجور آپ نے منگوائی اور چبا کر اس کے منہ میں لعاب مبارک ڈالا۔ پہلی چیز جو عبداللہ کے پیٹ میں گئی وہ یہی لعاب دہن مبارک تھا۔ پھر چبائی ہوئی کھجور اس کے تالو میں لگائی اور برکت کی دعا دی۔ ہجرت کے بعد عبداللہ پہلے بچے تھے جو اسلام کے زمانہ میں پیدا ہوئے۔ مسلمانوں کو ان کے پیدا ہونے کی بہت خوشی ہوئی کیونکہ لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ یہودیوں نے تم پر جادو کر دیا ہے اور اب تمہارے اولاد پیدا نہیں ہوگی۔

یہی روایت بخاری میں باب ہجرة النبی و اصحابہ الی المدینة اور باب استحباب تحنیک المولود عند ولادة میں بھی آئی ہے۔

گردن مار دوں گا۔“

(احکام القرآن للخصاص، ج 1، ص 82، الکامل ابن اثیر ج 4، ص 41-4، 104-4)

فوات الوفيات، محمد بن شاکر الکلبی ج 2، ص 33)

مسلمانوں کے حکمرانوں نے عوام پر اتنا ظلم کیا کہ پھر یہ ”غیر اسلامی“ فقرہ

کہنے والا کم ہی پیدا ہوا کہ ”خدا سے ڈر۔“

عبدالملک کا خانہ کعبہ پر حملہ

جب یزید نے مکہ پر حملہ کیا اور کعبہ شریف کو اس میں نقصان پہنچا تو عبدالملک نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ مگر جب وہ خود حکمران بنا تو اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کیلئے حجاج بن یوسف کو مکہ بھیج دیا۔ اس ملعون نے عین حج کے موسم میں مکہ معظمہ پر چڑھائی کی جبکہ موسم حج میں زمانہ جاہلیت کے کفار و مشرکین بھی جنگ سے ہاتھ روک لیتے تھے۔ کوہ البقیس پر منجنیقیں لگا کر خانہ کعبہ پر سنگ باری کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سخت اصرار پر صرف اتنی دیر کیلئے یہ سنگ باری روکی گئی کہ باہر سے آنے والے حجاج کرام طواف وسیع کر لیں۔ لیکن نہ اس سال کے حج میں مکہ کے لوگ منیٰ اور عرفات جا سکے اور نہ خود حجاج کی فوج کے لوگ طواف وسیع کر سکے۔ باہر سے آنے والوں نے جب طواف زیارت کر لیا تو حجاج نے اعلان کیا کہ سب حاجی نکل جائیں اور از سر نو سنگ باری شروع کر دی۔ (اکمال ابن اثیر ج 4، ص 23، البدایہ والنہایہ، ابن کثیر ج 8، ص 329، تاریخ ابن خلدون ج 3، ص 37-38)

نسائی کتاب الحج باب إذا أهل بعمره هل يجعل معها حجاً میں حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حج کا ارادہ کیا جس سال حجاج ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے جنگ کیلئے آیا۔ لوگوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا جنگ ہونے والی ہے ایسا نہ ہو لوگ آپ کو روک دیں۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے رسول اللہ ﷺ بہترین

نمونہ ہیں۔ میں اس وقت وہی کروں گا جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے صلح حدیبیہ کے وقت کہا تھا میں تم کو گواہ کرتا ہوں۔ کہ میں نے خود پر عمرہ واجب کر لیا۔ پھر آپ نکلے۔ جب بیداء مقام پر پہنچے تو کہا حج و عمرہ ایک ہی ہیں۔ تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے حج واجب کیا عمرہ کے ساتھ اور ہدیٰ لے گئے جس کو مقام فزید سے خرید لیا تھا۔ پھر حج و عمرہ دونوں کا لبیک پکارتے مکہ آئے اور طواف کیا کعبہ کا صفاروہ کی سعی کی اور اس سے زیادہ نہ کیا نہ بال کتر وائے نہ کسی چیز کا استعمال کیا جو احرام میں حلال نہیں۔ جب دس ذوالحجہ ہوا تو نحر کیا، سر منڈوایا اور پھر دوبارہ طواف نہ کیا۔ حج قرآن میں ایسا ہی کرتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا ہی رسول اللہ ﷺ نے کیا تھا۔

کعبہ پر حملے کا یہ کارنامہ ہوامیہ نے دوبارہ سر انجام دیا۔ اس سے پہلے یزید بن معاویہ کی فوج کعبہ شریف پر حملہ کے لیے جا چکی تھی جیسا کہ مسلم کتاب الحج باب نقص الکعبہ و بنائہا میں روایت موجود ہے۔

فقہ عبدالملک

حکمران بننے سے پہلے یہ علماء کے پاس بیٹھتا تھا لہذا بعض لوگ اس کو بڑا فقیہہ جانتے ہیں۔ اس کی حقیقت اس روایت سے ظاہر ہوتی ہے جو بخاری کتاب الدیات باب القسامة کی آخری روایت میں ہے کہ ابوقلابہ کہتے ہیں کہ عبدالملک بن مروان نے اپنے دور میں قسامت کرا کر ایک شخص سے قصاص لیا، پھر اپنے کئے پر شرمندہ ہوا اور جن پچاس آدمیوں نے قسم کھائی تھی ان کا نام و طائف کے رجسٹر سے خارج کر دیئے اور ان کو شام کے ملک کی طرف جلاوطن کر دیا۔

عاقبت گرگ زادہ گرگ شود
گرچہ با آدی بزرگ شود

رئیس الخیشین حجاج بن یوسف

اس کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے۔ نمایاں جرائم میں سے ایک کعبہ شریف پر حملہ ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس نے ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ افراد کو چھری سے ذبح کرایا۔ جنگوں میں قتل ہونے والے بے شمار لوگ اس کے علاوہ ہیں۔ اس لیے احادیث میں اس کو ہلاکو، کذاب اور خنزیر کہا گیا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے اس کے منہ پر اس کو یہی کہا تھا۔

مسلم کتاب الفضائل باب ذکر کذاب ثقیف و مبیرھا میں ابو نفل سے روایت ہے جس میں

- (1) حجاج کی طرف سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بعد از قتل سولی پر لٹکا دینے کا ذکر ہے۔
- (2) حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے حجاج کی بدتمیزی کا ذکر ہے کہ اس نے بلایا اور کہا نہ آئی تو تمہارے چوٹے (سر کے بال) سے پکڑ کر گھسیٹ کر لے آئیں گے۔
- (3) رسول اللہ ﷺ کی طرف سے ہجرت کے وقت حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو ذات النطاقین (دو کمر بند والی) کا لقب دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے اپنا کمر بند پھاڑ کر سامان سفر باندھا تھا۔ حجاج ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا نام لیتے وقت اس لقب کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اس مذاق اڑانے کا ذکر ہے۔ یہ اسی طرح کا لقب ہے جیسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مٹی پر سونے دیکھ کر ابوتراب فرمایا۔
- (4) فرمان رسالت کا ذکر ہے کہ بنی ثقیف میں ایک بہت جھوٹا اور ہلاکو پیدا ہوگا۔ اور وہ ہلاکو یہی حجاج ہے۔

اس گستاخ رسول اور گستاخ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ دو دیگر صحابہؓ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ مجاہد صحابہ کرام؟
پوری روایت درج ذیل ہے۔

”ابو نفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ کی گھاٹی پر دیکھا۔ قریش کے لوگ ان کے پاس سے گزرتے تھے اور دوسرے لوگ بھی۔ (ان کو حجاج نے قتل کر کے سولی پر وہیں لٹکایا ہوا تھا) حتیٰ کہ ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ادھر آئے، وہاں کھڑے ہوئے اور (تین بار کہا) السلام علیک یا اباضیب، قسم خدا کی میں تمہیں منع کرتا تھا (یہ بھی تین بار کہا) اس سے (یعنی حکومت سے) اللہ کی قسم جہاں تک میں جانتا ہوں تم روزہ رکھنے والے، رات کو عبادت کرنے والے اور صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ اللہ کی قسم جس کے برے تم ہو وہ عمدہ گروہ ہے۔ یہ خبر جب حجاج کو ملی تو اس نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو سولی سے اتروا کر یہود کے قبرستان میں پھینکوا دیا۔ پھر حجاج نے ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کو بلایا، انہوں نے حجاج کے پاس آنے سے انکار کیا۔ حجاج نے پھر بلایا اور کہا تم آتی ہو تو ٹھیک ورنہ میں ایسے شخص کو بھیجوں گا جو تمہارا چوٹا (سر کے بال) پکڑ کر لے آئے۔ انہوں نے پھر بھی آنے سے انکار کیا (وہ ناپسندیدہ ہو چکی تھیں) اور فرمایا اللہ کی قسم میں تب تک نہ آؤں گی جب تک تو میرے پاس اسے نہ بھیجے جو مجھے چوٹے سے پکڑ کر گھسیٹتا ہو اتیرے پاس لے جائے۔ آخر حجاج نے کہا میرا جوتا لاؤ، وہ جوتا پہن کر اکڑتا ہوا چلا اور اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچا اور کہنے لگا تو نے دیکھا میں نے اللہ کے دشمن (ابن زبیر رضی اللہ عنہ) سے کیا کہا۔ اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا میں نے دیکھا کہ تو نے اس کی دنیا خراب کر دی اور اس نے تیری آخرت خراب کر دی۔ میں نے سنا ہے تو کہتا ہے اے دو کمر بند والی کے بیٹے، بے شک،

اللہ کی قسم میں دو کمر بند والی ہوں۔ ایک کمر بند میں تو میں رسول اللہ ﷺ اور ابی بکر رضی اللہ عنہ کا کھانا اٹھاتی تھی کہ جانور اس کو نہ ٹکالیں اور ایک کمر بند وہ تھا جو عورت کو درکار ہوتا ہے۔ اور یاد رکھ رسول اللہ ﷺ نے ہم سے بیان فرمایا تھا کہ بنی ثقیف میں ایک کذاب پیدا ہوگا اور ایک ہلا کو پیدا ہوگا۔ کذاب تو ہم نے دیکھ لیا اور ہلا کو تیرے سوا میں کسی کو نہیں سمجھتی۔ یہ سن کر حجاج اٹھ کھڑا ہوا اور اسماء رضی اللہ عنہا کو کوئی جواب نہ دیا۔“

مروانیوں کے دور میں نماز کی جو حالت تھی اس کی صحیح عکاسی حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک خادم رسول اللہ ﷺ نے کی۔ بخاری کتاب مواقیف الصلاة باب الصلوات الخمس کفارة میں زہری روایت کرتے ہیں کہ میں دمشق میں حضرت انس بن مالک کے پاس گیا۔ وہ در رہے تھے۔ میں نے پوچھا آپ کیوں در رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں نے جو چیزیں (عہد نبوی میں) دیکھیں، ان میں سے اب کوئی چیز نہیں پاتا مگر نماز، وہ نماز بھی برباد ہوگئی۔

اس حدیث کی شرح میں علامہ وحید الزماں لکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حجاج عالم کی جو عراق کا حاکم تھا، ولید بن عبد الملک بن مروان سے جو خلیفہ وقت تھا شکایت کرنے گئے تھے۔ حجاج نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی گردن پر گرم لوہے سے ٹھپہ لگا کر ان کو اندھا کر دیا تھا۔ خادم رسول گویہ انعام خدمت نبی ﷺ کا بنی امیہ نے دیا۔

اس باب میں اس حدیث سے پہلے غیلان بن جریر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں عہد نبوی کی کوئی بات اب نہیں دیکھتا۔ لوگوں نے کہا نماز! فرمایا نماز میں بھی تم لوگوں نے جو کر رکھا ہے سو کر رکھا ہے۔

مسلم کتاب المساجد باب استحباب التکبیر بالصیح فی اول وقتها وهو التغلبین و بیان قدر القرآۃ فیہا میں اور بخاری کتاب مواقیف الصلاة باب وقت المغرب میں محمد بن عمرو بن حسن بن

علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حجاج مدینہ کا حاکم بن کر آیا، نماز میں دیر کرنے لگا، تو ہم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبد اللہ صحابی سے نمازوں کے درست اوقات دریافت کئے۔

انہی مروانیوں کے دور میں حجاج کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک نے موت کی آرزو کرنا چاہی۔ بخاری کتاب التمنی باب ما یکرہ من التمنی میں عاصم بن سلیمان سے روایت ہے کہ انہوں نے نصر بن انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انس رضی اللہ عنہ بن مالک (خادم رسول اللہ ﷺ) نے کہا اگر میں نے نبی ﷺ سے یہ نہ سنا ہوتا کہ موت کی آرزو نہ کرو، تو میں موت کی آرزو کرتا۔ بخاری کتاب الفتن باب لایاتی زمان الا الذی بعده شر منه اور ترمذی ابواب الفتن باب ما جاء فی اشراط الساعة میں روایت ہے کہ زبیر بن عدی نے دوران ملاقات حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حجاج کے مظالم کی شکایت کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہر آنے والا سال بدتر ہوگا۔ یہاں تک کہ تم ملاقات کرو اپنے رب سے، یہ میں نے تمہارے نبی ﷺ سے سنا۔

ترمذی ابواب الفتن باب ما جاء فی ثقیف کذاب و میسرہا میں حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے بنی ثقیف کے قبیلہ میں ایک کذاب ہوگا اور دوسرا ہلا کو ہوگا۔

اس بارے میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کی روایت گزر چکی۔

بخاری کتاب الطب باب الدواء بالبان الابل میں سلام بن مسکین روایت کرتے ہیں کہ حجاج نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جوخت سے سخت سزا نبی ﷺ نے کسی کو دی وہ مجھ سے بیان کرو۔ انہوں نے عکل یا عرینہ کے مرتدوں کو دی گئی سزا کا اس سے ذکر دیا۔ حجاج نے اس حدیث کو لوگوں کو سزا دینے کا بہانہ بنالیا۔

امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر ملی کہ انس رضی اللہ عنہ نے حجاج کو یہ سزا بتادی ہے تو انہوں نے کہا کاش انس رضی اللہ عنہ یہ حدیث حجاج سے بیان نہ کرتے۔

بخاری کتاب الفتن باب التعرب فی الفتنہ میں حضرت سلمہ بن اکوع (مشہور بہادر تیز دوڑنے والے تیر انداز) حجاج سے ملنے گئے تو حجاج نے (انتہائی بدتمیزی سے) کہا اے اکوع کے بیٹے تو اسلام سے ایڑیوں کے بل پھر گیا پھر سے جنگلی بن گیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بن اکوع نے فرمایا میں اسلام سے نہیں پھرا۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ کو خاص طور پر جنگل میں رہنے کی اجازت عطا فرمائی تھی۔ اور یزید بن عبید سے مروی ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو سلمہ بن اکوع مدینہ سے نکل کر ربذہ میں رہے اور وہاں ایک عورت سے نکاح کیا۔ اس سے اولاد بھی پیدا ہوئی۔ سلمہ بن اکوع عمر بھر وہیں رہے۔ مرنے سے چند راتیں پہلے مدینہ آگئے اور وہیں انتقال فرمایا۔

مسلم کتاب الامارات باب تہ ریم رجع المهاجر الی استیطان وطنہ میں ہے کہ سلمہ بن اکوع حجاج کے پاس گئے نو وہ رہا۔ اکوع کے بیٹے تو مرتد ہو گیا۔ پھر جنگل میں رہنے لگا۔ سلمہ نے کہا نہیں بلکہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ کو اجازت دی جنگل میں رہنے کی۔

اس کی شرح میں علامہ وحید الزمار لکھتے ہیں کہ حجاج مردودان کی جنگل میں رہائش کو بہانہ بنا کر ہجرت توڑنے کا الزام لگانا چاہتا تھا تا کہ ان کو قتل کر سکے کہ یہ مرتد ہو گئے ہیں۔ سلمہ رضی اللہ عنہ نے جو جائزیاں آنحضرت ﷺ کے ساتھ کی تھیں وہ حجاج کے باپ کو بھی نصیب نہیں ہوئیں۔ بقول شخصے موجی کو عطر کی کیا قدر!

مسلم کتاب الایمان باب اثبات الشفاعۃ و اخراج الموحدين من النار میں حدیث شفاعت کبریٰ (جو روزِ حشر ہوگی) معبد بن ہلال عنزی حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک سے روایت کرتے ہیں۔ معبد روایت بیان

کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پھر ہم انس رضی اللہ عنہ کے پاس سے نکلے اور جنان (قبرستان) کی بلندی پر پہنچے تو ہم نے کہا کاش ہم حسن بصری رضی اللہ عنہ کی طرف چلیں اور ان کو سلام کریں، اور وہ (حسن بصری رضی اللہ عنہ) ابوخلیفہ کے گھر میں (حجاج کے ڈر سے) چھپے ہوئے تھے۔ پھر وہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور حدیث شفاعت کبریٰ دوبارہ پڑھی۔

مسلم کتاب الایمان کی پہلی حدیث کی شرح میں علامہ وحید الزماں لکھتے ہیں کہ معبد بن خالد جہنی جو حسن بصری رضی اللہ عنہ کا شاگرد تھا اور اس نے سب سے پہلے تقدیر میں گفتگو کی بصرے میں پھر بصرے والے اس کی راہ پر چلنے لگے۔ اس کو حجاج نے باندھ کر قتل کیا۔ جب کہ رسول اللہ ﷺ نے باندھ کر قتل کرنے سے منع کیا ہے جیسا کہ بخاری کتاب الذبائح باب ما یکرہ من المثلۃ والمصبورۃ و المجثمۃ میں ہے۔

تحفۃ اثناء عشریہ میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ عنہ ص: 137 پر لکھتے ہیں کہ حجاج بدترین نواصب میں سے تھا۔ نواصب اپنی دولت اور سلطنت کا قیام اسی میں جانتے تھے کہ جناب امیر رضی اللہ عنہ کی جناب میں اپنا منہ کالا کرتے رہیں۔ اس صفحہ پر شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ بن مالک کہ خادم خاص رسول اللہ ﷺ کے اور عمدہ صحابیوں سے جو تھے، ان کو ذلیل اور حقیر کرتا تھا۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ اور اس زمانے کے بزرگوں کو مار ڈالنے کے واسطے کوئی کوشش تھی جو اس نے اٹھا رکھی تھی؟

حجاج نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کدی (گردن کا پچھلا حصہ) پر ٹھپہ لگا کر ناپینا کر دیا۔ (مسند رک حاکم، ج: 3، ص: 583-584)

حجاج نے نو مسلموں پر جزیہ لگا دیا

ابن اثیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حجاج بن یوسف (عراق کے دائسرائے) کو

اس کے عاملوں نے لکھا کہ ذی کثرت سے مسلمان ہو رہے ہیں اور اس سے جزیہ وخراج کی آمدن گھٹ رہی ہے۔ اس پر حجاج نے حکم جاری کیا کہ ان لوگوں کو شہروں سے نکالا جائے اور ان پر حسب سابق جزیہ لگایا جائے۔ اس حکم کی تعمیل میں جب یہ نو مسلم بصرہ و کوفہ سے نکالے جا رہے تھے تو وہ یا محمد، یا محمد، یا محمد، پکار کر روتے جاتے تھے اور ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس ظلم کی فریاد کہاں کریں۔ اس صورت حال پر بصرہ و کوفہ کے فقہاء چیخ اٹھے اور جب یہ نو مسلم روتے پٹتے شہروں سے نکلے تو علماء اور فقہاء بھی ان کے ساتھ روتے جاتے تھے۔ (اکمال ابن اثیر، ج: 4، ص: 79)

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ ہوئے تو خراسان سے ایک وفد نے آ کر شکایت کی ہزار ہا آدمی جو مسلمان ہوئے تھے، سب پر جزیہ لگا دیا گیا ہے اور گورنر کے تعصب کا یہ حال ہے کہ وہ علانیہ کہتا ہے ”اپنی قوم کا ایک آدمی مجھے دوسرے سو آدمیوں سے زیادہ عزیز ہے۔“ اس شکایت پر آپ نے الجراح بن عبداللہ الحکمی کو معزول کر دیا اور اپنے فرمان میں لکھا کہ ”اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بنا کر بھیجا تھا نہ کہ تحصیلدار۔“

(طبری ج: 5، ص: 314، اکمال ابن اثیر ج: 4، ص: 158، البدایہ والنہایہ، ج: 9، ص: 188)

حجاج کے بارے میں فیصلہ کن رائے

مشہور امام قراءت عاصم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ”اللہ کی حرمتوں میں سے کوئی ایسی حرمت نہیں رہ گئی جس کا ارتکاب اس شخص نے نہ کیا ہو۔“

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”اگر دنیا کی تمام قومیں خیانت کا مقابلہ کریں اور اپنے سارے خبیث لے آئیں تو ہم تمہا حجاج کو پیش کر کے ان پر بازی لے جاسکتے ہیں۔“

حجاج عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کو جو سابقوں الاولوں میں سے ہیں، سردار

منافقین کہتا تھا۔ اس کا قول تھا کہ اگر عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ مجھے مل جاتے تو ان کے خون سے زمین کی پیاس بجھاتا۔“ اس نے اعلان کیا تھا کہ ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کی قراءت پر جو قرآن مجید پڑھے گا تو اس کو قتل کر دوں گا۔ اور قرآن مجید میں سے اس کی قراءت کو اگر سور کی ہڈی سے بھی چھیلنا پڑا تو چھیل دوں گا۔ اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک اور حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ جیسے بزرگوں کو گالیاں دیں اور ان کی گردن پر مہریں لگوائیں۔ اس نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کی دھمکی دی بعد میں قتل کرا بھی دیا۔ وہ علانیہ کہتا تھا کہ اگر میں لوگوں کو مسجد کے ایک دروازے سے نکلنے کا حکم دوں اور وہ دوسرے دروازے سے نکلیں تو میرے لیے ان کا خون حلال ہے۔ اس کے زمانہ میں جو لوگ قید کی حالت میں بغیر عدالتی فیصلہ کے قتل کئے گئے صرف ان کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار بتائی جاتی ہے۔ وہ جب مرا تو اس کے قید خانوں میں 80 ہزار بے قصور انسان کی مقدمے اور کسی عدالتی فیصلے کے بغیر مر رہے تھے۔

اور اس ظالم کے حق میں خبیث ابن شیطان عبدالملک بن مروان نے اپنی اولاد کو مرتے وقت وصیت کی تھی:

”حجاج بن یوسف کا ہمیشہ لحاظ کرتے رہنا کیونکہ وہی ہے جس نے ہمارے لیے

سلطنت، ہمواری، دشمنوں کو مغلوب کیا اور ہمارے خلاف اٹھنے والوں کو دبا دیا۔“

ان تفصیلات کیلئے ملاحظہ ہو الاستیعاب ابن عبدالبر ج: 1، ص: 35، ج: 2، ص: 571

اکمال ابن اثیر، ج: 4، ص: 29 - 103 - 133، البدایہ والنہایہ، ج: 9،

ص: 2-67-83-91-128-129-131-138، ابن خلدون، ج: 3، ص: 39-58

یہ وصیت اس ذہنیت کی پوری نمائندگی کرتی ہے جس کے ساتھ یہ لوگ حکومت کر رہے تھے۔ ان کی نگاہ میں اصل اہمیت اقتدار کی تھی۔ اس کا قیام و استحکام جس ذریعہ سے بھی ہو، مستحسن تھا، قطع نظر اس سے کہ شریعت کی تمام حدیں اس کی خاطر توڑ دی جائیں۔

یہ ظلم و ستم اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ ولید بن عبد الملک کے زمانہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ حج اٹھے کہ ”عراق میں حجاج، شام میں ولید، مصر میں قرہ بن شریک، مدینہ میں عثمان ابن حبان، مکہ میں خالد بن عبد اللہ القسری، خداوند اتیری دنیا ظلم سے بھر گئی ہے۔ اب لوگوں کو راحت دے۔“

(اکمال ابن اثیر، ج: 4، ص: 132)

سیاسی ظلم و ستم کے علاوہ یہ لوگ عام دینی معاملات میں بھی انحراف پسند ہو گئے تھے۔ نمازوں میں تاخیر ان کا معمول تھا۔ (البدایہ والنہایہ، ج: 9، ص: 89)

جمعہ کا خطبہ بیٹھ کر دیتے تھے۔ (اکمال ابن اثیر، ج: 4، ص: 119)

عید کی نماز کا خطبہ نماز عید سے پہلے دیتے تھے۔ (طبری، ج: 6، ص: 26، البدایہ والنہایہ، ج: 8، ص: 258، ج: 10، ص: 30-31، اکمال ابن اثیر، ج: 4، ص: 300)

ایں خانہ ہمہ آفتاب است

بخاری کتاب الذبائح باب ما یکرہ من المثلث والمصبورة والمجثمة میں ہشام بن زید سے روایت ہے کہ میں انس رضی اللہ عنہ اپنے دادا، کے ساتھ حکم بن ایوب کے پاس گیا۔ وہاں لڑکوں یا نو جوانوں کو دیکھا کہ وہ مرغی کو باندھ کر اس پر تیر اندازی کر رہے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح باندھ کر جانوروں پر نشانہ بازی سے منع فرمایا ہے۔

اس کی شرح میں علامہ وحید الزماں لکھتے ہیں کہ حکم بن ایوب حجاج ظالم کا چچا زاد بھائی تھا اور بصرے میں اس کا نائب تھا۔ یہ بھی حجاج کی طرح ظالم تھا۔ مسلم کتاب الجمعہ میں روایت ہے کہ کعب بن عجرہ مسجد میں داخل ہوئے اور ام الکلیم کا بیٹا عبد الرحمن بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا تو انہوں نے کہا اس خبیث کو دیکھو کہ بیٹھے بیٹھے جمعہ کا خطبہ پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”اور جب دیکھتے ہیں کسی تجارت یا کھیل کو تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور

تجھ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں۔“

کتاب الجمعہ میں ہی عمارہ بن رویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بشر بن مروان کو دیکھا کہ منبر پر دونوں ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کیلئے، تو عمارہ نے کہا اللہ خراب کرے ان دونوں ہاتھوں کو میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس سے زیادہ نہ کرتے تھے اور اشارہ کیا انگشت شہادت سے۔

یہی روایت نسائی کتاب الجمعہ باب الاشارة فی الخطبہ میں بھی عمارہ بن رویہ سے آئی ہے۔

بخاری کتاب الجمعہ باب اذا اشتد الحر يوم الجمعة میں انس رضی اللہ عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ ہم دور نبوی میں جب سخت سردی ہوتی تو جمعہ جلدی پڑھتے تھے اور جب سخت گرمی ہوتی تو جمعہ ٹھنڈے وقت پڑھتے۔

اس روایت کی شرح میں علامہ وحید الزماں قسطنطینی کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ جس امیر کا جمعہ پڑھانے کا ذکر اس میں ہے اس کا نام حکم بن ابی عقیل ثقفی تھا۔ یہ حجاج ظالم کا چچا زاد بھائی اور نائب تھا اور حجاج مردود کی طرح یہ بھی خطبہ کو اتنا لبا کرتا تھا کہ نماز کا اخیر وقت ہو جاتا۔ بعد میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ولید بن عبد الملک خطبہ دے رہا تھا۔ اس نے خطبہ اتنا طویل کیا کہ عصر کا وقت بھی گزرنے لگا۔ ایک تابعی زیاد بن جاریہ امی رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آیا جس نے نمازوں کے اوقات تبدیل کئے ہوں اور سورج بھی آپ کا انتظار نہیں کرتا۔ اللہ کا خوف کرو اور نماز جمعہ جلدی پڑھاؤ۔ ولید نے کہا تم نے بات درست کی مگر تمہارا مقام یہ نہیں ہے۔ اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا، انہوں نے تابعی رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اسے شہید کر کے سر لا کر مسجد میں پھینک دیا۔

(الاصابہ نمبر شمار 3006، ج: 3، ص: 49، ابن عساکر، العقد الفرید، ج: 1، ص: 62)

یہ کام ولید سے پہلے سے شروع تھا۔ مروان بن الحکم نے اپنے گورنری مدینہ کے زمانہ میں حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کو اس تصور پر لات مار دی کہ انہوں نے اس کی ایک

بات پر کہہ دیا تھا کہ آپ نے یہ بری بات کہی ہے۔ (الاستیعاب ابن عبد البر، ج: 1، ص: 353)
حجاج بن یوسف کو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے خطبہ لمبا کرنے اور نماز
جمعہ میں حد سے زیادہ تاخیر پر ٹوکا تو حجاج نے کہا ”میرا ارادہ ہے کہ تمہاری یہ دونوں آنکھیں
جس سر میں ہیں، اس پر ضرب لگاؤں۔“

الاستیعاب، ج: 1، ص: 369، طبقات ابن سعد، ج: 4، ص: 184 پر بھی اس
سے ملتا جلتا واقعہ ملتا ہے۔

ولید بن یزید بن عبد الملک

بنو امیہ کی برائیوں کا نقطہ عروج یہ شخص ولید بن یزید بن عبد الملک تھا۔ یہ نہایت
بدکار، فاسق، شرابی اور حرام کاریوں کا مرتکب تھا۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ کعبہ کی چھت پر بیٹھ
کر شراب نوشی کروں۔ جب اس کے خلاف بغاوت ہوئی اور اس کا سر کاٹ کر نیزے پر لٹکایا
گیا تو اس کے بھائی سلیمان بن یزید بن عبد الملک نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص
بہت بڑا شرابی، بخت بے شرم اور نہایت فاسق تھا بلکہ مجھ سے بھی اғلام بازی کرنا چاہتا تھا۔
جب ولید نے باغیوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تم مجھ کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو تو
انہوں نے کہا تو نے شراب نوشی کی، اللہ کے حرام کو حلال کیا، سوتیلی ماؤں سے نکاح کیا اور
اللہ کے احکام کی حقارت کی۔

کتاب مسالک میں ابن فضل اللہ کہتے ہیں کہ ولید بن یزید ظالم، سرکش،
بے راہ، جھوٹے وعدے کرنے والا، اپنے زمانہ کا فرعون، زمانے بھر کا عیب
دار، قیامت میں اپنی قوم کو جہنم لے جانے والا، اپنی قوم کیلئے باعث شرم،
ہلاک ہونے والا، قرآن پاک کو تیروں سے چھیدنے والا، فاسق و فاجر
تھا۔“ (تاریخ الخلفاء، اردو، امام سیوطی رحمہ اللہ، ص: 316، 318 مختصراً)

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَعَلَى
سائر الانبياء والمرسلين

یاداشتیں